

ردِّ قادیانیت

رسائل

شیخ التفسیر والحديث

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی

احکام قادیانیت

دوم

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت

حضورى باغ روڈ، ملتان - فون: 514122

مستقبل دینیت

جلد دوم

مجموعہ مسائل

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی

سبب الختام

مختصرات مستند الامام
محمد بن حنفیہ

اسلام اور سوشلیزیم
اصول و اختلاف

شہادت و نبوت

الاحلام

الفتنہ الربویۃ والاسلام

الذوالحججہ

نزول انجیل و کتابت

دعویٰ مرزا

کتاب اللہ

مبایع نبوی اللہ
تحت مہدی بیستم

حضرت موفیہ کرام

مولانا محمد قاسم نانوتوی
منازلوں کا پرستان و انظر

لغات فقہیہ

اسلامی اصطلاحات
حجیم

احسن البیان

محقق تلامذہ اکفوان
بہن سہولوں کا عالم کون؟

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان پاکستان

پندرہ روزہ

احساب قادیانیت (جلد دوم)	=	نام کتاب	<input type="checkbox"/>
حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رھیلجی	=	مصنف	<input type="checkbox"/>
گیارہ سو	=	تعداد	<input type="checkbox"/>
فراز کپوزنگ سنٹر، اردو بازار، لاہور	=	کپوزنگ	<input type="checkbox"/>
150 روپے	=	قیمت	<input type="checkbox"/>
شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور	=	مطبع	<input type="checkbox"/>
جون 1997ء	=	اشاعت اول	<input type="checkbox"/>
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت	=	ناشر	<input type="checkbox"/>
حضورى باغ روڈ، ملتان - فون 514122			

ملنے کا پتہ:

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، حضورى باغ روڈ، ملتان

فہرست

۵	حرف آغاز	□
۹	مسک الختنام فی ختم نبوت سید الانام المعروف ختم نبوت	①
۹۵	شرائط نبوت	②
	حضرات صوفیاء کرام اور مولانا محمد قاسم نانوتویؒ پر	③
۱۳۷	مرزائیوں کا بہتان اور افتراء	
۱۳۹	الاعلام بمعنی الکشف والوحی والالہام	④
۱۶۱	کلمتہ اللہ فی حیات روح اللہ المعروف حیات عیسیٰ علیہ السلام	⑤
۲۶۳	القول المحکم فی نزول ابن مریم علیہ السلام	⑥
۳۱۵	لطائف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام	⑦
۳۳۵	اسلام اور مرزائیت کا اصولی اختلاف	⑧
۳۵۵	دعاوی مرزا	⑨
	احسن البیان فی تحقیق مسئلۃ الکفر والایمان	⑩
۴۰۳	یعنی مسلمان کون اور کافر کون؟	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ ۱۹۰۰ء میں کاندھلہ ضلع مظفر نگر میں پیدا ہوئے اور ۲۶ جولائی ۱۹۷۳ء کو لاہور میں واصل الی الحق ہوئے۔ ابتدائی تعلیم خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون میں اور اعلیٰ تعلیم مظاہر العلوم سارن پور اور دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیریؒ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ مفتی عزیز الرحمن عثمانیؒ اور مولانا رسول خان ہزارویؒ ایسے ناخدا روزگار آپ کے اساتذہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند میں پڑھنا ہی باعث صد افتخار ہے، چہ جائیکہ وہاں پر پڑھانے کا کسی کو شرف حاصل ہو جائے، حضرت مولانا کاندھلوی مرحوم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے جن اساتذہ سے پڑھا تھا، انہی کی سرپرستی میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے بھی رہے۔ علاوہ ازیں مدرسہ امینیہ دہلی، حیدر آباد دکن، جامعہ عباسیہ بہاول پور اور جامعہ اشرفیہ لاہور ایسے مشہور عالم جامعات میں آپ شیخ التفسیر و شیخ الحدیث کے عہدہ پر فائز رہے۔

حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آپ کو فتنہ میاں قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی قدرت نے تڑپ نصیب فرمائی تھی۔ حضرت مولانا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں تدریس کے زمانہ میں وہ خود، حضرت مولانا بدر عالم میرٹھیؒ اور حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کو قادیانیت کے خلاف قلمی جہاد پر استاذ مکرم حضرت شاہ صاحبؒ نے لگا دیا تھا اور موضوع بھی تقسیم فرمادیئے تھے۔ اس دور میں مختلف معروف زمانہ مناظروں میں بھی ان حضرات نے اپنے اکابر کی سرپرستی میں نہ صرف شرکت فرمائی بلکہ کامیابی و کامرانی سے قدرت حق نے ان کو سرفراز فرمایا۔ حضرت کاندھلویؒ اپنے استاذ حضرت شاہ صاحبؒ کی خواہش و حکم پا کر فتنہ قادیانیت

کے خلاف ایسے صف آراء ہوئے کہ آخری عمر تک برابر اس جہاد کو جاری رکھا۔ آپ نے قادیانیت کے خلاف جو رسائل و کتب تصنیف فرمائے، ان میں سے بعض تو بارہا شائع ہوئے اور بعض ایک آدھ بار چھپ کر تباہ ہو گئے اور اب تو تقریباً تمام کے تمام بازار سے عنقا ہیں۔

فقیر کی خواہش تھی کہ ان سب کو جمع کر کے ایک ”حسین گلدستہ“ کی شکل میں، آنے والی نسل کے لیے محفوظ کر دیا جائے تاکہ مصنف کا یہ فیض جاری رہے۔ مصنف مرحوم کا ذاتی کتب خانہ و مسودہ جات لاہور کے ایک دینی ادارہ میں محفوظ ہیں۔ فقیر وہاں پر حاضر ہوا کہ شاید کوئی غیر مطبوعہ مسودہ کی نشاندہی ہو جائے یا آپ کی کتابوں میں سے کوئی تباہ کتب دیکھنے کو مل جائیں۔ اس ادارہ کے بعض ذمہ دار حضرات نے بہت زیادہ کرم اور محبت کا مظاہرہ فرمایا۔ لیکن ان کتابوں و مسودہ جات کو دیکھنے کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر کے صبر آزما مرحلے سے گزر کر جب اس کتب خانہ میں موجود شخصیت سے ملا۔ تو بس ”زاغوں کے تصرف میں ہیں عقابوں کے نشین“ والا معاملہ پایا۔ بہت مایوسی ہوئی۔ بایں ہمہ بجزہ تعالیٰ مجھے ننانوے فیصد یقین ہے کہ حضرت مرحوم نے قندہ قادیانیت کے خلاف جو کچھ تحریر فرمایا تھا، وہ تمام کا تمام اس مجموعہ میں شامل ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر و فترلمان کو یہ شرف حاصل ہے کہ قدیم و جدید رو قادیانیت کی کتب کو شایان شان طریقہ پر شائع کرنے کا ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے جس پر جتنا رب کریم کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ التصریح بما تو اترنی نزول المسیح۔ خاتم النبیین (فارسی و اردو ترجمہ) ہدیۃ المہدین، ہدیۃ الممترین، عن غایتہ المفتری۔ رئیس قادیان۔ شہادۃ القرآن، کلمہ فضل رحمانی۔ مرزائی نامہ اور دیگر کتب کی اشاعت کے علاوہ ابھی حال ہی میں قادیانی مذہب کا علمی محاسبہ از پروفیسر الیاس برنی مرحوم کا جدید حوالہ جات کی تخریج کر کے کمپیوٹر پر اسے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مناظر اسلام مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری کے قادیانیت پر رسائل کا عرصہ ہوا مجموعہ شائع کیا تھا۔ ابھی مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر کے رو قادیانیت پر رسائل کے مجموعہ کے حوالہ جات

کی تخریج کر کے دوسری بار شائع کیا ہے۔ مجھہ تعالیٰ حضرت حکیم العصر مولانا محمد یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم کے رسائل و مقالہ جات کے مجموعہ کی ”تحفہ قادیانیت“ کے نام سے تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور اب یہ مجموعہ پیش خدمت ہے۔ یوں تو حضرت کاندھلوی مرحوم کی شاید ہی کوئی تصنیف ہو جس میں قادیانیت کے خلاف کچھ نہ کچھ آپ نے تحریر نہ فرمایا ہو لیکن اس عنوان پر مستقل آپ کے دس رسائل و کتب ہیں جن کے نام یہ ہیں۔

(۱) مسک الختام فی ختم نبوت سید الانام المعروف ختم نبوت۔ (۲) شرائط نبوت (۳) حضرات صوفیاء کرام اور مولانا محمد قاسم نانوتوی پر مرزائیوں کا بہتان و افتراء (۴) الاعلام معنی الکشف والوحی والالہام (۵) کلمتہ اللہ فی حیات روح اللہ المعروف حیات عیسیٰ علیہ السلام (۶) القول المحکم فی نزول ابن مریم علیہ السلام (۷) لطائف الحکم فی اسرار نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام (۸) اسلام اور مرزائیت کا اصولی اختلاف۔ (۹) وعادی مرزا (۱۰) احسن البیان فی تحقیق مسئلہ الکفر والایمان۔ یعنی مسلمان کون ہے اور کافر کون؟ مجھہ تعالیٰ یہ تمام کے تمام اس مجموعہ میں شامل ہیں۔

حضرت مرحوم نے قادیانی کتب کے حوالہ جات نقل کرنے میں بعض جگہ کتب کا نام درج فرمایا، صفحات کا ذکر نہیں فرمایا تھا۔ بعض جگہ حوالہ کا مفہوم نقل فرمادیا۔ اور بعض جگہ ”عیان راچہ بیان“ کے تحت حوالہ ہی نہیں دیا۔ بعض مقامات پر مختلف عبارتوں کے اقتباس نقل کر دیئے جو بظاہر ایک کتاب کا حوالہ معلوم ہوتا تھا (لیکن مجھہ تعالیٰ ایک حوالہ بھی ایسا نہیں تھا جو موجود نہ ہو) اور اب اس عنوان پر کام کرنے والوں کو ایک نئی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ قادیانی کتب کے جدید ایڈیشنوں کے صفحات کا قدیم ایڈیشنوں کے صفحات سے زمین آسمان کا اتنا فرق ہے۔ جتنا کفر مرزا اور اسلام کا۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ ان تمام حوالہ جات کو لفظاً لفظاً پڑھ کر ان تمام متذکرہ امور کی تلافی کر دی جائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ایسے ہو گیا ہے۔ اب یہ اس موضوع پر ایک بالکل کامل و مکمل دستاویز تیار ہو گئی ہے۔

تفسیر و حدیث اور دیگر دینی کتب کے حوالہ جات کو چیک کرنے کی فقیر میں نہ صلاحیت ہے اور نہ ہی حضرت مرحوم کے ان حوالہ جات کو چیک کرنے کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ قادیانی کتب کے حوالہ جات کی تلاش میں برادر عزیز مولانا قاضی احسان احمد صاحب (ٹوبہ) اور فوٹو سٹیٹ کرنے کے سلسلہ میں برادر عزیز قاری حفیظ اللہ نے معاونت کی۔ کتاب مکمل کر کے برادر م کرم محمد متین خالد کو بھجوائی حسب سابق آپ نے بھرپور محنت کر کے اس کے باقی ماندہ مراحل مکمل کئے، اللہ رب العزت ان تمام حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائیں۔ (آمین) امیر مرکزی خواجہ خواجگان حضرت اقدس مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عزیز الرحمن جالندھری مدظلہ العالی نے اس مجموعہ کو شائع کرنے کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس پر بھرپور خوشی و انبساط کا اظہار بھی فرمایا۔ انہی اکابر کی دعاؤں سے یہ کام مکمل ہوا ہے۔ حق تعالیٰ اس حقیر محنت کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ آمین بحرمتہ التبی الامسی الکریم۔

طالب دعا

فقیر اللہ و سایا

ملتان

۲۳-۱۰-۱۹۳۱ء

۳-۳-۱۹۹۷ء

مسك الختام

في

ختم نبوت سيد الانام

القرن

ختم نبوت

تہمید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین والعاقبة للمتقین والصلوة والسلام
 علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبینا محمد خاتم الانبیاء و
 المرسلین و علی الو اصحابہ و نزواجہ و ذریاتہ اجمعین و علینا
 معهم یا رحم الراحمین ط

اما بعد: بدوے نابکار و گنہ گار محمد اور یس کا نہ حلوی کان اللہ لہ و کان ہو اللہ
 (آمین) اللہ اسلام کی خدمت میں عرض پر واز ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ان اجماعی
 عقائد میں سے ہے کہ جو اسلام کے اصول اور ضروریات دین میں شمار کئے گئے ہیں
 اور عہد نبوت سے لیکر اس وقت تک ہر مسلمان اس پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ
 آنحضرت ﷺ بلا کسی تاویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں اور یہ مسئلہ
 قرآن کریم کی صریح آیات اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔
 جس کا منکر قطعاً "کافر مانا گیا ہے اور کوئی تاویل و تخصیص اس بارہ میں قبول نہیں کی
 گئی۔

امت محمدیہ میں سب سے پہلا اجماع جو ہوا وہ اسی مسئلہ پر ہوا کہ مدعی
 نبوت قتل کیا جائے۔ نبی اکرم ﷺ کے اخیر زمانہ میں میلہ کذاب نے نبوت
 کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر ﷺ نے خلافت کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ
 میلہ کذاب کے قتل اور اس کی امت کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے خالد بن ولید
 ﷺ سیف اللہ کی سرکردگی میں صحابہ کرام کا ایک لشکر روانہ کیا۔ اس بارے میں نہ

کسی نے تردید کیا اور نہ کسی نے یہ سوال کیا کہ میلہ کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مستقل نبوت کا مدعی ہے یا نقلی اور بروزی نبوت کا مدعی ہے اور نہ کسی نے میلہ سے اس کی نبوت کے دلائل و براہین پوچھے اور نہ معجزات کا مطالبہ کیا۔ صحابہ کرامؓ کا لشکر میلہ کذاب سے جہاد کے لیے یمامہ روانہ ہوا۔ اس مقابلہ اور معرکہ میں جو لوگ میلہ کے ساتھ میدان کارزار میں آئے تھے ان کی تعداد چالیس ہزار مسلح جوانوں کی تھی جن میں سے اٹھائیس ہزار مارے گئے اور میلہ بھی مارا گیا۔ باقی ماندہ لوگوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ خالد بن ولیدؓ بہت سامان غنیمت لے کر مظفر و منصور مدینہ واپس آئے۔

یہاں ایک امر قابل غور ہے وہ یہ کہ صدیق اکبرؓ نے اس نازک وقت میں مدعی نبوت اور اس کی امت سے جہاد و قتال کو یہود اور نصاریٰ اور مشرکین سے جہاد و قتال پر مقدم سمجھا۔ جس سے معلوم ہوا کہ مدعی نبوت اور اس کی امت کا کفر یہود اور نصاریٰ اور مشرکین کے کفر سے بڑھا ہوا ہے۔ عام کفار سے صلح ہو سکتی ہے ان سے جزیہ قبول کیا جاسکتا ہے مگر مدعی نبوت سے نہ کوئی صلح ہو سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی جزیہ قبول کیا جاسکتا ہے۔ اس وقت اگر آج کل جیسے سیاسی لوگ ہوتے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ کو مشورہ دیتے کہ باہمی تفرقہ مناسب نہیں۔ میلہ کذاب اور اس کی امت کو ساتھ لے کر یہود اور نصاریٰ کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا الشاہ سید محمد انور کشمیری قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میلہ کذاب اور میلہ پنجاب کا کفر فرعون کے کفر سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے کہ فرعون مدعی الوہیت تھا اور الوہیت میں کوئی التباس اور اشتباہ نہیں، ادنیٰ عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص کھاتا اور پیتا اور سوتا اور جاگتا اور ضروریات انسانی میں جلا ہوتا ہے وہ خدا کہاں ہو سکتا ہے؟ میلہ مدعی نبوت تھا اور انبیاء کرام جنس بشر سے تھے اس لیے ظاہری بشریت کے اعتبار سے سچے نبی اور جھوٹے نبی میں التباس ہو سکتا ہے اس لیے مدعی نبوت کا فتنہ مدعی الوہیت کے فتنہ سے کہیں اہم اور اعظم ہے اور ہر زمانہ میں، خلفاء اور سلاطین اسلام کا یہی معمول رہا کہ جس نے نبوت کا

دعوئی کیا اسی وقت اس کا سر قلم کیا۔

اہل حق نے اس فتنہ کے استیصال کے لیے جو سعی اور جدوجہد ممکن تھی اس میں دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ صدیق اکبر ؑ کی طرح مدعی نبوت سے جماد بالسیف و السنان تو ارباب حکومت کا کام ہے اور جماد قلمی اور لسانی یہ علماء حق کا کام ہے۔ سو الحمد للہ علماء نے اس جماد میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تقریر اور تحریر سے ہر طرح سے مدعی نبوت کا مقابلہ کیا۔ مسلمانوں کی اب دلی تمنائیں اور دعائیں یہ ہیں کہ اے پروردگار تو نے اپنی رحمت سے یہ اسلامی حکومت (پاکستان) عطا فرمائی۔ اب ہم کو کوئی ایسا امیر عطا فرما کہ جو ابوبکر صدیق ؓ کی طرح پاکستان کو میلہ قادیان اور اسود ہندی کے فتنہ سے پاک فرماوے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی امیر اس سنت کو زندہ تو کر کے دیکھے انشاء اللہ ثم انشاء اللہ ابوبکر کی طرح دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے عزت ہی عزت دیکھے گا اور آخرت کی عزتیں اس کے سوا ہیں جو وہم و گمان سے بھی بالا اور برتر ہیں۔

ختم نبوت کے موضوع پر علماء نے بہت سی مختصر اور مفصل کتابیں تحریر فرمائیں جس میں سب سے زیادہ مفصل اور جامع اور محکم کتاب مخدوم و مکرم محب محترم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی سابق مفتی دارالعلوم دیوبند کی تالیف لطیف ہے جس کے تین حصے ہیں۔ (۱) ختم النبوة فی القرآن، (۲) ختم النبوة فی الحدیث (۳) ختم النبوة فی الآثار۔ تمام مسلمانوں سے میری استدعا ہے کہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں نہایت جامع اور مفید کتاب ہے۔

ہر زمانہ میں علماء کا طریق رہا ہے کہ ایک ہی موضوع پر ہر عالم اپنے اپنے علم کے مطابق کتاب تالیف کرتا رہا اور ہر ایک نے بارگاہ خداوندی سے علیٰ حسب المراتب اجر حاصل کیا۔ حضرات اہل علم متون حدیث اور شروح حدیث اور کتب تفسیر پر ایک اجمالی نظر ڈالیں بلاشبہ سب کی سب۔

عبا راتاشتی و حسنک واحد
و کل الی ذاک الجمال شیر

(ہماری عبارتیں مختلف ہیں اور تیرا حسن ایک ہے، مگر ہر عبارت اس حسن و جمال کی طرف اشارہ کرتی ہے۔)
کا مصداق ہیں۔

ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است

اس لیے اس ناچیز نے ارادہ کیا کہ جو جماعت اس وقت مدعی نبوت اور اس کی امت سے جہاد لسانی اور قلمی میں مصروف ہے اس ناچیز کا شکستہ قلم بھی اس جماعت کے ساتھ اسی میدان میں پہنچ جائے۔

مجاہدین کی معیت موجب صد خیر و برکت اور باعث نزول رحمت ہے خصوصاً جب کہ یہ ناچیز نسا" والد محترم کی جانب سے صدیقی اور والدہ مکرمہ کی جانب سے فاروقی ہے اس لیے اس خیال نے اور بھی قلب کو ختم نبوت کے موضوع پر قلم اٹھانے کے لیے جوش دلایا حق تعالیٰ شانہ کی توفیق اور تیسیر کی دست گیری سے یہ ایک مختصر رسالہ لکھا جس میں ایک خاص التزام کیا وہ یہ کہ ختم نبوت کے دلائل میں آیات اور احادیث دونوں کو ساتھ ملا کر بیان کیا ہے اس لیے کہ ببا اوقات قرآن کریم میں کسی شے کی طرف اجمالی اشارہ ہوتا ہے جس پر ببا اوقات حنبہ نہیں ہوتا اور حدیث میں اس کی تفصیل ہوتی ہے اس لیے دلائل کے سلسلے میں پہلے آیت کو نقل کیا جس میں ختم نبوت کی طرف اجمالی اشارہ تھا اور اس کے بعد متصلاً" حدیث شریف کو ذکر کیا جس میں اس اجمالی اشارہ کی توضیح اور تشریح تھی اب آیت اور حدیث کے یکجا ہو جانے سے اہل علم اور اہل فہم کو حنبہ ہو جائے گا۔ کہ یہ آیت کس طرح ختم نبوت کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور نیز آیت اور حدیث کے یکجا ہونے سے ناظرین پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ حدیث کس طرح قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ حق جل شانہ کا ارشاد ہے۔

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم

"اور ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کی توضیح اور تفسیر فرمائیں۔"

شیخ محی الدین بن عربیؒ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اگرچہ عرب کی زبان میں اترا لیکن رسول کے بیان کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ ہر کلام میں کچھ نہ کچھ اجمال ضرور ہوتا ہے اسی وجہ سے کتابوں کی شرح اور ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کی ضرورت ہوئی اس لیے جن تعالیٰ نے فقط کتب الہیہ اور صحف سماویہ کے اتارنے پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ انبیاء کے بیان اور تفسیر کو بھی ان کے ساتھ ملایا۔ پس حضرات انبیاء علیہم السلام کتاب الہی کے جملات کی تفصیل اور بیان میں حق تعالیٰ شانہ کے قائم مقام ہیں۔ (کذا فی البیواقیت و الجواہر جلد ۲ صفحہ ۳۲ بحث ۳۳۔)

لذا آیت کی سب سے زیادہ مستند اور معتبر تفسیر وہی ہوگی جو آنحضرت ﷺ سے مروی ہوگی یہ کیسے ممکن ہے کہ جس پر آیت کا نزول ہو وہ تو آیت کے معنی نہ سمجھے اور قادیان کا ایک وہقان کہ جو بد عقل اور بد فہم ہونے کے علاوہ عربی زبان سے بھی کما حقہ واقف نہ ہو وہ آیت کا مطلب سمجھ جائے۔ نبی عربی ﷺ کے صحابہ کرامؓ تو آیت کا مطلب نہ سمجھیں اور متنبی قادیان کے کوٹ پتلون والے صحابہ آیت کا صحیح مطلب سمجھ جائیں۔

حضرت الاستاذ مولانا الشاہ السید محمد انور قدس اللہ سرہ نے وفات سے چند روز پہلے فارسی زبان میں ایک مختصر رسالہ خاتم التسنین ﷺ کے نام سے تحریر فرمایا جس میں آیت خاتم التسنین کی تفسیر فرمائی اور عجیب تفسیر فرمائی۔ ناچیز نے اس رسالہ کے لطائف اور معارف اپنی اس تالیف میں لے لیے ہیں۔ اور مسک الختام فی ختم النبوة علی سید الانام علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام اس کا نام رکھا ہے۔

حق تعالیٰ شانہ سے بیتی ہوں کہ وہ اس تالیف کو قبول فرمائے ربنا تقبل

○ منانک انت السميع العليم ○ ونب علینا انک انت التواب الرحيم ○

دلیل اول

قال اللہ عزوجل ماکان محمد ابا احد من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین ط و کان اللہ بکل شیئی علیما ○
 ترجمہ: محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور سب پیغمبروں کی مہر یعنی آخری نبی ہیں اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا۔

شان نزول

زمانہ جاہلیت سے عرب میں یہ رسم چلی آتی تھی کہ متبنی یعنی منہ بولے بیٹے کو حقیقی اور نسبی بیٹے کے بنزلہ سمجھتے تھے کہ جس طرح حقیقی بیٹے کے مرجانے یا طلاق دینے کے بعد باپ کے لیے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے اسی طرح متبنی کے مرجانے یا اس کے طلاق دینے کے بعد متبنی کی بیوی سے باپ کے لیے نکاح حرام ہے۔

زید بن حارثہ جو اصل میں شریف النسب تھے بچپن میں کوئی ظالم ان کو پکڑ کر لے گیا اور غلام بنا کر ان کو مکہ مکرمہ کے بازار میں فروخت کر گیا۔ حضرت خدیجہؓ نے زید کو خرید لیا اور کچھ روز بعد آنحضرت ﷺ کو بہہ کر دیا۔ جب ہوشیار ہو گئے اور تجارتی سفر کے سلسلے میں اپنے وطن کے قریب سے گزرے تو بعض اقارب کو پتہ چلا بالاخر ان کے والد اور ان کے بھائی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ معاوضہ لے کر زید کو ہمارے حوالے کر دیا

جائے آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ معاوضہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر خوشی سے تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میری جانب سے بالکل اجازت ہے۔ باپ اور چچا نے زید سے دریافت کیا۔ زیدؓ نے کہا میں آپ ﷺ سے جدا ہونا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔

ایرش خوابد رہائی زند
شکارش نجوید خلاص ازکند

آپؐ مجھے اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے ہیں اور باپ سے زیادہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے زیدؓ کو آزاد کر دیا اور اپنا متبنی بنا لیا۔ عرب کے دستور کے مطابق تمام لوگ زیدؓ کو، زیدؓ بن محمدؐ کہہ کر پکارنے لگے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وھو یدعی السبیل ادعوہم لابنائہم ھو اقسط عند اللہ ط
”اور نہیں بنایا اللہ نے تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے“ یہ محض تمہاری بات ہے جو اپنے منہ سے کہتے ہو اللہ ہی حق کہتا ہے اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا کرو اللہ کے نزدیک یہی ٹھیک انصاف ہے۔

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہؓ نے ان کو زیدؓ بن محمدؐ کہنا چھوڑ دیا۔ زیدؓ بن حارثہ کہنے لگے۔ بعد ازاں حضرت زیدؓ کا نکاح آنحضرت ﷺ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینبؓ سے ہوا۔ مگر جب کسی طرح موافقت نہ ہوئی تو حضرت زیدؓ نے حضرت زینبؓ کو طلاق دے دی۔ حضرت زیدؓ کے طلاق دینے کے بعد آنحضرت ﷺ نے بحکم خداوندی حضرت زینبؓ سے نکاح فرمایا تاکہ جاہلیت کی رسم ٹوٹے اور لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ متبنی کی بیویوں سے نکاح حلال ہے اور آئندہ کسی مسلمان کو اس میں کسی قسم کا اتقباض خاطر نہ رہے۔ آپ ﷺ کا نکاح فرمانا تھا کہ جاہلوں اور منافقوں نے طعن شروع کیا

کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔
 ماکان محمد اباحد من رجالکم ولكن رسول اللہ و خاتم النبیین ط وکان
 اللہ بکل شئی علیما ○

جس میں ان کے طعن کا جواب دیا گیا کہ محمد ﷺ تمہارے مردوں
 میں سے کسی کے نبی اور حقیقی باپ نہیں، کہ وہ شخص آپ کا نبی اور صلیبی بیٹا ہو
 اور اس کی بیوی سے آپ کا نکاح حرام ہو اور قاسم اور طیب و طاہر اور ابراہیم
 بچپن میں ہی وفات پا گئے ان کے بڑے ہونے کی نوبت نہیں آئی کہ ان کو رجل
 یعنی مرد کہا جاتا اس لیے آیت شریفہ میں من رجالکم فرمایا اور من ذکر کم یا من
 ابناء کم یا من اولاد کم نہیں فرمایا۔ لہذا جب زیہ آپ ﷺ کے نبی بیٹے نہ
 ہوئے تو ان کی مطلقہ سے بلاشبہ نکاح جائز ہو گا اور اس پر طعن کرنا سراسر نادانی ہو
 گی۔ غرض یہ کہ آپ ﷺ کسی حیثیت سے کسی کے باپ نہیں لیکن روحانی
 حیثیت سے آپ ﷺ سب ہی کے باپ ہیں اس لیے کہ آپ ﷺ اللہ
 کے رسول ہیں اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے جیسا کہ ایک قرأت میں ہے
 وزوجہ امہاتہم و هو اب لہم اور اس اعتبار سے سب آپ ﷺ کے روحانی
 بیٹے ہیں اور اس روحانی ابوت میں آپ تمام پیغمبروں سے بہتر اور برتر ہیں۔ اس
 لیے کہ آپ تمام نبیوں کی مراد و آخری پیغمبر ہیں قیامت تک آپ کی نبوت اور
 آپ ہی کی روحانی ابوت کا دور دورہ رہے گا۔ یہ ہرگز نہ ہو گا کہ آپ کے بعد اور
 کوئی نبی مبعوث ہو اور امت آپ کے ظل عاظمت سے نکل کر اس جدید نبی کی زیر
 ابوت اور زیر تربیت آجائے۔ ظاہری حیثیت سے اگرچہ حضرت آدم پہلے نبی اور
 پہلے رسول ہیں مگر روحانی اور نورانی حیثیت سے آنحضرت ﷺ ہی سب سے
 پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی کا نور پیدا ہوا۔ آدم
 علیہ السلام کا ابھی خمیر ہی تیار ہو رہا تھا کہ روحانی طور پر آپ نبی ہو چکے تھے۔
 غرضیکہ روحانی طور پر تو آپ پہلے روحانی باپ ہیں اور ظاہری طور پر آپ ہی تمام
 عالم کے لیے قیامت تک روحانی باپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی مصلحت کو خوب

جانتا ہے جو حکم دیتا ہے وہ سراسر حکمت اور مصلحت ہی ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر زمانے میں امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے ان کی آمد نبی ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگی۔ تمام عمل در آمد شریعت محمدیہ ہی پر ہوگا۔ شریعت عیسویہ پر عمل نہ ہوگا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا علامت اس بات کی ہے کہ انبیاء کے تمام افراد و اشخاص ختم ہو چکے اس لیے پہلے نبی کو لانا پڑا۔ اس آیت شریفہ کا مقصود اس امر کا اعلان کرنا ہے کہ نبوت آپ ﷺ پر ختم ہو گئی۔ گذشتہ زمانہ میں یکے بعد دیگرے انبیاء آتے رہے مگر آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا اور جس آخری نبی کی انبیاء کرام پیشین گوئی کرتے آئے اور لوگ اس آخری نبی کے ظہور رہے اس آیت میں اس کا اعلان کر دیا گیا کہ وہ آخری نبی جس کا انتظار تھا وہ آپ کا اب اس کے بعد کوئی نبی ظہور نہیں رہا یہی وہ آخری نبی ہیں جن کا لوگوں کو انتظار تھا۔

قرآن کریم نے جا بجا یکے بعد دیگرے انبیاء کے آنے کی اور سلسلہ نبوت کے جاری رہنے کی اور یکے بعد دیگرے انبیاء و رسل کے آنے کی اطلاع دی ہے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آکر ختم نبوت کا اعلان فرما دیا۔ اگر حضور ﷺ کے بعد بھی سلسلہ نبوت کا جاری ہوتا تو ختم نبوت کے اعلان کی بجائے بقاء نبوت کی اطلاع دی جاتی اور یہ بتلایا جاتا کہ انبیاء سابقین کی طرح آپ کے بعد بھی انبیاء و رسل آئیں گے بلکہ قرآن اور حدیث نے یہ اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ آپ کسی کے جسمانی باپ نہیں بلکہ روحانی باپ ہیں اور روحانی باپ کسی ایک دو کے نہیں بلکہ تمام عالم کے روحانی باپ ہیں اور نکاح کی حلت و حرمت کا دار و مدار جسمانی ابوت پر ہے۔ روحانی ابوت پر نہیں۔ روحانی ابوت پر عظمت و حرمت و شفقت و عنایت کے احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مثلاً استاذ اور پیر روحانی باپ ہیں اور شاگرد اور مرید روحانی بیٹا ہے مگر نکاح کی حلت و حرمت کے احکام یہاں

جاری نہیں ہوتے۔

آیت مذکورہ کے پہلے جملہ میں ابوت جسمانیہ کی نفی فرمائی اور دوسرے جملہ میں یعنی ولکن رسول اللہ میں ایک شبہ کا ازالہ فرمایا جو پہلے جملہ سے پیدا ہوتا تھا وہ یہ کہ ابوت کی نفی سے شفقت کی نفی کا شبہ ہوتا تھا کہ شاید جب ابوت مستفی ہو گئی تو شفقت پوری جو ابوت کا خاصہ لازمہ ہے۔ وہ بھی مستفی ہو جائے تو ارشاد فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کو تمہارے ساتھ جسمانی ابوت کا علاقہ نہیں لیکن علاقہ نبوت و رسالت ہے اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے جو شفقت اور عنایت میں جسمانی باپ سے کہیں بڑھ کر ہوتا ہے اور چونکہ بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے اس لیے اثبات ابوت تو ریثت نبوت کو موہم تھی اس لیے شبہ کے ازالہ کے لیے وخاتم النبیین کا لفظ بڑھایا کہ امت اگرچہ آپ کی روحانی اولاد ہے مگر منصب نبوت کی وارث نہ ہوگی۔ منصب نبوت آپ پر ختم ہو گیا۔ امت میں کوئی شخص بھی قیامت تک اس منصب کا وارث نہ ہو گا۔ البتہ امت کے علماء و صلحاء کمالات نبوت کے وارث ہوں گے مگر منصب نبوت کا کوئی وارث نہ ہو گا۔ نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، قیامت تک یہ منصب کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ یا یوں کہو کہ آپ ﷺ کی کمال شفقت بیان کرنے کے لیے یہ لفظ بڑھایا گیا کہ ہر نبی اپنی امت پر شفیق اور مہربان ہوتا ہے مگر آپ شفقت میں سب سے بڑھے ہوئے ہیں اس لیے کہ گذشتہ انبیاء کرام کو یہ توقع تھی کہ ہم سے اگر کوئی چیز رہ جائے گی۔ تو بعد میں آنے والے نبی اس کی تکمیل کر دیں گے مگر آخری نبی کو یہ توقع نہیں ہو سکتی اس لیے وہ اپنی امت کو وعظ اور نصیحت اور ارشاد اور تلقین میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھے گا۔ آپ کی مثال اس باپ کی سی ہے کہ جس کی اولاد کے لیے اس کے بعد کوئی نگران اور خبر گیراں نہ ہو۔ چنانچہ حضور اکرم ﷺ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو امت کے لیے ایسی کامل اور مکمل شریعت چھوڑی کہ اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی اس لیے کہ جب آپ کی شریعت موجود ہے تو گویا آپ خود بہ نفس نفیس موجود ہیں اور حضور ﷺ کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ بے حیائی اور

ڈھٹالی ہے۔

آیت مذکورہ کی تفسیر

آیت مذکورہ کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے چند امور کا سمجھنا ضروری ہے ایک خاتم کے معنی 'دوم نبی اور رسول میں فرق' سوم النبیین میں الف لام کس قسم کا ہے؟

امراول

خاتم بالفتح اور خاتم بالکسر متعدد معنی کے لیے مستعمل ہوتا ہے مگر 'انگشتری'، 'مہر'، 'آخر قوم'، لیکن ائمہ لغت نے اور علماء عربیت نے تصریح کی ہے کہ لفظ خاتم جب کسی قوم یا جماعت کی طرف مضاف ہو گا تو اس کے معنی صرف آخر اور ختم کرنے والے کے ہوں گے۔ لہذا آیت مذکورہ میں چونکہ خاتم کی اضافت نسیں کی طرف ہو رہی ہے اس لیے اس کے معنی آخر النسیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے کے ہوں گے۔

اور خاتم کا مادہ ختم ہے، جس کے معنی ختم کرنے اور مہر لگانے کے آتے ہیں اور مہر لگانے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شے کو اس طرح بند کیا جائے کہ اندر کی چیز باہر نہ آسکے اور باہر کی چیز اندر نہ جاسکے۔ کما قال تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ کفر اندر بند ہو گیا کہ اب اندر سے باہر نہیں نکل سکتا اور باہر سے کوئی ہدایت اندر نہیں جاسکتی اور مہر چونکہ سب سے اخیر میں لگتی ہے اس لیے یہ لفظ اختتام اور انتہا پر دلالت کے لیے ضرب المثل بن گیا ہے کما قال تعالیٰ یسقون من ریح مقنوم ختمہ مسک یعنی اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ سربمہر ہو گی، کہ اندر کی خوشبو اور لطافت باہر نہیں آسکے گی اور باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہو سکے گی کہ اس کی لطافت میں کمی آجائے۔ متنہی کتاب ہے۔

روح و قد ختمت علی فوادی

بجک ان یحل بہ سواکا

میں اس حال میں چلتا ہوں کہ تو نے میرے دل پر اپنی محبت کی ایسی مر لگا دی ہے کہ اندر سے تو تیری محبت باہر نہیں نکل سکتی اور باہر سے کسی اور کی محبت اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں دو قراتیں ہیں ایک خاتم بالکسر کی اور ایک خاتم بالفتح کی۔ فرق اتنا ہے کہ خاتم بالکسر صیغہ اسم فاعل ہے معنی ختم کرنے والا اور خاتم بالفتح اسم سے معنی آخر اور مر اور حاصل دونوں قراتوں کا ایک ہے وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ کا وجود باوجود انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو ختم کرنے والا اور سلسلہ نبوت پر مر کرنے والا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اس سلسلہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور آپ ﷺ سے پہلے جو سلسلہ نبوت میں داخل ہو چکا وہ اس سلسلہ سے نکل نہیں سکتا۔ جاننا چاہیے کہ ختم کا مفہوم، قبل کے امتداد کو مقتضی ہے اور لفظ انقطاع عام ہے اس میں ما قبل کا امتداد شرط نہیں اس لیے خاتم کی اضافت اشخاص کی طرف مناسب ہوئی اور انقطاع کی اسناد وصف نبوت و رسالت کی طرف مناسب ہوئی۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ ختم کا تعلق ما قبل کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کی خاتمت کا تعلق انبیاء سابقین کے ساتھ ہو گا نہ کہ انبیاء لاحقین کے ساتھ۔ اس لیے آپ کی سیادت کا ظہور یلتہ المعراج میں حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجتماع کے بعد ہوا۔ اور اسی طرح قیامت کے دن آپ ﷺ کی سیادت اور خاتمت کا ظہور اس طرح ہو گا کہ تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور سلسلہ شفاعت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ پر ختمی اور ختم ہو گا۔ شب معراج اور روز قیامت میں انہیں انبیاء کا ذکر ہے جو آپ سے پہلے مبعوث ہوئے۔ آپ کے بعد مبعوث ہونے والے نبی کا کہیں نام و نشان نہیں۔

قال ابن عباس یرید لولم اختم النبیین لجعلت لہ ابنا یکون بعدہ
نبیا وروی عن عطاء بن اللہ لما حکم ان لانی بعدہ لم یعطہ ولدا
ذکر ابصیر رجلا (کنافی المعالم)

ترجمہ = ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اگر میں آپؐ پر انبیاء کے سلسلہ کو ختم نہ کرتا تو آپؐ کو بیٹا عطا کرتا کہ جو آپؐ کے بعد نبی ہوتا عطا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ فرمادیا کہ آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا تو آپؐ کو کوئی ایسا لڑکا نہیں دیا جو آئندہ چل کر مرد بنے۔

امردوم

نبی اور رسول میں فرق

جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ نبی عام ہے اور رسول خاص۔ اصطلاح شریعت میں رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے جدید کتاب یا جدید شریعت لے کر آیا ہو اور نبی وہ ہے جو بذریعہ وحی احکام خداوندی کی تبلیغ کرتا ہو۔ نبی کے لیے جدید کتاب اور جدید شریعت کا ہونا شرط نہیں کما قال اللہ تعالیٰ انا انزلنا التورۃ فیہا ہدیٰ ونور یحکم بہا النبیین یہ آیت انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں اتری کہ جو توریت اور شریعت موسویہ کے مطابق حکم دیتے تھے۔ نبی تھے مگر ان کے پاس نہ کوئی مستقل کتاب تھی اور نہ مستقل شریعت۔ خلاصہ یہ کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے اور آیت میں لفظ خاتم التسنن کا ہے خاتم المرسلین کا نہیں۔ حالانکہ ظاہر کلام کا متقاضی یہ تھا کہ خاتم المرسلین فرماتے اس لیے کہ ولکن رسول اللہ کے بعد وخاتم المرسلین بظاہر زیادہ مناسب تھا، لیکن بجائے لفظ خاص (یعنی بجائے رسول) کے لفظ عام استعمال فرمایا یعنی خاتم النبیین فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپؐ مطلقاً تمام انبیاء کے خاتم ہیں اور آپؐ پر مطلقاً نبوت ختم ہو گئی۔ مسئلہ ہو یا غیر مسئلہ، تشریحیہ ہو یا غیر تشریحیہ اور جب نبوت ختم ہو گئی تو رسالت کا ختم ہونا بدرجہ اولیٰ معلوم ہو گیا اس لیے کہ عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے۔

امرسوم

التسین میں الف لام استغراق کا ہے اس لیے کہ علماء عربیت کی تصریح ہے کہ جو الف لام جمع پر داخل ہو وہ استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ کما قال ابوالبقاء فی کلیاتہ ص ۵۶۲)

قال عامة اهل الاصول و العربية لام التعريف سواء دخلت على المفرد او الجمع تفيد الاستغراق الا اذا كان معهودا۔
ترجمہ = جمہور علماء اصول اور علماء عربیت یہ کہتے ہیں کہ الف لام تعریف کا خواہ مفرد پر داخل ہو یا جمع پر مفید استغراق ہوتا ہے الا یہ کہ کوئی خاص معهود اور معین مراد ہو۔

اور جس شخص کو خدا تعالیٰ نے ذرا بھی عقل سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ التسین میں الف لام عمد کا نہیں ہو سکتا ورنہ یہ معنی ہوں گے کہ حضور پر نور ﷺ مخصوص اور معهود نبیوں کے خاتم ہیں۔ تمام انبیاء کے خاتم نہیں اور ظاہر ہے کہ یہ معنی بالکل لغو اور مہمل ہیں اس میں آنحضرت ﷺ کی کوئی شان امتیازی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ اس معنی کے لحاظ سے تو ہر نبی کو کسی خاص قوم اور خاص خطہ کے اعتبار سے خاتم التسین کہہ سکتے ہیں۔ پھر آنحضرت ﷺ کی کیا خصوصیت رہی اور اگر یہ کہا جائے کہ استغراق عربی مراد ہے تو یہ بھی صحیح نہیں اس لیے کہ اصل استغراق میں استغراق حقیقی ہے اور استغراق عربی مجاز ہے۔ حقیقت کے ہوتے ہوئے مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں اشکال سابق پھر عود کر آئے گا اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ التسین میں الف لام استغراق کا ہے اور استغراق سے استغراق حقیقی مراد ہے تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ آپ ﷺ نبوت کے تمام افراد اور اشخاص کے خاتم ہیں۔ خواہ وہ مستقل نبی ہوں یا کسی کے تابع ہوں اور آپ ﷺ حقیقتہً "تمام انبیاء طہیم السلوۃ السلام کے خاتم ہیں۔ آپ کے بعد قیامت ہوگی کسی قسم کا کوئی نبی آنے والا

نہیں۔ اب اس آیت سے ہر قسم کی نبوت کا انتہام معلوم ہو گیا اور اس احتمال کی گنجائش نہیں رہی کہ آپ ﷺ صرف نبوت مستقلہ کے خاتم ہیں۔

آیت مذکورہ کی تفسیر خود قرآن کریم سے

خاتم التسن کے جو معنی ہم نے بیان کیے یعنی آخر التسن کے، تمام ائمہ لغت اور علماء عربیت اور تمام علماء شریعت عمد نبوت سے لیکر اب تک سب کے سب یہی معنی بیان کرتے آئے ہیں۔ انشاء اللہ ثم انشاء اللہ تعالیٰ ایک حرف بھی کتب تفسیر اور کتب حدیث میں اس کے خلاف نہ ملے گا۔ اب ہم مزید توضیح کے لیے اس آیت کی ایک دوسری قرات پیش کرتے ہیں جس سے اور مزید وضاحت ہو جائے گی۔ وہ قرات یہ ہے۔

ولکن نبیاً ختم النبیین

ترجمہ = لیکن آپ ایسے نبی ہیں جنہوں نے تمام نبیوں کو ختم کر دیا۔

یہ قرات حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے جو تمام تفاسیر معتبرہ میں منقول ہے اس قرات سے وہ تمام تاویلات اور تحریقات بھی ختم ہو جاتی ہیں جو مرزائی جماعت نے خاتم التسن کے لفظ میں کی ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم عنقریب ان تاویلات کا ذکر کر کے ان کا جواب دیں گے۔

اور جس طرح آیت شریفہ میں دو قسم کی قراتیں ہیں۔ اسی طرح احادیث میں دو قسم کی روایتیں ہیں۔ بعض روایات میں خاتم التسن کا لفظ آیا ہے اور بعض روایات میں ختم بی التیون اور ختم بی الانبیاء بصیغہ ماضی معروف اور مجہول آیا ہے جس کے صاف اور صریح معنی ختم کرنے کے ہیں اس میں کسی تاویل کی گنجائش ہی نہیں۔

آیت مذکورہ کی تفسیر حدیث شریف اور اقوال صحابہؓ سے

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

انه سيكون في امتي كذباون ثلثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم

النبيين لانبى بعدى (رواه مسلم)

ترجمہ = تحقیق میری امت میں تمیں بڑے بڑے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے ہر ایک کا زعم یہ ہو گا کہ میں نبی ہوں اور حالانکہ میں خاتم النبین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

اس حدیث میں غور کرنے سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔

اول یہ کہ آنحضرت ﷺ نے اس امر کی پیشین گوئی فرمائی کہ آپ کے بعد صرف جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے کوئی نبی پیدا نہ ہو گا۔ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی اگر کسی قسم کی نبوت باقی ہوتی تو یوں ارشاد فرماتے کہ میرے بعد نبی بھی آئیں گے اور دجال و کذاب بھی۔ دیکھو اگر نبی ہو تو اس کی اطاعت کرنا اور جو کذاب و دجال ہو اس سے پرہیز کرنا۔ آنحضرت ﷺ کا امت کو مطلقاً "صرف یہ ہدایت فرمانا کہ دیکھو جو شخص بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے بے تامل اس کو کذاب و دجال سمجھنا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ اب آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کی نبوت باقی نہیں رہی۔

دوم یہ کہ وہ جھوٹے مدعی امتی اور محمدی ہونے کے مدعی ہوں گے جیسا کہ سبکون فی امتی کذابوں کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹے نبی لوگوں کو میری نسبت سے دھوکہ دیں گے اس لیے کہ اگر علی الاعلان آپ ﷺ سے اپنی نسبت اور تعلق کے انقطاع کا اعلان کریں تو پھر کوئی ان کے دھوکہ میں نہ آئے۔ آپ کی طرف اپنی نسبت کریں گے اور پھر اس دھوکہ سے لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت دیں گے۔

سوم یہ کہ آپ نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ وہ یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں اور حالانکہ میں آخری نبی ہوں معلوم ہوا کہ دجال اور کذاب ہونے کے لیے فقط دعویٰ نبوت کافی ہے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں۔

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی نبوت پر دلائل پیش کرنے کے لیے مہلت مانگی تو امام اعظم نے فتویٰ دیا کہ جو شخص اس کی نبوت کی دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہے اس لیے کہ وہ ارشاد نبوی "لابی بعدی" کا مکر اور کذب ہے۔

چہاں یہ کہ جملہ "لابی بعدی" "جملہ" "انا خاتم التسنن" کی تفسیر ہے اور لائفی جنس کا ہے جو نکرہ پر داخل ہوا جس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے بعد یہ جنس ہی ختم ہے۔ اور جنس نبی کا کوئی فرد بھی میرے بعد مستحق نہ ہو گا اور چونکہ نبی عام ہے کہ خواہ صاحب شریعت ہو یا کسی کا تابع ہو اور رسول خاص ہے اس لیے لائفی بعدی میں مطلق نبی کی نفی فرمادی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا خواہ تشریحی ہو یا غیر تشریحی۔ کیونکہ یہ تو مطلق نبی کی قسمیں ہیں۔ اور جب سرے سے قسم ہی نہ رہا تو قسمیں کہاں متحقق ہو سکتی ہیں اقسام کا بدون قسم کے اور افراد کا بدون کلی کے پایا جانا عقلاً محال ہے۔

پہلے یہ کہ اس حدیث سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ خاتم التسنن کے معنی آخر التسنن کے ہیں اور یہ معنی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیا کی مرہا زینت ہیں۔ اس لیے کہ حدیث کا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعیان نبوت کے جھوٹے ہونے کی دلیل میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان مدعیان نبوت کے جھوٹا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں خاتم التسنن ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس لیے ان کا دعویٰ نبوت ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے پس اگر خاتم التسنن کے معنی مرہا زینت کے لیے جائیں تو ان کے جھوٹا ہونے کی دلیل کیسے ہو گی۔ بلکہ حدیث کے معنی یہ ہوں گے کہ میرے بعد بہت سے کذاب اور دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے اور حالانکہ میں نبیوں کی مرہاں میری مرہاں سے نبی نہیں گے اور ظاہر ہے کہ یہ معنی بالکل لغو اور مہمل ہیں اور جملہ لائفی بعدی کے صریح متناقض اور متنافی ہیں بلکہ انا خاتم التسنن کے بعد لائفی بعدی کا اضافہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ خاتم کے معنی مرہاں کے نہیں بلکہ آخر کے

ہیں اور اسی طرح مسند احمد اور معجم طبرانی میں حذیفہ بن الیمانؓ سے مرفوعاً "یہ الفاظ مروی ہیں:

انا خاتم النبیین لانی بعدی۔

ترجمہ = میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔

اس روایت میں بھی خاتم النبیین کے بعد جملہ لانی بعدی بطور تفسیر مذکور ہے اور اسی وجہ سے اس جملہ کا پہلے جملہ پر عطف نہیں کیا گیا اس لیے کہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ جب جملہ ثانیہ جملہ اولی کے لیے عطف بیان ہو تو پھر عطف ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عطف نسق چاہتا ہے تغایر کو عطف بیان چاہتا ہے کمال اتحاد کو اور کمال وحدت اور مغایرت جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک اور حدیث لہجے جس سے اس آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ فطاف بہ النظر یتعجبون من حسن بنیانہ الاموضوع تلک اللبنتہ فکنت انا سددت موضع اللبنتہ ختم بی البنیان و ختم بی الرسل و فی الروایۃ فانا اللبنتہ و انا خاتم النبیین۔ متفق علیہ۔ مشکوٰۃ شریف۔ باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ و سلامہ علیہ۔

ترجمہ = ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری اور انبیاء علیہم السلام سابقین کی مثال ایک ایسے محل کی سی ہے کہ جو نہایت خوبصورت بنایا گیا ہو مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ لوگ تعجب سے اس محل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ سو میں نے اس اینٹ کی جگہ کو پر کر دیا ہے اور وہ عمارت مجھ پر ختم ہوئی اور رسولوں کا سلسلہ بھی مجھ پر ختم ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ میں

ہی ہوں اور میں نبیوں کا ختم کرنے والا ہوں۔

ہر چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا اسی طرح عمارت نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا۔ اس عمارت کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور خاتم الانبیاء ﷺ پر یہ عمارت ختم ہوئی۔ قصر نبوت کی تکمیل کے لیے ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی آپ ﷺ کی ذات بہ برکات نے اس جگہ کو پورا کر دیا اور قصر نبوت کی عمارت بالکل مکمل ہو گئی اب اس میں کسی اینٹ کی جگہ باقی نہیں کہ اس میں کسی تشریحی یا غیر تشریحی نبوت کی اینٹ داخل ہو سکے۔ مرزا صاحب قصر نبوت میں اپنی ایک اینٹ داخل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہاں کوئی جگہ نہیں۔ لہذا وہ اینٹ چونکہ قصر نبوت کا جزء نہیں بن سکتی۔ اس لیے اس کو کہیں ادھر ادھر پھینک دیا جائے گا۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کے لیے قصر نبوت میں کسی قسم کی گنجائش نہ نکل سکی۔ میلہ الہند اور اسود قادیان کے لیے کہاں جگہ نکل سکتی ہے۔ البتہ کفر اور دجل کی عمارت میں اس قسم کی اینٹ کونے کا سرا ہو سکتی ہے۔

ناظرین کرام پر مخفی نہیں کہ حدیث مذکور کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قصر نبوت کی عمارت کو ختم کر دیا مگر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کہیں ابھی قصر نبوت کی عمارت ناتمام ہے اور بہت سی اینٹوں کی اس میں گنجائش ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ خاتم النبیین کے معنی تو آخر النبیین ہی کے ہیں جس نبی پر یہ آیت اتری اس نے اس آیت کے یہی معنی سمجھے اور یہی سمجھائے اور جن صحابہ نے اس نبی سے قرآن اور اس کی تفسیر پڑھی انہوں نے بھی یہی معنی سمجھے فمن شا فلیومن ومن شاء فلیکفر الفرض حق روز روشن کی طرح واضح ہے کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شک باقی رہے تو پھر میں

وہی عرض کروں گا جو حضرت الاستاذ مولانا الشاہ سید محمد انور نور اللہ وجہ یوم
القیامت و نحر (آمین) نے اپنے فارسی رسالہ خاتم النبیین ص ۶۳ میں تحریر فرمایا ہے:
از حال این محذولان چنان معلوم می شود کہ اگر حق تعالیٰ سوگند خورد کہ مراد
من این است کہ من بعد او هیچ گونه کد ام نبی خواہم فرستاد گفتند کہ ہاں ہاں
لفظ نبین است کہ تو گفتی لیکن مراد تو انست کہ این سلسلہ را جاری داری
بطریق۔

ترجمہ = ان بد نصیب اور محروم القسمت لوگوں کے حال سے ایسا معلوم ہوتا
ہے کہ اگر حق تعالیٰ شانہ بھی قسم کھا کر فرمائیں کہ خاتم النبیین سے میری مراد
یہ ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجوں گا تو یہ بد نصیب جواب
میں کہیں گے کہ ہاں ہاں یہ لفظ (خاتم النبیین) کا تو درست ہے مگر آپ کی مراد
یہ ہے کہ یہ سلسلہ نبوت فلاں طریق سے اب جاری رکھیں گے۔

مرزائی مفسر کا اعتراف و اقرار

مرزا محمد علی لاہوری مرزائی نے اپنی تفسیر میں اس امر کا صاف اعتراف کیا
ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں وہ آیت خاتم النبیین کی تفسیر
ہیں چنانچہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”اور خاتم کے معنی مہربھی ہیں اور آخر بھی اور کسی قوم کے خاتم اور خاتم
سے مراد ان میں سے آخری ہونا ہے۔ ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم
آخرہم (ل) اور خاتم اور خاتم ہمارے نبی ﷺ کے اسماء میں سے ہیں اور
خاتم النبیین اور خاتم النبیین کے معنی ہیں آخری نبی (ل) اور آپ کو خاتم النبیین
کہا اس لیے کہ نبوت کو آپ کے ساتھ ختم کر دیا۔ (غ) خاتم النبیین کے معنی
لغت سے اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ایک قوم ہیں اور کسی قوم کا خاتم
یا خاتم ہونا صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے یعنی ان میں سے آخری ہونا۔ پس نبیوں کے
خاتم کے معنی نبیوں کی مہربھی بلکہ آخری نبی ہیں۔ یہاں ان سب احادیث کے نقل

کرنے کی منجائش نہیں جن میں خاتم التسنن کی تشریح کی گئی ہے یا جن میں آنحضرت ﷺ کے بعد نبی کا نہ آنا بیان کیا گیا ہے اور یہ احادیث متواترہ ہیں جو صحابہ کرامؓ کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد نبی نہیں۔ حدیث اول جس میں لفظ خاتم التسنن کی تفسیر زبان نبوی سے مروی ہے متفق علیہ ہے مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنی بیتاً فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من زاوية فعجل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فانا اللبنة وانا خاتم النبیین۔ یعنی میری مثال اور نبیوں کی مثال ایک فحش کی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اسے اچھا اور خوبصورت بنایا سوائے کونے کی اینٹ کے تو لوگ اس کے گرد گھومتے اور تعجب کرتے اور کہتے یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی سو میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم التسنن ہوں اور دوسری حدیث متفق علیہ میں لفظ خاتم التسنن کی تفسیریوں کی ہے انہ سیکون فی امتی ثلثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لانی بعدی یعنی میری امت میں تیس کذاب ہوں گے ہر ایک ان سے دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم التسنن ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تیسری حدیث میں جو مسلم، ترمذی، نسائی کی ہے یہ ذکر ہے کہ مجھے چھ چیزوں میں دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت دے گئی ہے جن میں چھٹی یہ ہے کہ ختم بی النبیین یعنی میرے ساتھ نبی ختم کئے گئے ہیں۔ وہاں بجائے خاتم التسنن کے یہ لفظ رکھ کر بتا دیا کہ خاتم التسنن سے یہی مراد ہے نہ کچھ اور، وہ احادیث جن میں آپ کے آخری نبی ہونے کا ذکر ہے اور وہ بھی درحقیقت خاتم التسنن کی تفسیر ہی ہیں بہت سی ہیں مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ نبی اسرائیل میں نبی کے بعد نبی آتا تھا لیکن میرے بعد نبی نہ آئے گا بلکہ خلفاء ہوں گے اور ایک حدیث میں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمرؓ ہوتا۔ اور ایک میں ہے کہ علیؓ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور ایک میں ہے کہ میرا نام عاقب ہے اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی

نبی نہ ہو۔ انا العاقب والعاقب لیس بعدہ نبی اور ایک میں ہے کہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا مگر مبشرات اور ایک میں ہے کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی اور دس حد-شوا میں ہے لانیسی بعدی یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں اور ایسی حدیثیں جن میں آپ کو آخری نبی کہا گیا ہے چھ ہیں۔ اس قدر زبردست شہادت کے ہوتے ہوئے کسی مسلمان کا آنحضرت ﷺ کے آخری نبی ہونے سے انکار کرنا بیانات اور اصول دینی سے انکار ہے۔“ اسی کلامہ ۱۱۰۳ ج ۲۔ طبع ۴۔

مرزائی مفسر سے ایک استفسار

مرزائی مفسر نے اخیر میں اس امر کا صاف اقرار کیا ہے کہ حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے کا انکار اصول دین کا انکار ہے اور ظاہر ہے کہ اصول دین کا انکار صریح کفر ہے اب سوال یہ ہے کہ آیا مرزا صاحب ان آیات بیانات اور اصول دینی کے منکر تھے یا نہیں۔ مرزا صاحب کی بے شمار عبارات سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ مرزا صاحب نبوت کے مدعی تھے اور حضور ﷺ کے آخری نبی ہونے کے منکر تھے تو مرزا صاحب اس اصول دینی کے انکار کی بنا پر کافر ہوئے یا نہیں۔ نیز مرزا بشیر الدین محمود صاحب جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ آپ کے نزدیک کافر ہیں یا نہیں اور اگر نہیں تو باوجود اصول دین کے انکار کے کیوں کافر نہیں اور اگر کافر ہیں تو ان کی تکفیر کا اعلان ضروری ہے تاکہ عوام کو ایشاہ نہ رہے۔

نیز جو مسلمان حضور اکرم ﷺ کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں اور مرزا صاحب کو بھی نہیں مانتے ان کو تو آپ کافر سمجھتے ہیں اور جو لوگ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور حضور ﷺ کی ختم نبوت کے منکر ہیں ان کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔

ختم نبوت پر مرزا صاحب کی تصریحات

اب میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دعویٰ نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب ختم نبوت کے قائل تھے اور خاتم النبیین کے یہی معنی سمجھتے تھے کہ جواب تک تمام

امت نے سمجھے کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں، آپ ﷺ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔

(حماۃ البشری صفحہ ۶۶ و ۶۷ روحانی خزائن ص ۲۰۰ ج ۷)

میں آیت ماکان محمد ابا احد الخ کی تشریح کرتے ہوئے مرزا صاحب لکھتے ہیں۔ ”ہمارے نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ بغیر کسی استثناء کے اور ہمارے نبی ﷺ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ اگر آنحضرت کے بعد ہم کسی نبی کے ظہور کے مجوز نہیں گے تو نبوت کا دروازہ بند ہونے کے بعد اس کے کھلنے کے قائل ہو جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد کس طرح کوئی نبی آ سکتا ہے؟ حالانکہ آپ ﷺ کے بعد وحی کا اختراع ہو چکا ہے اور نبی آپ ﷺ کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں۔“

اور ازالہ الادہام صفحہ ۵۲۲ روحانی خزائن ص ۳۸۰ ج ۳ پر لکھتے ہیں کہ ”مسح کیوں کر آ سکتا وہ رسول تھا اور خاتم النبیین کی دیواریں اس کو آنے سے روکتی ہیں“ اور پھر اسی ازالہ الادہام کے صفحہ ۵۳۳ روحانی خزائن ص ۳۸۷ ج ۳ پر لکھتے ہیں ”لیکن وحی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے مر لگ گئی ہے کیا یہ مہر اس وقت ٹوٹ جائے گی“ (اور حماۃ البشری ص ۹۶ روحانی خزائن ج ۷ ص ۲۹۷) ہیں ”وماکان لى ان ادعى النبوة و اخرج من الاسلام و الحق بقوم کافرین یہ مجھ سے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور کفار سے جا ملوں۔“

اور ازالہ الادہام صفحہ ۳۱۰ روحانی خزائن ص ۵۱۱ ج ۳ پر لکھتے ہیں ”قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا ہو کیونکہ رسول کو علم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بہ پیرایہ وحی رسالت مسدود ہے یہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے اور سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔“

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کریم خاتم النبیین کے بعد نہ کسی

نئے نبی کا آنا جائز رکھتا ہے اور نہ کسی پرانے نبی کا پس اگر مرزا صاحب نئے نبی ہیں تو تب نہیں آسکتے اور اگر پرانے نبی ہیں تو تب بھی نہیں آسکتے۔ خود مرزا کے اقرار سے دروازہ بند ہے۔

حماۃ البشری صفحہ ۳۳ روحانی خزائن ص ۲۰۰ ج ۷ میں لکھتے ہیں:

واما ذکر نزول عیسیٰ بن مریم فما کان لمومن ان یحمل ہذا الاسم المذکور فی الاحیث علی ظاہر معنائه لانہ یخالف قول اللہ عزوجل ماکان محمد اباحمدن رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین الاتعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء بغير استئنا وفسره نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله لا نبی بعدی بیان واضح للطالبین ولو جوزنا ظہور نبی بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لجوزنا افتتاح باب وحی النبوة بعد تغلیقها وهذا خلف.... وکیف یحیی نبی بعد رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم وقد انقطع الوحی بعد وفاته وختم اللہ بہ النبیین اتعتقد بان عیسیٰ الذی انزل علیہ الانجیل هو خاتم الانبیاء لا رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم اتعتقد ان ابن مریم یاتى وینسخ بعض احکام القرآن ویزید بعضا۔

یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ اس کلام کو جو حدیث میں آیا ہے ظاہری معنی پر محمول کرے کیونکہ آیت ماکان محمد اباحمدن الخ کے خلاف ہے کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کا نام خاتم الانبیاء رکھا ہے اور اس میں کسی کا استئنا نہیں کیا اور پھر اسی خاتم النبیین کی خود اپنے کلام میں تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا لا نبی بعدی جو سمجھنے والوں کے لیے واضح بیان ہے۔ اگر ہم جائز رکھیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آسکتا ہے تو لازم آتا ہے کہ دروازہ وحی نبوت کا بند ہونے کے بعد کھل جائے۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی کیسے آسکتا ہے حالانکہ وحی نبوت منقطع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ تمام انبیاء علیہم السلام کو ختم کر دیا ہے کیا ہم اعتقاد رکھیں کہ عیسیٰ

علیہ السلام آئیں اور وہی خاتم الانبیاء ہمیں نہ ہمارے رسول۔“

مرزا صاحب کی ان تمام عبارات سے اور خصوصاً "آخری عبارت سے یہ صاف ظاہر ہے کہ خاتم التسن کے معنی آخری نبی کے ہیں اور مقصود آیت کا یہ ہے کہ آپ ﷺ کی آمد سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور خاتم التسن کے بعد نہ کوئی پرانا نبی آسکتا ہے اور نہ نیا نبی۔ اور مرزا نے یہ بھی تصریح فرمادی کہ آنحضرت ﷺ نے خاتم التسن کی تفسیر اپنے کلام میں لائمی بعدی سے فرمائی۔ مطوم ہوا کہ خاتم التسن اور لائمی بعدی میں باعتبار معنی کے کوئی فرق نہیں اس لیے کہ بیان اور مبین اور تفسیر اور مفسر متحد بالذات ہوتے ہیں۔

ایک شبہ اور اس کا جواب

شبہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی یہ تحریرات نومبر ۱۹۰۱ء سے پیش ترکی ہیں کہ جس وقت مرزا صاحب کو نبوت نہیں ملی تھی لہذا یہ تمام تحریریں منسوخ کسی جائیں گی۔

جواب: یہ ہے کہ نسخ عقائد میں جاری نہیں ہوتا نسخ احکام میں ہوتا ہے یہ ناممکن ہے کہ جو بات پہلے کفر کی تھی وہ بعد میں اسلام بن جائے۔ نیز انبیاء کفر سے قبل از نبوت بھی پاک ہوتے ہیں۔ نیز بد عمل اور بد فہم کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔

مرزائی جماعت سے ایک سوال

مرزا صاحب کی ان تمام عبارات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دعوائے نبوت سے پہلے مرزا صاحب بھی خاتم التسن کے معنی وہی سمجھتے تھے کہ جو تیرہ سو برس سے تمام دنیا کے مسلمان سمجھتے چلے آئے اور کسی نئے اور پرانے نبی کا آنا ختم نبوت کے منافی سمجھتے تھے اور ختم نبوت کا انکار اور خاتم الانبیاء کے بعد دعوائے نبوت کو کفر بتلاتے تھے۔ مرزا صاحب کا یہ پہلا عقیدہ تھا اور اب دعوائے نبوت کے بعد مرزا صاحب خاتم التسن کے دوسرے معنی بیان کرتے ہیں جس کی بناء

پر نبوت کا جاری ہونا ضروری ہو گیا اور جس مذہب میں وحی نبوت نہ ہو وہ شیطانی اور لعنتی مذہب کلمائے کاستحق ہے ص ۱۳۹/۱۳۸ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن ص ۳۰۶ ج ۲۱۔۔۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا وہ دین دین نہیں اور نہ وہ نبی نبی ہے۔

(براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۳۸ روحانی خزائن ص ۳۰۶ ج ۲۱)

اب سوال یہ ہے

کہ خاتم التسنن کے کون سے معنی صحیح ہیں۔ پس اگر خاتم التسنن کے جدید معنی صحیح ہوں (کہ جو مرزا صاحب نے دعوائے نبوت کے بعد بیان کئے اور جس کی بنا پر نبوت کا جاری رہنا ضروری ہوا) تو یہ لازم آئے گا کہ اس تیرہ صدی میں جس قدر بھی مسلمان اس عقیدہ پر گزرے وہ سب کافر اور بے ایمان مرے۔ گویا کہ عہد صحابہ کرامؓ سے لے کر اس وقت تک تمام امت کفر پر گزری اور دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب بھی جب تک اسی سابقہ عقیدہ پر رہے کافر رہے۔ دعوائے نبوت کے بعد مرزا صاحب کا ایمان صحیح اور درست ہوا۔ اور پچاس برس تک مرزا صاحب کفر اور شرک کی گندگی میں آلودہ اور لٹوٹ رہے اور غبات اور بد عقلی کے داغ سے داغی رہے کہ پچاس برس تک آیات اور احادیث کا مطلب غلط سمجھتے رہے اور تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ کافر اور غبی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص تمام امت کی تکفیر و خلیل اور تمحیق و تجلیل کرتا ہو وہ بالا اجماع کافر اور گمراہ ہے اور اگر خاتم التسنن کے پہلے معنی صحیح ہوں جو تمام امت نے سمجھے اور مرزا صاحب بھی دعوائے نبوت سے پہلے وہی سمجھتے تھے تو لازم آئے گا کہ پہلے لوگ تو سب مسلمان ہوں اور مرزا صاحب دعوائے نبوت کے بعد سابق عقیدہ کے بدل جانے کی وجہ سے خود اپنے اقرار سے کافر اور مرتد ہو جائیں۔ غرض یہ کہ خاتم التسنن کے جوئے بھی معنی لیے جائیں۔ مرزا صاحب ہر صورت میں کافر ہیں۔

چند اوہام اور ان کا ازالہ

آیت خاتم النبیین کی تفسیر واضح ہو چکی ہے۔ اب اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں لیکن مرزائی صاحبان باوجود حق واضح ہونے کے پھر بھی شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ادہام کا بھی ازالہ کر دیا جائے شاید حق تعالیٰ شانہ کی توفیق سے امر حق ان کی سمجھ میں آجائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

وہم اول

اگر خاتم النبیین کے یہ معنی ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا تو اخیر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کیسے صحیح ہو گا۔

ازالہ: خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہو گا جیسے آخری اولاد اور آخری بیٹے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے پیدا ہوئے اور آپ سے پہلے پیغمبر ہوئے۔ البتہ مرزا صاحب آنحضرت ﷺ کے بعد پیدا ہوا لہذا مرزا صاحب کا وجود تو ختم نبوت کے منافی ہو گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے معارض نہ ہو گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے پیغمبر پیدا ہوئے مگر سب سے اخیر میں آنحضرت ﷺ پیدا ہوئے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر اترے اور یہاں آکر دل گھبرایا تو حضرت جبریل نے اذان دی اور اس میں اشہد ان محمداً رسول اللہ کہا تو حضرت آدم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ محمد ﷺ کون ہیں تو یہ جواب دیا:

آخر ولدک من الانبیاء (رواہ ابن عساکر)

ترجمہ = پیغمبروں میں آپ کے آخری بیٹے ہیں۔

یعنی آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی آپ ﷺ پیدا ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے نبی ہو چکے البتہ ان کی عمر آنحضرت

ﷺ سے زیادہ طویل ہوئی۔ آنحضرت ﷺ کی بعثت سے صدہا سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور ابھی زندہ ہیں۔ اخیر زمانہ میں امت محمدیہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے نبی ہونے کی حیثیت سے نزول نہ ہو گا۔ نزول کے بعد اپنی نبوت و رسالت اور اپنی کتاب یعنی انجیل اور اپنی شریعت کی طرف سے کسی کو دعوت نہیں دیں گے بلکہ خاتم التسنین کا نائب بن کر لوگوں کو خالص قرآن و حدیث کے احکام پر چلائیں گے اور خود بھی شریعت محمدیہ ﷺ کے اتباع اور پیروی کو اپنے لیے باعث صد فخر و ناز سمجھیں گے۔ خاتم الانبیاء ہی کی شریعت کا ڈنکا بجائیں گے اس لیے شیخ اکبرؒ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو حشر ہوں گے ایک حشر انبیاء و رسل کے زمرہ میں ہو گا اور دوسرا حشر امت محمدیہ ﷺ کے زمرہ میں ہو گا۔

مرزا صاحب کا خود اقرار و اعتراف

مرزا صاحب تریاق القلوب صفحہ ۱۵۶ روحانی خزائن ص ۳۷۹-۳۷۸ ج ۱۵ میں لکھتے ہیں ”ضرور ہوا کہ وہ شخص جس پر یہ تمام و کمال دورہ آدمیت ختم ہو وہ خاتم الاولاد ہو یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ نکلے۔“ پس جس طرح مرزا صاحب کے نزدیک خاتم الاولاد کے یہ معنی ہیں کہ اس کے بعد عورت کے پیٹ سے کوئی پیدا نہ ہو اسی طرح خاتم التسنین کے یہ معنی ہوں گے کہ آپ کے بعد کوئی نبی عورت کے پیٹ سے پیدا نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے پیدا ہوئے۔ مقام تعجب اور مقام حیرت ہے کہ کسی پرانے نبی کا آنا خاتم التسنین کے مخالف ہو مگر قادیان میں کسی ایسے نبی اور رسول کا آنا جو تمام انبیاء و مرسلین بلکہ سرور عالم ﷺ سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو، یہ خاتم التسنین کے خلاف نہ ہو۔ مفضل نبی کی آمد کے لیے تو آمد کا دروازہ بند ہے اور تمام انبیاء سے افضل اور برتر کی آمد کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب سلسلہ انبیاء میں

کوئی فرد اور کوئی عدد باقی نہیں رہا اس لیے پہلے ہی نبی کو لانا پڑا۔

وہم دوم

خاتم النسن کے معنی یہ ہیں کہ آپ ﷺ نبیوں کی مرہیں اور آپ کے بعد آپ کی مر اور تصدیق اور اتباع سے قیامت تک نبی بنتے رہیں گے۔

ازالہ : یہ شبہ بالکل لغو اور مہمل ہے۔ لغت اور قواعد عربیت کے بھی خلاف ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ خاتم القوم کے معنی یہ ہوں کہ جس کی مر سے قوم بنے اور خاتم المہاجرین کے معنی یہ ہوں کہ جس کی مر سے مہاجر بنیں اور خاتم الاولاد کے معنی یہ ہوں کہ جس کی مر اور تصدیق اور اتباع سے اولاد بنے سبحان اللہ! کیا عجیب و غریب حقائق و معارف ہیں۔

حق تعالیٰ شانہ کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اس لیے خاتم النسن بنا کر بھیجا تاکہ سلسلہ نبوت ختم ہو اور مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں بلکہ انبیاء تراشی اور پیغمبر سازی یعنی نبی بنانے کے لیے آپ کو بھیجا۔ علاوہ ازیں یہ مہمل تاویل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت ولکن نبیا ختم النبیین اور ان احادیث میں جن میں آخر الانبیاء اور لانبی بعدی کا لفظ آیا ہے نہیں چل سکتی، نیز خاتم کے معنی ختم کرنے والے کے ہیں پس اگر آپ کی مر یا اتباع سے نبی بننے لگیں تو آپ خاتم نبوت نہ ہوں گے بلکہ فاتح نبوت ہوں گے یعنی نبوت کا دروازہ کھولنے والے ہوں گے۔

وہم سوم

مرزا صاحب ”ایک فطی کا ازالہ“ ص ۵ روحانی خزائن ص ۲۰۹ ج ۱۸ پر لکھتے ہیں کہ میں علی طور پر محمد ہوں پس اس طور سے خاتم النسن کی مر نہیں ٹوٹی۔

ازالہ : یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزا اور تمسخر ہے کہ مال بھی چوری ہو گیا اور مر بھی نہیں ٹوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت پر مہر لگائی مگر مرزا صاحب نے نبوت

کو اس طرح ہوشیاری سے چرایا کہ چوری بھی کر لی اور خدا کی لگائی ہوئی مراسی طرح رہی۔ کیا یہ حق جل شانہ کے ساتھ تمسخر نہیں۔ جو شخص بادشاہ کے ساتھ اتحاد کا دعویٰ کرے اور بادشاہ کا لقب اپنے لیے ثابت کرے بلاشبہ وہ شخص باغی اور قاتل گردن زدنی ہے۔ نیز حضرات انبیاء اگرچہ نور نبوت کے اعتبار سے سب متحد ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ لا نفرق بین احد من رسلہ لیکن شخصیت کے اعتبار سے بلاشبہ اشخاص متفاوہ ہیں۔ ہر نبی کی ذات بابرکات علیہہ اور جدا ہے۔ زمانہ ہر ایک کا جدا، مکان ہر ایک کا جدا، صفات اور معجزات ہر ایک کی جدا، اسی تغائرِ شخصی کی بناء پر آنحضرت ﷺ کو خاتم التسنین کہا گیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ ختم نبوت کا وار و مدار روحانی اتحاد پر نہیں بلکہ شخصی تغائر پر ہے اور یہ واضح ہو جائے کہ اجراء نبوت یعنی دعوائے پیغمبری کے لیے مجاہد اتحاد کا دعویٰ ذرہ برابر مفید نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام میں اتحاد نہیں تھا لیکن باوجود کمال اتحاد و محبت اور باوجود کمال اخوت و صداقت کے موسیٰ علیہ السلام اپنے مقام پر تھے اور ہارون علیہ السلام اپنے مقام پر نیز اگر بالفرض و استتدیر یہ ثابت ہو جائے کہ اس شخص کو حیثیتاً نہ کہ سیاستاً ”فانی الرسول“ کا مقام حاصل ہے تب بھی اس کو نبی کا لقب نہیں مل سکتا۔ اس لیے کہ اگر فانی الرسول کی وجہ سے غیر تشریحی اور غیر مستقل نبی کا لقب مل سکتا ہے۔ تو مستقل رسول اور مستقل نبی کا لقب کیوں نہیں مل سکتا اور فانی اللہ کی وجہ سے اللہ اور خدا کا لقب کیوں نہیں مل سکتا۔

ظلی اور بروزی نبوت کا عنوان محض فریب ہے۔

ختم نبوت کا مسئلہ چونکہ قرآن اور حدیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے، اس لیے مرزا صاحب نے ان نصوصِ قطعیہ کی ظاہری مخالفت سے بچنے کے لیے ایک جدید راہ نکالی اور دعوائے نبوت کی پر وہ پوشی کے لیے ایک جدید اصطلاح اختراع کی کہ جس کا کہیں کتاب و سنت اور اقوال صحابہ اور علماء امت میں کوئی نام و نشان نہیں، وہ یہ کہ میں حضور کے خاتم التسنین ہونے کا قائل ہوں اور

میری نبوت محض نعلی اور بروزی نبوت ہے، یہ سب دھوکہ اور فریب ہے۔ اور درحقیقت مراد حقیقی نبوت ہے۔ مرزا صاحب کی بے شمار عبارات سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا صاحب تشریحی اور مستقل نبوت کے مدعی ہیں، جس پر مفصل کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ مرزا محمود حقیقتہ النبوة صفحہ ۲۶۵ و ۲۶۶ میں بحوالہ ایک غلطی کا ازالہ لکھتے ہیں۔

”میں کہتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو درحقیقت خاتم النبیین تھے، مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں، اور نہ اس سے مہر خاتیت ٹوٹی ہے۔ کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت و آخرین منهم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا کیونکہ ظل و سایہ اپنی اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔“

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۸ روحانی خزائن ص ۲۱۲ ج ۱۸)

اس عبارت میں مرزا صاحب نے آنحضرت ﷺ کی مینیت کا دعویٰ کیا ہے کہ میں بیینہ محمد رسول اللہ ہوں۔ دنیا کا کون نادان اس کو قبول کر سکتا ہے کہ قادیان کا ایک دہقان بیینہ سید الانس و الجان ہو اور پھر اس پر یہ دلیل کہ سایہ اپنی اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ نہ مظلوم اس سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ مراد ہے کہ سایہ اور ذی سایہ بالکل عین اور متحد ہوتے ہیں تو سراسر بداہت اور عقل کے خلاف ہے۔ ظل اور اصل کا عین اور متحد ہونا بدیہی البطلان ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ ذی ظل کی کوئی صفت اور کوئی شان اس میں آجائے، تو اس اعتبار سے یہ مطلب ہو گا کہ حضور کی صفات نبوت اور کمالات رسالت کا ایک سایہ اور پر توہ ہوں تو اس سے نہ نبوت ثابت ہوتی ہے اور نہ آنحضرت ﷺ کے ساتھ اتحاد اور مینیت کا دعویٰ ثابت ہو سکتا ہے۔ حدیث میں ہے۔

السلطان ظل اللہ فی الارض۔ (بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے۔)
 تو کیا اس سے خلفاء اور سلاطین کا بعینہ خدا ہونا ثابت ہو جائے گا۔
 علاوہ ازیں یہ 'خلیت امت محمدیہ' کے تمام علماء اور صلحاء کو حاصل ہے۔
 اس میں مرزا صاحب کی کیا خصوصیت؟ امت میں جو بھی کمال ہے وہ حضور ہی کی
 نبوت کا سایہ اور پر توہ ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ مرزا صاحب نے محض اپنی پر وہ پوشی کے لیے اس قسم کے تلیس
 آمیز عنوان اختیار کئے کبھی اپنے آپ کو نعلی نبی ظاہر کیا۔ اور کبھی بروزی نامہ عوام
 اور سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں کہ میری نبوت خاتم النبیین کے خلاف
 نہیں ورنہ درحقیقت مرزا صاحب اپنی نبوت کو تمام انبیاء کی نبوت سے افضل اور
 اکمل سمجھتے ہیں مگر اہل علم اور اہل فہم خوب جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی
 تلیسات اور طمع کاریوں سے حقائق شرعیہ نہیں بدل سکتے۔ یہ نعلی اور مجازی اور
 بروزی نبوت کی اصطلاح محض مرزا صاحب کی اختراع ہے۔ کتاب و سنت اور اقوال
 صحابہؓ اور تابعینؓ میں کہیں اس کا نام و نشان نہیں۔ کسی قسم کی نبوت کا بھی اگر کوئی
 دروازہ کھلا ہوا ہوتا، تو سب سے پہلے ان مقدس اور پاک ہستیوں پر کھلتا کہ جو شمع
 نبوت پر پردانوں کی طرح گرے اور آپ ﷺ کے عشق اور محبت میں ایسے
 غرق اور فنا ہوئے کہ اولین اور آخرین میں کہیں اس کی نظیر نہیں جس طرح آپ
 ﷺ پر نبوت ختم ہوئی اسی طرح آپ پر محبوبیت اور آپ کی امت پر محبت
 اور عاشقیت ختم ہو گئی۔ آسمان اور زمین نے نہ ایسا محبوب دیکھا اور نہ ایسے عاشق
 جان نثار دیکھے نہ ایسی شمع نبوت دیکھی اور نہ ایسے پردائے دیکھے۔

اگر کسی قسم کی نبوت کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہوتا تو اس یار غار اور رفیق
 جان نثار کو جس کو حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خانی اشیین اور اتقی اور اولوا الفضل
 کے لقب سے سرفراز کیا ہے اس کو کوئی نہ کوئی نعلی اور بروزی نبوت ضرور ملتی۔

فاروق اعظم کے متعلق ارشاد نبوی ہے:

لوکان بعدی نبی لکان عمر (میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔)

کلمہ لو محاورہ عرب میں محالات کے لیے مستعمل ہوتا ہے جیسا کہ لوکان فیہما الہة الا اللہ لفسدنا قل لوکان معہ الہة اذ اور امور ممکنہ کے لیے کلمہ ان اور اذا مستعمل ہوتا ہے۔ پس اس حدیث میں کلمہ لو کا استعمال اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور ﷺ کے بعد نبی ہونا محال اور ناممکن ہے اس لیے بطور فرض محال کے بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر ہوتا لیکن میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر حضور ﷺ کے بعد کسی قسم کی بھی نبوت باقی ہوتی تو عمر کے لیے ضرور ثابت فرماتے۔ اس لیے کہ خود حضور ﷺ نے حضرت عمرؓ کو فاروق اور محدث من اللہ اور ملہم بالصواب جیسے معزز القاب سے سرفراز فرمایا ہے۔

مسند بزاز اور معجم طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری چار وزیروں سے تائید فرمائی دو آسمان والوں میں سے ہیں ایک جبریل اور ایک میکائیل اور دو زمین والوں میں سے ہیں ابوبکرؓ اور عمرؓ

(خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۲۰۰)۔

معلوم ہوا کہ ابوبکرؓ اور عمرؓ زمین میں جبریل اور میکائیل کا نمونہ اور ہم رنگ ہیں اور حضور پر نور ﷺ کے وزیر باندہ ہیں مگر کسی قسم کے نبی نہیں۔ اور اگر بالفرض والتقدیر نبی ہوتے تو حضور ﷺ علیہ وسلم کے تابع اور امتی ہوتے مگر یہ بھی معلوم ہوا کہ نبوت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ حسب شہادت نبوی ابوبکرؓ و عمرؓ کی تو یہ شان تھی۔

نقش آدم لیک معنی جبریل
رستہ از جملہ ہواؤ قال و قیل

جب رشک جبرئیل و میکائیل نبی نہ ہوئے تو کیا ہم رنگ عزائیل نبی ہیں؟

آنحضرت ﷺ جب تبوک تشریف لے جانے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اہل بیت کی نگرانی کے لیے چھوڑا تو حضرت علیؑ رنجیدہ ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ کو بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں (یعنی دوسرے احباب تو جہاد میں حضورؐ کے ہم رکاب ہوں گے اور میں یہاں غم فرقت میں بے تاب رہوں گا) آنحضرت ﷺ نے ان کی تسلی کے لیے یہ ارشاد فرمایا:

الاترضی ان نکون منی بمنزلہ ہارون من موسی الا انه لیس نبی بعدی۔ (بخاری غزوہ تبوک)

ترجمہ = اے علیؑ! کیا تو اس بات پر راضی نہیں؟ کہ تجھ کو مجھ سے وہ نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

حضرت ہارون علیہ السلام مستقل نبی نہ تھے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر اور تابع تھے۔ کما قال تعالیٰ حاکبیا من الکلبیم واجعل لی وزیرا من لہلی ہارون اور توریت اور شریعت موسویہ کے قبیح تھے۔ مطلق نبوت میں دونوں شریک تھے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو دو چیزیں حاصل تھیں۔ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرکت فی النبوت اور دوسری وزارت اور نیابت، آنحضرت ﷺ نے تبوک جاتے وقت جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا کہ تو میرے جانے کے بعد میرا قائم مقام ہے جیسا کہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام تھے کوہ طور پر جانے کے بعد، تو غلط فہمی سے بچنے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ”الا انه لیس بعدی نبی“ یعنی تم صرف میرے نائب اور قائم مقام ہو گے، نبی نہ ہو گے۔ تم کو حضرت ہارون سے صرف قائم مقامی اور نیابت میں

مشابہت ہے، نبوت میں مشابہت نہیں اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ مطوم ہوا کہ الا نہ لیس بعلی نبی میں نبوت غیر مستقلہ کی نفی مراد ہے اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مستقل نبوت کا تو، تو ہم بھی نہیں ہو سکتا اور پھر خصوصاً "آپ" کی موجودگی اور زمانہ حیات میں کس کو یہ وہم اور خطرہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو من جانب اللہ مستقل کتاب شریعت عطا ہو جائے گی۔ اور مستقام ان پر اللہ کی وحی نازل ہونے لگے گی۔ علاوہ ازیں مستقل نبی کا کسی کے قائم مقام ہونا اس کے استقلال کے متافی ہے۔ اب اس تمام تقریر سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ الا نہ لیس بعلی نبی میں نبوت غیر مستقلہ کی نفی مراد ہے۔

اور علی ہذا اگر حضور پر نور ﷺ کے صاحب زادے حضرت ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ بھی مستقل نبی نہ ہوتے بلکہ آپ ﷺ ہی کی شریعت کے تابع ہوتے۔ مطوم ہوا کہ آپ ﷺ کے بعد نبوت غیر مستقلہ بھی باقی نہیں رہی اور یہ تمام روایتیں نہ باہم متعارض اور متناقض ہیں اور نہ آیت "خاتم النبین" اور حدیث "لانی بعدی" کے محارض اور متافی ہیں اس لیے کہ سب جگہ حکم فرضی اور تقدیری ہے اور مطلب سب کا یہ ہے کہ اگر بفرض محال میرے بعد نبوت باقی ہوتی تو میرے بعد صحابہ کی ایک جماعت ہوتی جن کو میرے بعد نبوت ملتی جن میں عمر اور علی اور ابراہیم ہوتے لیکن میرے بعد نبوت نہیں اس لیے میرے صحابہ میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی۔

وہم چہارم

خاتم النبین کی آیت میں النبین پر الف لام عہد کا ہے اور النبین سے خاص تشریحی انبیاء مراد ہیں کہ جو جدید کتاب اور جدید شریعت لے کر آئے۔ لہذا آنحضرت ﷺ تشریحی انبیاء کے خاتم ہوں گے مطلق انبیاء کے خاتم نہ ہوں

گے۔

ازالہ : ہم پہلے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ النسن میں الف لام استغراق کا ہے اور لغت اور محاورہ عرب کے اعتبار سے خاتم النسن کے معنی آخر النسن کے ہیں یعنی تمام انبیاء کے ختم کرنے والے۔ الف لام حمد کے لیے یہ شرط ہے کہ معبود کا کلام سابق میں صراحت "یا اشارة" ذکر ہو اور اس آیت کے سیاق و سباق میں کہیں تشریحی انبیاء کا ذکر نہیں بلکہ مطلق انبیاء کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: سنة اللہ فی الذین خلوا من قبل الی قوله الذین یبلغون رسالت اللہ و یخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ۔

الذین خلوا من قبل میں تمام انبیاء داخل ہیں اور علی ہذا خدا تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا اور سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرنا یہ مطلق نبوت کے لیے لازم اور نبی کے لیے ضروری ہے ورنہ آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ احکام خداوندی کی تبلیغ اور سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرنا، یہ فریضہ فقط تشریحی انبیاء کا ہے۔ غیر تشریحی نبی کے لیے یہ باتیں ضروری نہیں ہیں۔

علاوہ ازیں مرزا صاحب تو اس معمولی اور گھٹیا نبوت پر راضی نہیں، وہ تو مستقل نبوت اور مستقل رسالت اور تشریحی نبوت کے مدعی ہیں۔

(اربعین نمبر ۴ ص ۷ روحانی خزائن ص ۳۳۵ طابع ۱۷)

مرزائی جماعت سے چند سوال

یہ مسئلہ فریقین میں متفق علیہ ہے کہ تشریحی نبوت کا دعویٰ کفر ہے خود مرزا صاحب کی تصریحات اس پر موجود ہیں کہ جو شخص تشریحی نبوت کا دعویٰ کرے۔۔۔ وہ شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مجموعہ اشتہارات ص ۲۳۰، ۲۳۱ ج ۱، اختلاف صرف نبوت غیر مستقل کے بارے میں ہے کہ آیا وہ جاری ہے یا وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس لیے اب اس کے متعلق فریق مخالف سے چند سوال ہیں:

- ۱- یہ کہ مرزا صاحب نے اول اپنی کتابوں میں تشریحی نبوت کے دعویٰ کو صریح کفر قرار دیا اور پھر خود صراحتاً "تشریحی نبوت کا دعویٰ کیا۔ کیا یہ صریح تقاض اور تعارض نہیں؟ اور کیا مرزا صاحب خود اپنے اقرار سے کافر نہیں ہوئے؟
- ۲- یہ کہ جب مرزا صاحب تشریحی نبوت اور مستقل رسالت کے مدعی ہیں تو پھر ان کو خاتم النبیین میں اس تاویل کرنے سے کہ غیر تشریحی نبی مراد ہیں کیا فائدہ ہوا؟
- ۳- یہ کہ نصوص قرآنیہ اور صدہا احادیث نبویہ ہے مطلقاً "نبوت کا انتطاع اور انتقام معلوم ہوتا ہے اس کے برعکس کوئی ایک روایت بھی ایسی ہے؟ کہ جس میں یہ بتلایا گیا ہو کہ حضور اکرم ﷺ کے بعد نبوت غیر مستقلہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر ہے؟ تو پیش کی جائے۔
- ۴- یہ کہ نبوت غیر مستقلہ کے ملنے کا معیار اور ضابطہ کیا ہے؟
- ۵- کیا وہ معیار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں موجود نہ تھا کہ جس کی بناء پر حضرات صحابہ باوجود افضل الامم اور خیر القرون ہونے کے اس منقبت سے محروم رہے۔
- ۶- کیا اس ساڑھے تیرہ سو سال کی طویل و عریض مدت میں آئمہ حدیث اور ائمہ اجتہاد اور اولیاء اور عارفین اور اقطاب اور ابدال و مجددین میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا کہ جو علم و فہم اور ولایت اور معرفت میں مرزا صاحب کے ہم پلہ ہوتا اور نبوت غیر مستقلہ کا منصب پاتا۔ کیا رسول اللہ ﷺ کی ساری امت میں سوائے قادیان کے وہقان کے کوئی بھی نبوت کے قائل نہ نکلا۔
- ۷- آنحضرت ﷺ کے بعد امت سے لوگوں نے نبوت کے دعوے کئے بعض ان میں سے تشریحی نبوت کے مدعی تھے جیسے صالح بن عرفیف اور بہاء الحق بابلی اور بعض غیر تشریحی نبوت کے مدعی تھے جیسے ابو یعلیٰ

وغیرہ۔ ان سب کے جھوٹا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ وہ بھی کوئی نئی اور
بروزی اور مجازی وغیرہ وغیرہ کی تاویل کر لیں گے۔

وہم پنجم

خاتم التسنن کا اطلاق ایسا ہے کہ کسی کو خاتم المحدثین اور خاتم المفسرین
کہتے ہیں۔ کسی کے نزدیک یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب اس کے بعد کوئی محدث اور
مفسر پیدا نہ ہو گا۔ بلکہ یہ کلام بطور مبالغہ استعمال ہوتا ہے۔

مرزائی جماعت کا یہ بدامیہ ناز شبہ ہے اور طرہ یہ ہے کہ اس کی تائید میں
ایک روایت بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے عم محترم
حضرت عباسؓ سے فرمایا:

اطمنن یا عم فانک خاتم المهاجرین فی الهجرة کما لنا خاتم
النبيين فی النبوة۔

(کنز العمال ص ۶۱۷۸ ج ۶)

ترجمہ = اے چچا آپ اطمینان رکھیے اس لیے کہ آپ ہجرت کے بارے
میں ایسے ہی خاتم المہاجرین ہیں جیسے میں دوبارہ نبوت خاتم التسنن ہوں۔

ازالہ : اس دوسرے کا جواب یہ ہے کہ خاتم المفسرین اور خاتم المحدثین اور خاتم
المحققین اس قسم کے محاورات میں بھی خاتم کے معنی آخری کے ہیں۔ بندہ کو چونکہ
آئندہ کی خبر نہیں ہوتی اس لیے اپنے زعم کے مطابق یہ سمجھ کر کہ یہی آخری
محدث اور آخری مفسر ہیں خاتم المحدثین اور خاتم المفسرین کہہ دیتا ہے۔

یہ محاورہ اسی مقام پر استعمال ہوتا ہے کہ جہاں کسی کی افضلیت ثابت کرنی
ہو اور ظاہر ہے کہ افضلیت جب ہی ثابت ہو سکتی ہے کہ جب کمال اور افضلیت کا
آخری اور انتہائی درجہ اس کے لیے ثابت کیا جائے چونکہ بندہ اس قسم کے الفاظ
اپنے علم کے مطابق استعمال کرتا ہے اس لیے اس قسم کے الفاظ کو مجاز اور مبالغہ پر
محمول کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ محدثیت اور تحقیق کمالات کسبہ

میں سے ہے جو بندہ کے کسب اور اختیار سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ قیامت تک ان کا دروازہ کھلا رہے گا۔ کسی کو خاتم المحدثین کہنے کے بعد کسی کا تو کیا خود کہنے والے کا بھی یہ گمان نہیں ہوتا کہ اب اس کے بعد کوئی محدث پیدا نہ ہو گا۔ پس باوجود اس علم کے یہ محاورہ یا تو بطور مبالغہ بولا جاتا ہے یا بطور تاویل کے کہ یہ اپنے زمانہ کے آخری محقق اور آخری محدث ہیں۔ ورنہ اگر اس قسم کی تاویل نہ کی جائے تو یہ کلام لغو اور مہمل بلکہ صریح کذب ہو گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ کلام اس ظلم و جہول اور نادان انسان کا ہے جس کو یہ خبر بھی نہیں کہ کل کون محدث اور مفسر اور کون فاسق و فاجر پیدا ہو گا۔ اس نے اپنے زعم اور اپنے خیال کی بناء پر اگر کسی کو خاتم المحدثین اور خاتم المفسرین کہہ دیا تو کیا خداوند علام الغیوب کہ جس کے علم محیط سے کوئی ذرہ باہر نہیں اس کے کلام حقیقت التیام کو بھی اسی بندہ ظلم و جہول کے ظنی اور تخمینی اور مبالغہ آمیز کلام پر قیاس کیا جائے گا۔ حاشا کلا ہرگز نہیں۔ اس عظیم و خیر نے جس کے لیے خاتم التسنن کا لفظ ارشاد فرمایا ہے، وہ یقیناً حقیقت پر محمول ہو گا۔ خداوند علام کے کلام کو کسی طرح مجاز اور شاعرانہ مبالغہ پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ بلا ضرورت حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کو اختیار کرنا باجماع علماء اصول و عربیت ناجائز ہے۔ علاوہ ازیں جب آیات اور روایات اور اقوال صحابہ و تابعین اور تمام مفسرین اور محدثین کی تصریحات سے یہ ثابت ہو گیا کہ خاتم التسنن کے معنی آخری نبی کے ہیں تو اب اس کے بعد کسی کو لب کشائی کا منصب ہی باقی نہیں رہتا۔ عجیب بات ہے کہ جس ذات صَلَّى عَلَيْكُمْ بابرکات پر خاتم التسنن کی آیت نازل ہوئی اس کے بیان کردہ معنی تو معتبر نہ ہوں اور مرزائی صاحبان کے اٹلے سیدھے بیان کردہ معنی معتبر ہو جائیں اور اگر بالفرض و التقدیر خاتم التسنن کے یہی عرفی اور مجازی اور تادیلی معنی مراد لے جائیں تو پھر آپ کی خصوصیت ہی کیا ہوئی؟ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کو بھی اس عرفی معنی کے اعتبار سے خاتم التسنن کہہ سکتے ہیں۔

حدیث عباسؓ کا مطلب

رہا حدیث عباسؓ کا مطلب؟ سو وہاں بھی خاتم معنی آخری ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے ہجرت فرض تھی۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت فرض نہ رہی تھی جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے لاہجرۃ بعد الفتح حضرت عباسؓ نے فتح مکہ سے کچھ ہی قبل ہجرت فرمائی جیسا کہ اصابہ میں ہے:

ہاجر قبل الفتح بقلیل وشہد الفتح۔

(اصابہ ص ۶۱۸ ج ۳)

ترجمہ = حضرت عباسؓ نے فتح مکہ سے کچھ ہی پہلے ہجرت فرمائی اور فتح مکہ میں حاضر ہوئے۔

اس لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس کا صدمہ اور غم تھا کہ میں ہجرت میں سابقین اولین میں سے نہ ہوا اور ساقیت کی فضیلت مجھ کو حاصل نہ ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اگر ساقیت کی فضیلت فوت ہو گئی تو خاتیت کی فضیلت تو حاصل ہو گئی جس طری ساقیت کی فضیلت کی وجہ سے ہے اسی طرح خاتیت بھی فضیلت کی وجہ ہے اور فرمایا کہ تم خاتم المہاجرین ہو۔ جس طرح میں خاتم التسنین ہوں۔ دونوں جگہ خاتم کے معنی آخری کے ہیں۔ حضرت عباسؓ آخری مہاجر تھے جیسے آنحضرت ﷺ آخری نبی تھے۔

وہم ششم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ آپ یہ فرماتی ہیں قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لانی بعدہ یعنی آپ ﷺ کو خاتم التسنین کو مگر یہ نہ کہو کہ "لانی بعدہ" کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے نزدیک حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ نبوت ابھی ختم نہیں ہوئی۔

ازالہ : حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ ارشاد تمامہ مجمع البعاری کے کلمہ میں مذکور ہے۔ مرزائی جماعت نے اس کو ناتمام نقل کیا ہے۔ ہم اس کو بعینہ اور تمامہ

نقل کرتے ہیں

وفی حدیث عیسیٰؑ انه یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب ویزید
فی الحلال اے یزید فی حلال نفسہ بان یتزوج ویولد له وکان لم
یتزوج قبل رفعہ الی السماء فزاد بعد الہبوط فی الحلال فحینئذ
یومن کل احد من اهل الکتب یتیقن بانہ بشر و عن عائشۃ قولوا
انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لانبی بعدہ و ہذا ناظر الی نزول عیسیٰ
و ہذا ایضا لاینا فی حدیث لانبی بعدی لانہ لراد لانبی ینسخ
شرعہ

(مجلد جمع البہار) ص ۸۵)

ترجمہ = حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ حضرت عیسیٰؑ نزول
کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے اور اپنے نفس کی
حلال چیزوں میں اضافہ کریں گے یعنی نکاح کریں گے اور آپ کی اولاد ہو
گی کیونکہ حضرت عیسیٰؑ نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے نکاح نہیں
فرمایا تھا۔ آسمان سے اترنے کے بعد نکاح فرمائیں گے (جو لوازم بشریت
سے ہے) پس اس حال کو دیکھ کر ہر شخص اہل کتاب میں سے ان کی نبوت
پر ایمان لے آئے گا اور اس بات کا یقین کرے گا کہ عیسیٰؑ علیہ السلام
بلاشبہ ایک بشر ہیں خدا نہیں جیسا کہ نصاریٰ اب تک سمجھتے رہے۔ اور
عائشہ صدیقہؓ سے جو یہ منقول ہے کہ وہ فرماتی تھیں کہ آپ ﷺ کو
خاتم التمسین کہو اور یہ نہ کہو کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والا
نہیں، ان کا یہ ارشاد حضرت عیسیٰؑ کے نزول کو پیش نظر رکھ کر تھا اور
حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا حدیث لانبی بعدی کے منافی
نہیں کیونکہ حضرت عیسیٰؑ نزول کے بعد حضور ﷺ ہی کی شریعت
کے قیام ہوں گے اور لانبی بعدی کی مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہ آئے گا
جو آپ کی شریعت کا ناخ ہو۔ (انفس)۔

اب اس عبارت سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ مطلب نہیں کہ حضور ﷺ خاتم النبیین نہیں۔ اور آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کے نبی کا آنا جائز سمجھتی ہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ کلمہ لائمی بعدی کے ظاہری عموم سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد اگلا اور پچھلا اور نیا اور پرانا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حالانکہ احادیث صحیحہ اور صحیحہ اور متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول قطعاً ثابت ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ کو یہ خیال ہوا کہ مبادا عوام اس ظاہری عموم کی وجہ سے حدیث لائمی بعدی کو نزول عیسیٰ بن مریم کے منافی اور محارض نہ سمجھ جائیں اس لیے احتیاطاً اس موہم لفظ کے استعمال سے منع فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے محض عوام کو ابہام سے بچانے کے لیے لائمی بعدی کہنے سے منع فرمایا۔ اور اسی قسم کا قول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

عن الشعبي قال قال رجل عنده المغيرة بن شعبة صلى الله على محمد خاتم الانبياء لاني بعلمه فقال المغيرة بن شعبة حسبك انا قلت خاتم الانبياء فانا كنا نحدث ان عيسى عليه السلام خارج فان هو خرج فقد كان قبله وبعلمه (تفسیر در منشور ص ۲۰۴ ج ۵۔)

ترجمہ = شعبی سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت مغیرہ کے سامنے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے محمد ﷺ پر جو کہ خاتم الانبیاء ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں حضرت مغیرہ نے فرمایا خاتم الانبیاء کہہ دینا کافی ہے۔ یعنی لائمی بعدی کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر تشریف لائیں گے۔ پس جب وہ آئیں گے تو ایک ان کا آنا محمد ﷺ سے پہلے ہوا اور ایک آنا حضور ﷺ کے بعد ہو گا۔

پس جس طرح مغیرہ رضی اللہ عنہ ختم نبوت کے قائل ہیں مگر محض عقیدہ

نزدول عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی حفاظت کے لیے لانی بعدی کہنے سے منع فرمایا اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ختم نبوت کے عقیدہ کو تو خاتم التسنن کے لفظ سے ظاہر فرمایا اور اس موہم لفظ کے استعمال سے منع فرمایا کہ جس لفظ سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے خلاف کا ابہام ہوتا تھا اور حاشا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضور ﷺ کے بعد کسی قسم کی نبوت کو جائز کہتی ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ لانی بعدی کا لفظ احادیث مشورہ سے ثابت ہے اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے:

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقضى بعده من النبوة الا المبشرات قالوا يا رسول الله وما المبشرات قال الرويا الصالحة يراها المسلم لوتري له (كذاني الكنز برواية احمد و الحلب)

ترجمہ = حضرت عائشہ صدیقہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت کے اجزاء میں سے سوائے مبشرات کے کوئی جزء باقی نہیں رہے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا چیز ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اچھا خواب جس کو مسلمان خود دیکھے یا کوئی دوسرا اس کے لیے دیکھے۔

پس جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے لانی بعدی کہنے سے اس لیے منع فرمایا کہ وہ آپ ﷺ کے بعد نبوت کو جاری سمجھتی تھیں۔ نیز لانی بعدی کا بعینہ وہی مطلب ہے جو خاتم التسنن کا ہے۔ اختتام نبوت پر دونوں لفظ یکساں طور پر دلالت کرتے ہیں معلوم ہوا کہ ممانعت کی یہ وجہ نہیں بلکہ احسن وجہ یہ ہے کہ لفظ لانی بعدی میں عموم کی وجہ سے بظاہر عوام کے لیے ایہام کا اندیشہ تھا کہ کوئی غلط فہمی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار نہ کر دے اس لیے عقیدہ عوام کی حفاظت کے لیے حضرت عائشہ

صدیقہ نے یہ فرمایا کہ فقط لفظ خاتم التسنین پر اکتفا کرو کیونکہ یہ لفظ اختتام نبوت و رسالت کے بیان کرنے کے لیے کافی اور شافی ہے اور آپ ﷺ کی افضلیت اور سیادت کو بھی ظاہر کرتا ہے اور لانی بعدی کا لفظ مت استعمال کرو جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے خلاف کا ایہام ہوتا ہو اور لوگوں کے دل میں یہ دوسوہ گزرے کہ یہ حدیث دوسری حدیث کے معارض ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اگر ختم نبوت کی منکر ہوتیں تو خاتم التسنین کہنے کا کیوں حکم دیتیں کہ جو صراحت "ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔"

عجیب بات ہے کہ مرزائی صاحبان کے نزدیک ایک مجہول الاسناد اثر تو معتبر ہو جائے اور صحیح اور صریح روایتوں کا دفتر معتبر نہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لفظ ان کی خواہش کے مطابق کہیں سے مل جائیں وہ تو قبول ہے اور جو آیت اور حدیث خواہ کتنی صریح اور صاف کیوں نہ ہو وہ قبول۔ افکلما جاء کم رسول بہالاتہوی انفسکم استکبرتم۔

مرزائی مفسر کی شہادت

محمد علی لاہوری اپنے بیان القرآن میں لکھتے ہیں:

"اور ایک قول حضرت عائشہ کا پیش کیا جاتا ہے جس کی سند کوئی نہیں۔ قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لانا نبی بعدہ خاتم التسنین کو اور یہ نہ کہو کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں اور اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نزدیک خاتم التسنین کے معنی کچھ اور تھے اور کاش وہ معنی بھی کہیں مذکور ہوتے۔ حضرت عائشہ کے اپنے قول میں ہوتے۔ کسی صحابی کے قول میں ہوتے۔ نبی کریم ﷺ کی حدیث میں ہوتے مگر وہ معنی درہن قائل ہیں اور اس قدر حدیثوں کی شہادت جن میں خاتم التسنین کے معنی لانی بعدی کئے گئے ہیں ایک بے سند قول پر پس پشت پھینکی جاتی ہیں۔ یہ فرض پرستی ہے خدا پرستی نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی تمیں حدیثوں کی شہادت ایک بے سند قول کے سامنے

روکی جاتی ہے۔ اگر اس قول کو صحیح مانا جائے تو کیوں اس کے معنی یہ نہ کئے جائیں کہ حضرت عائشہؓ کا مطلب یہ تھا کہ دونوں باتیں اکٹھی کہنے کی ضرورت نہیں خاتم النبیین کافی ہے جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ کا قول ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے کہا خاتم الانبیاء و الانبیاء لانیسی بعدہ تو آپ نے فرمایا خاتم الانبیاء تجھے کہتا بس ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا مطلب ہو کہ جب اصل الفاظ خاتم النبیین واضح ہیں تو وہی استعمال کرو یعنی الفاظ قرآنی کو الفاظ حدیث پر ترجیح دو۔ اس سے یہ کہاں نکلا کہ آپ الفاظ حدیث کو صحیح نہ سمجھتی تھیں اور اتنی حدیثوں کے مقابل اگر ایک حدیث ہوتی تو وہ بھی قابل قبول نہ ہوتی چہ جائیکہ صحابی کا قول ہو جو شرعاً محبت نہیں اتنی۔“

بیان القرآن ج ۲ ص ۱۱۰۳-۱۱۰۴

وہم ہفتم

شیخ محی الدین بن عربی اور بعض بزرگوں کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے بعد مطلقاً نبوت مرتفع نہیں ہوئی بلکہ تشریحی نبوت مرتفع ہوئی اور حدیث نبوی لانی بعدی کا یہ مطلب ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا نبی نہ ہوگا کہ جو آپ کی شریعت کے خلاف ہو بلکہ آپ ہی کی شریعت کے ماتحت ہوگا۔

ازالہ

شیخ محی الدین بن عربی اور کل اولیاء اور عارفین اور تمام صوفیائے کرام اس پر متفق ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی اور نبی اکرم ﷺ خاتم الانبیاء اور آخری نبی ہیں اور جو شخص آپ ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اور مرتد اور واجب القتل ہے۔ نبوت بالکل منقطع ہو گئی آپ ﷺ کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت باقی نہیں رہی البتہ نبوت کے کچھ اجزاء اور کچھ کمالات امت کے افراد میں باقی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کوئی قسم باقی نہیں کہ جس کے ملنے سے کسی کو نبی کہا جاسکے۔ البتہ نبوت کے کچھ اجزاء اور کچھ خصائص

اور کچھ شامل باقی ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

ذہبت النبوة وبقیت المبشرات

ترجمہ = نبوت تو جاتی رہی اور بشارات دینے والے خواب باقی رہ گئے۔

حدیث میں ہے کہ رویائے صالحہ نبوت کا چالیسواں جز ہے اور کمالات نبوت کے ساتھ متصف ہونا اتصاف بالنبوة کو مستلزم نہیں۔ جس طرح سر انسان کا جزء ہے مگر سر کو انسان نہیں کہہ سکتے اسی طرح رویائے صالحہ نبوت کا جزء ہے مگر اس کو نبوت نہیں کہہ سکتے اور سچا خواب دیکھنے والے کو نبی نہیں کہہ سکتے اور صوفیاً حضرات کا یہ کلام عین شریعت کے مطابق ہے اور کوئی عالم، علماء شریعت میں سے اس کا منکر نہیں۔

جاننا چاہیے کہ یہاں آیات اور احادیث میں دو مضمون آئے ہیں۔ ایک مضمون تو یہ ہے کہ یہ عمدہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ قیامت تک عمدہ نبوت کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ نبی امی فدائہ نفسی و ابی و امی اشخاص انبیاء تمام کے خاتم ہیں۔ پیغمبروں کے جس قدر افراد دنیا میں آئے تھے وہ آچکے اور نبی اکرم ﷺ اس سلسلہ کے آخر نبی فرد ہیں۔ پہلے مضمون کو حدیث میں اس عنوان سے بیان کیا گیا۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس انہ لم یبق من النبوة الا المبشرات رواہ البخاری فی کتاب التعبیر

ترجمہ = حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے لوگو! نبوت میں سے صرف مبشرات (بشارات دینے والے خواب) باقی رہ گئے ہیں بخاری نے کتاب التعبیر میں روایت کیا ہے۔

اور دوسری حدیث میں ہے ذہبت النبوة وبقیت المبشرات اس قسم کی احادیث عمدہ نبوت کے ارتقاع اور انتطاع کے بیان کے لیے آئی ہیں۔ اور دوسرا مضمون کو نبی امی ﷺ سلسلہ نبوت کے افراد اور اشخاص

کے خاتم ہیں اس کو قرآن کریم نے خاتم النبیین کے عنوان سے اور حدیث نے خاتم الانبیاء اور آخر الانبیاء اور لائمی بعدی کے عنوان سے بیان کیا ہے اور یہ دوسرا مضمون پہلے مضمون کے منافی تو کیا ہوتا بلکہ غایت درجہ موید اور مستلزم ہے۔

شیخ محی الدین بن عربیؒ کی یہی مراد ہے کہ نبوت ختم ہو گئی اور نبوت کے کچھ اجزاء اور کمالات اور مبشرات باقی ہیں۔ چنانچہ شیخ فتوحات میں فرماتے ہیں:

فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرویا جزء من اجزاء النبوة فقد بقى للناس فى النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطلق اسم النبوة ولا النبى الاعلى المشرع خاصة فهجر هذا الاسم لخصوص وصف معين فى النبوة۔

(فتوحات ص ۲۹۵ ج ۲)

ترجمہ = رسول اللہ ﷺ نے یہ بتلادیا کہ سچا خواب نبوت کا ایک جزء ہے لوگوں کے لیے نبوت میں اس قسم کے اجزاء باقی رہ گئے ہیں۔ مگر باوجود اس کے لفظ نبوت اور لفظ نبی کا اطلاق سوائے مشرع کے (یعنی جو خدا کی طرف سے احکام شریعہ لے کر آئے) اور کسی پر نہیں ہو سکتا اس نام کی بندش نبوت میں کسی خاص صفت کی بناء پر کر دی گئی ہے۔

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

فما تطلق النبوة الا لمن اتصف بالمجموع فذلك النبى وتلك النبوة التى حجرت علينا و انقطعت فان جملتها التشريع بالوحى الملكى وذلك لا يكون الا لنبى خاصه

(فتوحات ص ۵۶۸ جلد ۳)

ترجمہ = نبوت کا اطلاق جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب نبوت کے تمام اجزاء کے ساتھ علی وجہ الکمال و التمام موصوف ہو۔ پس ایسا ہی نبی اور ایسی ہی نبوت جو تمام اجزاء کو جامع اور حادی ہو ہم پر (یعنی اولیاء پر) بند کر دی گئی اور منقطع ہو گئی۔ اس لیے کہ منجملہ اجزاء نبوت تشریح احکام ہے

کہ جو فرشتہ کی وحی سے ہو اور یہ امر نبی کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔

شیخ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اذا هلك كسرى فلاك كسرى بعده و اذا هلك قيصر فلاك قيصر بعده۔

ترجمہ = جب کسریٰ شاہ فارس ہلاک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہو گا۔ اور جب قیصر شاہ روم ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہو گا۔

پس جس طرح قیصر و کسریٰ کے مرجانے کے بعد قیصر و کسریٰ کا نام ختم ہوا مگر ملک فارس اور روم موجود رہا۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت اور نبی کا نام اٹھ گیا مگر نبوت اور اسکے اجزاء مسلمانوں میں باقی رہے یعنی قرآن و حدیث اور کمالات نبوت۔

شیخ کے کلام کا حاصل یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی البتہ اس کے کچھ اجزاء اور کمالات اور مبشرات باقی ہیں (جیسا کہ ذہبت النبوة و بقیت المبشرات سے صاف ظاہر ہے) اور نبی اور نبوت کا اطلاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبوت کے تمام اجزاء (جن میں تشریح احکام بوجی ملکی بھی داخل ہے) علی وجہ الکمال و التمام متحقق نہ ہوں اور تشریح احکام بوجی ملکی نبی اور مقام نبوت کے لیے لازم ہے بغیر تشریح کے نبوت متحقق نہیں ہو سکتی۔ نبوت کا اصل دار و مدار تشریح پر ہے۔ جب تشریح نہ ہو تو نبوت بھی نہیں۔ معلوم ہوا کہ شیخ کے نزدیک غیر تشریحی نبوت نبوت ہی نہیں بلکہ وہ اجزاء نبوت ہیں جن کو اصطلاح صوفیا میں ولایت کہا جاتا ہے۔ لہذا شیخ اکبر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ وہ غیر تشریحی نبوت کی بقاء کے قائل ہیں بالکل غلط ہے۔ ان کے نزدیک تشریح نبوت کا جزو لاینفک ہے بغیر تشریح کے ان کے نزدیک نبوت ہی متحقق نہیں ہو سکتی نہ یہ کہ نبوت تو ہے، مگر غیر تشریحی ہے

اور جو اجزاء نبوت کے باقی ہیں نہ وہ نبوت ہیں اور نہ ان کی بقاء پر نبوت اور نبی کا اطلاق جائز ہے اور اگر بالفرض یہ معنی تسلیم بھی کر لیے جائیں تو عجیب نہیں کہ شیخ اکبرؒ کا نبوت غیر تشریحی کی بقاء سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ نزول کے بعد بھی نبی ہوں گے مگر وہ تشریحی نبی نہ ہوں گے یعنی اپنی سابقہ شریعت پر عامل نہ ہوں گے بلکہ شریعت محمدیہ کے تابع اور ماتحت ہوں گے۔

علاوہ ازیں جب صدہا نصوص اور احادیث نبویہ اور آثار صحابہؓ اور تابعینؒ اور کل علماء شریعت و طریقت کی تصریحات سے یہ معلوم ہو گیا کہ ختم نبوت امت محمدیہ ﷺ کا اجماعی عقیدہ ہے اور خود شیخ اکبرؒ کی بے شمار تصریحات نصوص اور فتوحات وغیرہ میں موجود ہیں کہ نبوت حضور ﷺ پر ختم ہو گئی اور آپ ﷺ آخری نبی ہیں تو پھر ان تصریحات کے بعد شیخ کی مجمل اور مبہم عبارات کو پیش کرنا اور ختم نبوت کے بارے میں شیخ کی صریح عبارات کو نظر انداز کر دینا اور نصوص شریعت اور اجماع امت کے خلاف راہ نکالنا کون سا دین اور عقل ہے۔

نبوت و رسالت کا انقطاع اور اختتام اور کمالات نبوت کا بقا اور دوام اور حضرت صوفیا کا کلام معرفت التیام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہرگز	در	بیش	و	کم	نئے	باید	زد
از	حد	بیرون	قدم	نئے	باید	زد	
عالم	ہمہ	مرات	جمال	ازلی	است		
سے	باید	دید	و	دم	نئے	باید	زد

کل ما فی الكون و ہم لوخیال
لو عکوس فی المرایا لو ظلال

موجود حقیقی صرف ایک واجب جل مجہد کی ذات و برکات ہے اور باقی سب معدوم۔ سوائے باری تعالیٰ کے کسی کا وجود حقیقی نہیں۔ سب کا وجود مجازی اور موہوم ہے۔ حقیقی وجود کی تو کسی ممکن نے خوشبو بھی نہیں سونگھی اور سونگھ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح زمین اپنی اصل ذات کے اعتبار سے مظلم اور تاریک ہے اور جو روشنی ہے وہ آفتاب کا ایک عکس اور پرتو ہے اسی طرح سارا جہان اپنی اصل حقیقت کے لحاظ سے نور وجود سے بالکل محروم اور عاری ہے۔ عدم اور فنا کے

سوا اس عالم کی کوئی حقیقت نہیں۔ کما قال تعالیٰ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک فوالجلال والاکرام ○ وقال تعالیٰ کل شیء ہالک الا وجہہ عدم اور فناء کو ممکن کی عین حقیقت اور ذاتیات سے قرار و کسی صورت میں عدم ممکن سے جدا نہیں ہو سکتا ہر ممکن کو عدم کا ایک آئینہ سمجھو کہ جس میں واجب الوجود کے وجود ازلی اور صفات کمالیہ منعکس ہو رہی ہیں۔ نور السموت والارض نے اپنے جمال جہاں آراء اور نور وجود کو کسی آئینے میں دیکھنے کا ارادہ فرمایا اس لیے اپنے بے چون و چگون وجہ کو اس آئینہ عدم کی طرف متوجہ فرمایا۔ ہر عدم نے اپنی اپنی استعداد اور فطرت کے مناسب اس کے وجود ازلی اور صفات کمال کے عکس کو قبول کیا جس عدم پر وجود واجب کا عکس پڑتا رہا وہ موجود کملانے لگا۔ جس کے وجود کی حقیقت عکس اور پرتوہ سے زائد نہیں۔ جیسا کہ کسی نے خوب کہا ہے

کل ما فی الكون و ہم لو خیال
لو عکس فی المرایا لو ظلال

ابتدائے آفرینش سے اسی طرح سلسلہ جاری رہا کہ وجود ازلی اور صفات قدیمہ کا عکس ممکنات کے عدات پر وقتاً فوقتاً اور متفرقاً پڑتا رہا۔ یہاں تک کہ حق جل شانہ نے اس خلاصہ موجودات اور خلاصہ عالم یعنی انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا تاکہ صفات الہیہ کا مجموعہ اور مظہر اور تجلی گاہ بن سکے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے:

خلق اللہ آدم علی صورتہ

ترجمہ = اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔

پس خلیفہ ساخت صاحب سینہ

تاہود شاپیش را آئینہ

امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت کے لیے اس لیے خاص فرمایا کہ آدمی ایک جامع نسخہ ہے جو کمالات تمام موجودات میں منفرداً ہیں، وہ تمام انسان میں جمعاً موجود ہیں۔ علوی اور سفلی، ارضی اور سماوی، روحانی اور حیوانی تمام کائنات کے نمونے اس میں موجود ہیں۔ انسان عالم امکان کا تو حقیقتہً خلاصہ اور اجمال ہے۔ مگر مرتبہ و جوب سے بطریق صورت (یعنی عکس) اس کو حصہ ملا ہے یعنی واجب جل شانہ کی صفات واجبہ کا مظہر اور تجلی گاہ ہے جیسا کہ حدیث میں ہے:

ان اللہ خلق آدم علی صورتمہ

ترجمہ = تحقیق اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔

مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ، اپنی ذات اور صفات میں بے چون و چگون ہے اور روح آدم کو اپنی شان بے چونی و چگونی کی ایک تصویر اور نمونہ بنایا۔ اور کسی کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کی صورت پر ہو اور چونکہ روح کو بے چون و چگون کی صورت پر پیدا کیا اس لیے حقیقی بے چون و چگون کی گنجائش اس میں ہو سکی۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے:

لا یسعنی لرضی ولا سمائی ولكن یسعنی قلب عبدالمومن

ترجمہ = اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ کو نہ میری زمین ساکتی ہے اور نہ میرا آسمان لیکن میرے مومن بندہ کا دل مجھ کو ساکتا ہے۔ یعنی میرے عکس اور تجلی کو برواشت کر سکتا ہے۔

قلب مومن کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ بے چونی اور چگونی کی صورت پر مومن ہی کا قلب رہتا ہے۔ بخلاف کافر کے کہ اس کا قلب چونی اور چندی میں گرفتار ہو کر وحوش اور بہائم کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ لولئک کالانعام بل ہم اضل۔ وقال تعالیٰ۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا

امام غزالیؒ اپنے رسالہ (المعتون بہ علی غیر اہلہ) میں فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں لیس کمثلہ شی لیکن اس کے لیے مثال ضرور ہے۔ کما قال تعالیٰ ولہ المثل الاعلیٰ اور نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد خلق اللہ آدم علی صورتہ اس سے مقصود حق جل و علا کی مثال بیان کرنا ہے نہ کہ مثل۔ یعنی انسان حق تعالیٰ شانہ کی حیات اور علم اور قدرت اور سمیع اور بصر اور ارادہ اور تکلم کی ایک مثال ہے اور انسان حق سبحانہ کی ان صفات سے ایک عجیب نمونہ ہے کہ یہ تمام صفات انسان کے چہرہ سے بیک وقت نمایاں ہیں۔ انسان اگر ان صفات کے ساتھ متصف نہ ہوتا تو حق تعالیٰ کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا کیسے سمجھتا انہی کلام۔

مثال سے مقصود محض تعلیم و تنصیب ہوتی ہے اس لیے بارگاہ خداوندی میں مثال دینے کی اجازت دی گئی ورنہ اس کی ذات اس سے بھی پاک اور منزہ ہے۔

اے بروں از و ہم و قال و قیل من
 خاک برفرق من و تمثیل من!
 رحم فرما بر قصور فہما
 اے وراء عقلمنا و وصما
 آدم بر سر مطلب

پس جس طرح خداوند ذوالجلال کی صفات کمال کا انعکاس ممکنات اور کائنات پر ہوتا ہے۔ اسی طرح کمالات نبوت کا انعکاس قلوب ام پر اپنی اپنی استعداد کے موافق ہوتا ہے۔ جس طرح آئینہ اور پتھر اپنی اپنی قابلیت اور ذاتی استعداد کے موافق آفتاب کی روشنی قبول کرتے ہیں اس طرح امتی بھی اپنی استعداد کے موافق آفتاب نبوت کے شعاعوں کا عکس قبول کرتے ہیں۔

جس ذات بابرکات کو حق جل شانہ اپنی نبوت و رسالت سے سرفراز فرماتے ہیں۔ وہ ذات ان صفات کمال کا معدن اور منبع ہوتی ہے کہ جو ذات ممکن کے لیے ممکن ہیں۔ نبی کی ذات صدیقت محدثیت اور تنصیب الہی اور امامت اور

حکمت اور علم لدنی اور معرفت اور تزکیہ اور ہدایت اور تائید بروح القدس اور خلافت اور ہدی صالح اور سمت حسن اور رویائے صالحہ اور تمام اخلاق فاضلہ کی جامع ہوتی ہے۔ نبی کی ذات ان تمام کمالات کے ساتھ بالذات متصف ہوتی ہے اور باقی تمام امت اسی آفتاب کے انعکاس سے ان صفات سے بقدر اپنی استعداد کے بالفرض منور اور روشن ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی مناسبت اور استعداد اور قابلیت کے موافق آفتاب کے انوار و تجلیات کا عکس قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب پر آپ ﷺ کی شان صدیقیت کا عکس پڑا تو صدیق ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قلب پر شان تحدیث اور مکالمہ خداوندی کا عکس پڑا تو محدث اور ملہم ہو گئے۔ آپ کی شان امانت کا پرتوہ ابو عبیدہؓ پر پڑا تو امین الامت کہلائے۔ عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اور زید بن ثابت اور معاذ بن جبل (رضی اللہ عنہم) پر آپ ﷺ کی شان تعلیم الکتاب و الحکمہ کا عکس پڑا تو فقہاء امت کہلائے۔ ابوذر غفاریؓ پر حضور ﷺ کی شان زہد اور اشغناء عن اللدنیہ کا عکس پڑا تو زاہد امت کہلائے۔ غرض یہ کہ ہر شخص نے اپنی اپنی فطرت اور طبیعت کے مناسب کمالات نبوت کے انعکاس کو قبول کیا اور اس رنگ میں رنگا گیا۔

خلاصہ یہ کہ حضور ﷺ کی ذات بابرکات کمالات صوریہ اور معنویہ اور احوال ظاہری اور باطنی دونوں کی جامع تھی۔ احوال باطنی کہ جس میں من جانب اللہ حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ لسان شریعت میں اس کو ولایت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور احکام ظاہری کہ جس میں حلال و حرام کے احکام امت کو بتلائے جاتے ہیں۔ ان احکام کے مجموعہ کا نام شریعت ہے اور ظاہر ہے کہ ولایت کا تعلق صرف اپنی ذات سے ہوتا ہے اور شریعت کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے۔ اس لیے احکام شریعت دوسروں پر حجت ہیں نہ کہ احکام ولایت۔ ولایت حجت لازمہ ہے بشرطیکہ قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور شریعت حجت طزمہ ہے۔ جس سے دوسروں پر الزام اور حجت قائم ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ ولایت اور

شریعت دونوں نبوت و رسالت کو کے دو شعبے ہیں۔ اس لیے شیخ اکبر نے شعبہ ولایت کو غیر تشریحی نبوت کے عنوان سے اور شعبہ شریعت کو تشریحی نبوت کے نام سے تعبیر کیا ہے۔ اولیاء امت پر نبوت کے شعبہ ولایت کا انکاس ہوا (جس کو شیخ اکبر نبوت غیر تشریحی کے نام سے موسوم کرتے ہیں) جس سے علم لدنی کے چشمے ان حضرات کے قلوب صافیہ میں جاری ہو گئے اور قلوب کے امراض اور ان کے اسباب و علامات اور ان کی طبیعت اور معالجات ان پر منکشف ہوئے اور اسی گروہ نے احوال باطنی کی محافظت کی اور علم الاحسان یعنی علم التصوف کو مدون کیا۔ اور فقہاء اور مجتہدین کے قلوب پر نبوت کے شعبہ شریعت کا عکس پڑا (جس کو شیخ اکبر نبوت تشریحی کے نام سے موسوم کرتے ہیں) جس سے ان حضرات کی بصیرت اور عقل اور فراست ایسی روشن اور منور ہو گئی کہ دن ہی میں ستارے نظر آنے لگے اور ثری سے ثریا تک ان کی دور بین نگاہیں پہنچنے لگیں۔ کتاب اور سنت کی عمق اور گہرائیوں میں جو علم کے یو اقیق اور جواہر مستور تھے۔ غوطہ لگا کر نکال لائے۔ اس طبقہ نے آپ ﷺ کی شریعت کی محافظت اور نگرانی کی اور علم احکام اور علم فقہ کو مدون کیا اور احکام شریعت کے حقائق اور واقف اور لطائف و معارف کے بیان میں تحقیق و تدقیق کے سدرۃ المنتہی تک پہنچ گئے جن کو دیکھ کر عقل یہ کہتی ہے۔

اگر یک سر موئے بر تر پر م!
فروغ تجلی بسوز و پر م!

جس طرح آنحضرت ﷺ نے وحی خداوندی سے امت کو حلال و حرام کی تلقین فرمائی۔ اسی طرح ائمہ اجتہاد نے آپ ﷺ کی شریعت کو سامنے رکھ کر غیر منصوص مسائل میں اجتہاد فرمایا اور احکام حلال و حرام مستنبط فرمائے۔ اور عوام کو ان پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ حضرات فقہاء کا اجتہاد اور استنباط تشریح انبیاء کا ایک عکس اور پرتو ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی تشریح قطعی اور یقینی ہے اور مجتہدین کی تشریح جو بصورت استنباط ظنی ہے۔ انبیاء کی تشریح

مستقل ہے اور مجتہدین کی تشریح انبیاء کرام کے بتلائے ہوئے علوم میں اجتہاد کر سکتے ہیں خود بخود ایزاد نہیں کر سکتے۔ تشریح انبیاء میں نسخ ہے اور تشریح مجتہدین میں رجوع عن الاجتہاد ہے۔ اور چونکہ نبوت میں شریعت اور تشریح غالب ہوتی ہے اور ولایت مغلوب۔ اس لیے حدیث علماء امنی کانبیاء بنی اسرائیل اور حدیث العلماء ورتة الانبیاء میں علماء کی تخصیص فرمائی اور اسی وجہ سے علماء قیامت کے دن انبیاء و رسل کی صف میں ہوں گے اور ہر نبی کے ساتھ اس کی امت کا ایک دو عالم یا زیادہ اس کے بعین و یسار میں کھڑا ہو گا اور جس طرح انبیاء طہیم السلام اپنی اپنی امتوں پر شہید ہوں گے اسی طرح اس امت کے علماء تمام امم پر شہید ہوں گے۔

یہ تمام مضمون الیوایت و الجواہر ص ۸۷ ج ۲ سے ماخوذ ہے حضرات اہل علم اصل سے مراجعت فرما سکتے ہیں۔

الحاصل حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں نبوت کے دو شعبے ہیں۔ ایک تشریحی شعبہ اور ایک غیر تشریحی شعبہ۔ غیر تشریحی شعبہ کا عکس قلوب اولیاء پر پڑا جس کا ظہور الہام اور انکشاف معارف اور صدور کرامات و خوارق عادات کی شکل میں ہوا اور نبوت کے تشریحی شعبہ کا انعکاس قلوب مجتہدین پر برنگ اجتہاد ہوا اور یہ اجتہاد حاشا و کلاثم حاشا و کلا شریعت اور تشریح نہیں بلکہ تشریح نبوی کا ایک اونی سا عکس اور پرتوہ اور معمولی سا ظل اور سایہ ہے۔

پس جس طرح کمالات ایہ اور صفات خداوندی کے انعکاس سے کوئی کسی قسم کا الہ اور خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کمالات نبوت کے انعکاس سے کوئی کسی قسم کا ہرگز ہرگز نبی نہیں ہو سکتا۔ تمام اولیاء اور عارفین اس پر متفق ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی اور حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں اور اولیاء اللہ اور عارفین نبوت کے غیر تشریحی شعبہ کے محض عکس اور پرتوہ ہیں۔ نبی نہیں اور فقہاء اور مجتہدین نبوت کے تشریحی شعبہ کے محض عکس اور پرتوہ ہیں۔ نبی نہیں اور دنیا میں کوئی ولی اور صوفی اس کا قائل نہیں کہ اولیاء غیر تشریحی نبی ہیں اور فقہاء اور مجتہدین

تشریحی نبی ہیں اگر علماء امت کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو علماء امتی کا نبیاء بنتی اسرائیل میں کاف تشبیہ داخل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے کہ شبہ اور شبہ بہ مغائر ہوتے ہیں۔ اگر علماء امت کو نبوت مل سکتی تو کا نبیاء نبی اسرائیل نہ فرماتے بلکہ جس طرح نبی اسرائیل کو وجعل فیکم انبیاء سے خطاب کیا گیا۔ اسی طرح اس امت کو بھی کہا جاتا۔ اور حدیث میں ہے من صلی خلف عالم نقی فکانما صلی خلف نبی جس نے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی اس نے گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اس حدیث میں لفظ کانما بھی انتقام نبوت کی مشیر ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکم

دلیل دوم

قال تعالیٰ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا ط

اس آیت شریفہ میں حق جل شانہ نے ایک خاص انعام کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ کہ ”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو ہر طرح سے کامل اور مکمل کر دیا۔“ قیامت تک کے لیے معاش اور معاد کی تمام ضرورتوں کے لیے ایک مکمل دستور العمل عطا فرمایا کہ جو حکمت علیہ اور عملیہ اور سیاست ملکیہ اور مدنیہ اور عقائد و اعمال اور احکام حرام و حلال کا جامع ہے۔ کوئی حکمت ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کو صراحت ”یا اشارۃ“ بیان نہ کر دیا ہو۔ جو علوم اور معارف ادیان سابقہ میں تھے۔ ان سب کا عطر اور لب لباب اس دین متین میں لے لیا گیا۔ جس چیز کا صراحت ”بیان کرنا مناسب تھا اس کو صراحت بیان کر دیا اور جس کو اشارۃ“ بیان کرنا تھا۔ اس کو اشارۃ“ بیان کر دیا۔ غرض یہ کہ کوئی شے ایسی نہیں چھوڑی کہ ضرورت اور حاجت ہو۔ اور اس کو بیان نہ کر دیا گیا ہو۔ لہذا اب اس میں نہ کسی اضافہ اور ترمیم کی گنجائش ہے اور نہ کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ کا دین تمام ادیان سے بہتر ہوا اور تمام ادیان کا ناخ ہوا۔ اور تمام ادیان دین اسلام

سے منسوخ ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ یہ دین آخری دین ہے اور یہ امت آخری امت ہے اور یہ نبی آخری نبی ﷺ ہیں اس لیے کہ ناسخ وہی ہو گا کہ جو آخر ہو گا اور اس اکمال دین سے ”میں نے تم پر اپنا انعام اور احسان پورا کر دیا“ کہ تم کو ایسا کامل اور مکمل دین عطا کیا کہ جو کسی کو نہیں عطا کیا۔ اور اسی دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے تمہارا دین بننے کے لیے پسند کیا۔ یعنی قیامت تک دین اسلام ہی کا دور دورہ رہے گا۔ اب اس کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں آئے گا جو اس دین کو منسوخ کرے۔ پس تم کو چاہیے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کامل دین پر استقامت نصیب فرمائے اور تمہارا جینا اور مرنا اور قبر سے اٹھنا اسی دین پر ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الامة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبي غير نبيهم صلوات و سلامه عليه و لهذا جعله الله خاتم الانبياء و بعثه الى الانس و الجن۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۷۹ ج ۳)

ترجمہ = حق تعالیٰ شانہ کی اس امت پر یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس امت کو مکمل دین عطا فرمایا کہ جس کے بعد نہ ان کو کسی دین کی حاجت ہے اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو خاتم الانبیاء بنایا اور تمام جن و انس کی طرف مبعوث کیا۔

پس اگر حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی آئے تو وہ کیا بتلائے گا ضرورت تو اب کوئی باقی نہیں۔ بفرض محال اگر وہ نبی ہو گا تو یقیناً ”بے ضرورت اور فالتو ہو گا اور ادنی عقل والا جانتا ہے کہ فالتو اور بے کار آدمی کہ جس کی کسی کو ضرورت نہ ہو، وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا۔

یہ آیت شریف جس میں اس نعمت عظیم یعنی اکمال دین کا ذکر فرمایا ہے۔

۱۰ھ میں حجۃ الوداع کے موقعہ پر عرفہ کے دن یوم جمعہ میں آنحضرت ﷺ پر عصر کے وقت نازل ہوئی جس وقت کہ میدان عرفات میں چالیس ہزار قدوسیوں کا مبارک اور رشک ملائک مجمع آپ ﷺ کی ناکہ مبارک کے اردگرد تھا۔ اسی مجمع میں جو آپ ﷺ نے خطبہ دیا اس کے متعلق حدیث میں ہے:

عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ
یوم حجۃ الوداع ایہا الناس لانی بعدی ولا امة بعدکم فاعبدو
ربکم و صلوا خمسکم و صوموا شہرکم و ادوا زکوٰۃ اموالکم
طیبۃ بہا انفسکم و اطیعوا و اولادکم و ادخلوا جنة ربکم۔ کذا فی
منتخب الکنز حاشیہ مسند امام احمد بن حنبل

(ص ۳۹۱ ج ۲)

ترجمہ = حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا۔ اے لوگو! میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ پس اب وقت کو غنیمت سمجھو اور اپنے پروردگار کی عبادت اور بندگی میں لگے رہو۔ اور پانچ وقت کی نماز پڑھتے رہو اور خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے رہو اور اپنے امراء اور خلفاء کی اطاعت کرتے رہو۔ اگر ایسا کرتے رہے تو انشاء اللہ تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

جس زمان اور مکان میں اکمال دین کی آیت نازل ہوئی اسی زمان اور مکان میں آنحضرت ﷺ نے یہ خطبہ دیا جس میں یہ اعلان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں کیونکہ دین مکمل ہو گیا اس لیے اب نئے نبی کی ضرورت نہیں اور جب کوئی نبی نہیں تو امت کہاں سے ہو؟ یہ خطبہ درحقیقت اکمال دین کی آیت کی تفسیر اور شرح ہے تاکہ صراحتہ "اور بدایتہ" معلوم ہو جائے کہ اکمال دین کے اعلان سے ختم نبوت کا اعلان مقصود ہے۔

دلیل سوم

قال تعالى :- وعد الله الذين امنوا منكم و عملوا الصلحت
ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ○
جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا
ہے کہ بلاشبہ ہم تم کو زمین کا خلیفہ اور حاکم بنائیں گے جیسا کہ تم سے پہلے نبی
اسرائیل کو بنایا تھا۔

اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے امت محمدیہ ﷺ پر ایک خاص
انعام کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ انعام نبوت کی خلافت اور نیابت کا ہے جس کا ظہور خلفاء
راشدینؓ سے ہوا۔ اور خلافت کے معنی نیابت اور قائم مقامی کے ہیں۔ پس اس
آیت میں امت سے نبوت کا وعدہ نہیں بلکہ نبوت کی خلافت اور نیابت کا وعدہ ہے۔
یہ کسی آیت اور حدیث میں نہیں کہ ہم کسی کو نبوت عطا کریں گے۔ حالانکہ اس
آیت میں اس کے ذکر کا موقعہ تھا کیونکہ حق تعالیٰ شانہ، اپنا انعام اور احسان بیان
فرما رہے ہیں اگر آئندہ کسی کو نبوت دینی ہوتی تو بجائے خلافت اور حکومت کے
نبوت و رسالت کا وعدہ فرماتے۔ معلوم ہوا کہ نبوت ختم ہو چکی صرف خلافت باقی
ہے۔

اب ہم اس بارے میں چند احادیث نقل کرتے ہیں جس سے یہ امر ان
شاء اللہ بخوبی واضح ہو جائے گا۔

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کانت بنوا
اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لانیب
بعدی و سیکون خلفاء نیکثرون قالوا فما تامرنا قال فوا بیعة
الاول فالاول اعطوہم حقہم ان اللہ سائلہم عما استرعاہم متفق
علیہ رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء و مسلم فی کتاب الامارۃ۔
ترجمہ = حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا کہ نبی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے جب کسی نبی کا انتقال ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہو جاتا اور البتہ تحقیق میرے بعد کوئی نبی نہیں البتہ خلفاء اور امراء ہوں گے۔ جو مسلمانوں کی سیاست اور انتظام کریں گے اور بہت ہوں گے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی جب خلفاء بہت ہوں تو اس وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس سے پہلے بیعت کر چکے ہو اس کی بیعت کو پورا کرو اور ان کا حق اطاعت اور فرمانبرداری ادا کرو۔ اور اگر خلفاء تمہارا حق رعایت نہ ادا کریں تو تم ان کی اطاعت میں کوتاہی نہ کرنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ان سے حق رعیت کے متعلق سوال کرے گا۔ (بخاری مسلم)

اس حدیث سے صاف طور پر واضح ہو گیا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ البتہ خلفاء اور امراء ہوں گے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ انبیاء نبی اسرائیل کی شریعت مستقل تھی بلکہ شریعت موسویہ اور حکم توریت کے تابع تھی۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح نبی اسرائیل میں غیر مستقل اور غیر تشریحی نبی آتے رہے اس امت میں آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ البتہ خلفاء ہوں گے۔ پہلی امتوں میں سیاست اور انتظام اور اصلاح کے لیے نبوت تھی اور اس امت مرحومہ میں سیاست و اصلاح کے لیے نبوت کے قائم مقام خلافت ہو گی۔ نبوت ختم ہو چکی ہے، اصلاح اور سیاست کے لیے خلافت باقی رہے گی۔

وعن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ تعالیٰ بذا هذا الامر نبوة ورحمة وکائنا خلافة ورحمة و
کائنا ملکا عضوضا وکائنا عنوا وجبرية وفسادا" فی الاية

(رواہ البرہانی فی الکبیر کذاتی کنز العمال ص ۶۲۹)

ترجمہ = آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کو نبوت اور رحمت بنا کر شروع فرمایا۔ پھر بعد چندے نبوت تو نہ

رہے گی۔ صرف خلافت اور رحمت رہ جائے گی اور پھر کٹ کھانے والی سلطنت اور پھر تکبر اور تجبر اور امت میں فساد ہو گا۔

وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لى النبوة ولكم الخلافه

(رواه ابن عساکر کذا فی الکنز ص ۱۸۰ ج ۶)

ترجمہ = ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے نبوت ہے اور تمہارے لیے خلافت ہے۔ (ابن عساکر)

حق جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں:

ياايهاالذين امنوااطيعواللهواطيعوالرسولولولى الامرمنكم
ترجمہ = اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی یعنی علماء اور خلفاء کی۔

اس آیت میں تین چیزوں کا حکم دیا:

۱۔ اطاعت خداوندی۔

۲۔ اطاعت رسول۔

۳۔ اطاعت اولی الامر۔

اور اولی الامر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا:

فان تنازعتم فى شى فردوه الى الله والرسول۔ (الایة)

ترجمہ = پس اگر تم میں اور اولی الامر میں کوئی اختلاف اور نزاع پیش آ جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا۔

اور حدیث میں اولی الامر کے متعلق یہ ارشاد فرمایا:

السمع و الطاعة حق مالم يومر بمعصية فاذا امر بمعصية فلاسمع ولاطاعة

ترجمہ = علماء اور امراء کی بات سنا اور ان کی اطاعت حق اور واجب ہے جب تک معصیت کا امر نہ کریں اور جب معصیت کا امر کریں اور حکم دیں تو پھر ان کی بات کا سنا اور اطاعت کرنا جائز نہیں۔

معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے بعد جن کی اطاعت واجب ہوگی وہ اولی الامر ہوں گے۔ نبی نہ ہوں گے کیونکہ نبی سے نزاع اور اختلاف جائز نہیں بلکہ کفر ہے نبی کی تو بے چون چڑا اطاعت فرض ہے۔ کما قال تعالیٰ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ۔

نیز حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ اولی الامر اگر معصیت کا حکم دیں تو سب اور اطاعت جائز نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ معصیت کا حکم وہی شخص دے سکتا ہے جو نبی نہ ہو۔ یہ ناممکن ہے کہ نبی اور رسول ہو اور پھر اللہ کی معصیت کا حکم دے۔ نیز اختلاف اور نزاع کے وقت اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا۔ یہ امر قابل غور ہے کہ نزاع نوپیش آئے گا زمانہ آئندہ میں، مگر حکم یہ ہے کہ گزشتہ رسول اور اس پر نازل شدہ کتاب اور اس کی شریعت کی طرف رجوع کرو۔ آئندہ نبی اور اس کی شریعت اور وحی کی طرف رجوع کا حکم نہیں۔ معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی صاحب وحی نہیں کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ آئندہ زمانے میں جو بھی نزاع پیش آئے۔ اسی قرآن و حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ نیز احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے بعد ابو بکر اور عمر (رضی اللہ عنہما) کی اقتداء اور خلفاء راشدین کی سنت سے اتباع کا حکم دیا۔ کسی ایک بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد آنے والے نبی کا اتباع کرنا۔ معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں۔

دلیل چہارم

قال اللہ عزوجل : واخذ اللہ میثاق النبیین لما اتینکم من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ

ولتنصرنه قالوا اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال
 فاشهدوا وانا معكم من الشهدين ○ فمن تولي بعد ذلك فاولئك
 هم الفسقون ○

ترجمہ = اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد
 اور میثاق لیا کہ قسم ہے میری ذات کی کہ جو کچھ میں تم کو کتاب اور
 حکمت دوں اور پھر اخیر میں تمہارے پاس ایسا عظیم الشان رسول آئے جو
 تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کرے (یعنی محمد رسول اللہ ﷺ)
 (تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر اس عہد کے
 بعد فرمایا کہ کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور میرے اس پختہ عہد کو قبول کیا؟
 سب بولے ہم نے اقرار کیا فرمایا کہ اچھا اپنے اس اقرار پر گواہ بھی رہو۔

تاکہ جب اقرار کے ساتھ شہادت بھی جمع ہو جائے تو انکار نہ کر سکو اور
 میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں اور خوب سمجھ لو کہ اس عہد
 کے بعد جو اس عہد سے روگردانی کرے گا تو ایسے ہی لوگ حکم عدولی کرنے والے
 ہوتے ہیں۔

اس آیت شریفہ میں اس عہد اور میثاق کا ذکر ہے جو حق تعالیٰ نے عالم
 ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے آنحضرت ﷺ کے بارہ
 میں لیا وہ یہ کہ محمد رسول اللہ ﷺ جو تمہارے سب کے بعد آئیں گے۔ اگر
 تم میں سے کوئی ان کا زمانہ پائے تو ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا
 اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کی آمد تمام انبیاء کے بعد ہوگی۔ اس
 لیے کہ حق تعالیٰ کا تمام انبیاء علیہم السلام کو مخاطب بنا کر یہ فرماتا: ثم جاء کم
 رسول (تمہارے سب کے بعد ایک رسول آئے گا) اس بات پر صراحت "دلائل
 کرتا ہے کہ اس رسول کی آمد تمام انبیاء کے بعد ہوگی اور یہ رسول آخری نبی اور
 آخری رسول ہوگا۔

وعن قتادة انه اخذ الله ميثاقهم بتصديق بعضهم بعضا والاعلان

بان محمدًا رسول اللہ و اعلان رسول اللہ بان لانی بعدہ۔ (کذافی
الدرالمشور)

ترجمہ = حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام
انبیاء علیہم السلام سے اس بات کا عہد لیا کہ ایک دوسرے کی تصدیق
کریں اور اپنے اپنے زمانے میں اس کا اعلان کریں کہ محمد ﷺ کے
رسول ہیں اور آپ اس کا اعلان کریں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی
نبی نہیں۔ (درمشور)

ویل پنجم

قال اللہ عزوجل واذیرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسمعیل
ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم ○ ربنا و اجعلنا
مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک و لارنا مناسکنا و تب
علینا انک انت التواب الرحیم ○ ربنا و ابعث فیہم رسولا منهم
یتلوا علیہم ایتک و یعلمہم الکتاب و الحکمة و یرکبہم انک انت
العزیز الحکیم ○

ترجمہ = اور یہ کہ جب اٹھاتے تھے ابراہیم (علیہ السلام) بنیادیں خانہ کعبہ
کی اور اسمعیل (علیہ السلام) اور دعا کرتے تھے اے پروردگار ہمارے،
قبول کر ہم سے بیشک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا۔ اے پروردگار
ہمارے اور کر ہم کو فرمانبردار اپنا، اور ہماری اولاد میں بھی کر ایک
جماعت فرمانبردار اپنی اور بتلا ہم کو قاعدے حج کرنے کے۔ اور ہم کو
معاف کر۔ بیشک تو ہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے پروردگار
ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کہ پڑھے ان پر تیری
آیتیں اور سکھلا دے ان کو کتاب اور تمہ کی باتیں اور پاک کرے ان
کو، بیشک تو ہے بہت زبردست بڑی حکمت والا۔

ان آیات میں حق جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک امت مسلمہ کے ظہور کی ہے۔ جس کی صداق یہ امت محمدیہ ہے جو آخری امت ہے اور دوسری دعا سرور دو عالم نبی اکرم ﷺ کے ظہور سراپا سرور کی ہے۔

وعن ابی العالیۃ فی قولہ تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
یعنی امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقیل لہ قد استجیب لک
ہوکائن فی آخر الزمان وکذا قال السدی وقتادۃ۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۱۷۳۱ ج ۱)

ترجمہ = ابو العالیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی۔ ربنا وابعث فیہم الخ تو اللہ کی جانب سے ارشاد ہوا کہ تمہاری دعا قبول ہوئی۔ یہ امت مسلمہ اور یہ پیغمبر آخری زمانہ میں ہو گا ایسا ہی سدی اور قتادہ سے مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ہوکائن فی آخر الزمان سے خاتم النبیین ہونا مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ

انادعوة ابی ابراہیم۔ یعنی میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔

اسی طرف مشیر ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ میں لکھا ہوا ہے۔

انہ کائن من ولدک شعوب حتی یاتی النبی الامی الذی یکون
خاتم الانبیاء۔

ترجمہ = تیری اولاد میں بہت قبائل اور گروہ ہوں گے یہاں تک وہ نبی امی ظاہر ہو کہ جو خاتم الانبیاء ہو گا۔

(کذاتی البقات ابن سعد ص ۱۰۷ ج ۱۰ او خصائص کبریٰ للحافظ السیوطی ص ۹ ج ۱)

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ فرمایا:

ربنا وابعث فیہم رسولا۔

ترجمہ = یعنی اے اللہ اس امت مسلمہ میں ایک عظیم الشان رسول بھیج۔
اور یہ نہیں فرمایا۔

ربنا وابعث فیہم رسلا۔

ترجمہ = یعنی اے اللہ ان میں بہت سے نبی اور رسول بھیج۔

معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ایک رسول کے مبعوث ہونے کی دعا فرماتے تھے کہ جس کے آنے کے بعد کسی نبی اور کسی رسول کی حاجت نہ رہے۔ یاد رہے کہ اس امت مسلمہ کے ظہور کی دعا اور اس امت کا نام یعنی اسلام اور مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے تجویز فرمایا۔ کما قال تعالیٰ ملۃ ابراہیم ہو سمکم المسلمین من قبل و فی ہذا۔ اور اس امت مرحومہ کے لیے نبی آخر الزمان کے ظہور اور بعثت کی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا امت محمدیہ پر عظیم الشان احسان ہے۔ اس لیے مقتضائے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان امت محمدیہ پر یہ لازم قرار دیا گیا کہ اللہم صل علی محمد کے بعد کما صلیت علی ابراہیم و علی ال ابراہیم پڑھا کریں تاکہ اس احسان کا کچھ حق ادا ہو۔

نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعایہ فرمائی تھی:

رب ہب لی حکما و الحقنی بالصلحین ○ واجعل لی لسان

صدق فی الاخرین ○

ترجمہ = اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکیوں میں اور رکھ

میرا بول سچا پچھلوں میں۔

آخرین سے آخری امت مراد ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا امت محمدیہ کو آخرین سے تعبیر کیا ہے تاکہ اس امت کا آخری امت ہونا معلوم ہو جائے۔ حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ آخرین یعنی اس آخری امت میں کما صلیت علی ابراہیم الخ کے ذریعہ سے قیامت تک

آپ ﷺ کا ذکر خیر جاری فرمایا۔

دلیل ششم

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الذین کله
و لو کره المشرکون ○ وقال تعالیٰ هو الذی ارسل رسوله بالهدی
و دین الحق لیظہرہ علی الذین کله و کفی باللہ شہیداً ○ وقال
تعالیٰ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی
الذین کله و لو کره المشرکون ○

ترجمہ = اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا
ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار
ہو۔

دہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ﷺ سید صی راہ پر اور سچے دین
پر۔ تاکہ اوپر رکھے اس کو ہر دین سے اور کافی ہے اللہ حق ثابت کرنے
والا۔

دہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوجھ دے کر اور سچا دین کہ اس
کو اوپر کرے سب دینوں سے اور پڑے برا مانیں شر کرنے والے۔

ان تینوں آیتوں سے یہ امر صاف ظاہر ہے کہ یہ دین تمام ادیان کے بعد
آیا ہے اور تمام مل اور ادیان کے لیے ناسخ بن کر آیا ہے اور یہ دین آخری دین
ہے۔ قیامت تک یہی دین رہے گا۔ یہ آیت نبوت تشریحیہ کے اختتام کی صریح
دلیل ہے اور مرزا صاحب کا دعویٰ بھی نبوت تشریحیہ کا ہے جیسا کہ ان کی کتابوں
سے صاف ظاہر ہے۔

دلیل ہفتم

قال تعالیٰ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ کیا
لوگوں کے لیے یہ کھلی ہوئی نشانی نہیں کہ اس کتاب اور اس نبی کو علماء بنی اسرائیل

خوب جانتے ہیں کہ یہ وہی کتاب اور وہی پیغمبر ہیں کہ جس کی پہلے سے آسمانی صحیفوں میں خبر دی جا چکی ہے۔ اہل علم اور اہل فہم کے لیے صداقت اور حقانیت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ دوسرے مذاہب کے علماء بھی اس کی حقانیت کا اقرار اور اعتراف کریں۔ چنانچہ بعض تو اپنی خصوصی مجلسوں میں اس کا اقرار کرتے تھے مگر دنیاوی مصالح کی بنا پر حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور بعضوں نے اعلانیہ اس کا اقرار کیا اور مشرف باسلام ہوئے۔ اس لیے کہ آپ ﷺ کی تشریف آوری کی بشارات اور آپ ﷺ کی صفات اور سات کتب ساویہ میں مذکور تھیں اور اب بھی باوجود کٹ تراش کے بہت کچھ باقی ہے۔

كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامى الذى يجعلونه
مكتوبا عندهم فى التورته والانجيل

وقال تعالى الذين اتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون ابناهم و
ان فريقا ليكتمون الحق وهم يعلمون ○ الحق من ربك
فلا تكونن من الممترين ○

ترجمہ = وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے کہ جس کو پاتے ہیں۔ لکھا ہوئے اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور بیشک ایک فرقہ ان میں سے البتہ چھپاتے ہیں حق کو جان کر۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے۔ پھر تو نہ ہو شک لانے والا۔

آدم بر سر مقصد

اب ہم روایات سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ توریت اور انجیل اور تمام صحف ساویہ میں آپ ﷺ کا خاتم النبیین ہونا لکھا ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تمام علماء نبی اسرائیل صرف نبی آخر الزمان ﷺ کے منظر تھے۔ چونکہ توریت اور انجیل محرف ہو چکی ہے اور ابھی سلسلہ تحریف کا جاری

ہے۔ اس لیے ہم نے اس باب میں زیادہ تر احادیث نبویہ اور آثار صحابہؓ و تابعینؒ پر اعتماد کیا ہے۔

مسئلہ ختم نبوت پر توریت اور انجیل اور علماء بنی اسرائیل کی شہادتیں اور بشارتیں

پہلی شہادت

عن الشعبي قال في مجلة ابراهيم عليه الصلوة والسلام انه كائن من ولدك شعوب حتى ياتي النبي الامي الذي يكون خاتم الانبياء

(طبقات ابن سعد ص ۱۰۷ ج ۱)

ترجمہ = امام شعبی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ کے صحیفہ میں ہے کہ اے ابراہیمؑ تیری اولاد میں بہت سے گروہ ہوں گے یہاں تک کہ نبی امی ظاہر ہو کہ جو خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہو گا۔ (طبقات ابن سعد)

دوسری شہادت

عن محمد بن كعب القرظي قال لوحى الله الى يعقوب اني ابعث من ذريتك ملوكا وانبياء حتى ابعث النبي الامي الذي تبني امته هيكلك بيت المقدس وهو خاتم الانبياء واسمه احمد

(طبقات ابن سعد ص ۱۰۷ ج ۱)

ترجمہ = محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں تیری اولاد میں سے بہت سے بادشاہ اور بہت سے نبی بھیجوں گا حتیٰ کہ نبی امی کو بھیجوں گا یعنی اسی کو جس کی امت بیت المقدس

کا بیکل بنائے گی اور وہ نبی خاتم الانبیاء ہو گا۔ اور نام اس کا احمد ہو گا۔
(طبقات ابن سعد)

تیسری شہادت

حضرت عائشہ صدیقہؓ روایت کرتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا کہ جو تجارتی کاروبار کیا کرتا تھا جس رات آپ ﷺ تولد ہوئے تو وہ یہودی قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا یکایک قریش سے پوچھنے لگا کہ کیا اس رات تم میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ قریش نے کہا ہم کو علم نہیں یہودی نے کہا:

انظروا یا معشر قریش و احصوا ما اقول لكم ولد الیلة نبی هذه
الامة احمد الاخر به شامة بین کتفیه۔

ترجمہ = اے گروہ قریش! جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کی تحقیق و تفتیش کرو۔ اس رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے احمد ﷺ اس کا نام ہے آخری نبی ہے مہربوت اس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ہے۔

لوگ یہ سن کر مجلس سے اٹھے تلاش کے بعد معلوم ہوا کہ اس رات عبداللہ بن عبدالمطلب کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی کو آکر خبر دی۔ یہودی نے کہا مجھ کو ابھی لے چلو اور اس مولود کو دکھاؤ۔ قریش کے لوگ اس کو لے گئے اور جا کر اس مولود کو دکھلایا۔ یہودی نے جب آپ ﷺ کی پشت پر مہربوت دیکھی تو بیہوش ہو کر گر پڑا۔ اور بہت حسرت سے کہا کہ اب نبوت اور کتاب نبی اسرائیل سے چلی گئی اور اہل عرب نبوت سے فائز اور کامیاب ہوئے۔

(طبقات ابن سعد ص ۱۰۶ ج ۱)

چوتھی شہادت

پچیس سال کی عمر میں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر میسرۃ غلام کی معیت میں شام گئے اور نسورہ راہب سے ملاقات ہوئی تو نسورہ راہب نے آپ ﷺ کا حلیہ مبارک بہت غور سے دیکھا

اور دیکھ کر یہ کہا:

هو هو آخر الانبياء الى آخر القصة

ترجمہ = یہ شخص بھی شخص آخری نبی ہے۔

(طبقات ابن سعد ص ۱۰۱ ج ۱)

پانچویں شہادت

عمر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیلؓ کو یہ کہتے سنا کہ میں ایک نبی کا شہر ہوں کہ جو نبی اسلعل اور پھر نبی عبدالمطلب میں سے ہو گا مجھے امید نہیں کہ میں اس نبی کو پاؤں۔ میں اس نبی پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ وہ نبی برحق ہیں۔ اے عامر! اگر تو اس نبی کو پائے تو میرا سلام پہنچانا۔

وسا خبرک مانعته حتى لا يخفى عليك قلت هلم قال هور جل
ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقليله و
ليس تفارق عينيه حمرة و خاتم النبوة بين كنفيه و اسمه
احمد و هذا البلد مولده و مبعثه ثم يخرج قومه منها و يكرهون
ما جاء به حتى يهاجر الى يثرب فيظهره امره فاياك ان تخذع عنه
فاتي طففت البلاد كلها اطلب دين ابراهيم فكل من اسئل من
اليهود و النصارى و المجوس يقولون هذا الدين وراءك و
ينعتونه مثل مانعته لك و يقولون لم يبق نبى غيرى

(طبقات ابن سعد ص ۱۰۵ ج ۱)

ترجمہ = اور میں تجھ کو اس نبی کے علیہ سے ایسی خبر دوں گا کہ تجھ کو کوئی
اشباہ نہ رہے گا۔ میں نے کہا ضرور بتلائے۔ زید نے کہا نہ وہ طویل
القامت ہوں گے نہ قصیر القامت میاں نہ قد ہوں گے اور بال بھی ان کے
زیادہ نہ ہوں گے سرفخی ان کی آنکھوں سے جدا نہ ہوگی۔ مہر نبوت

دونوں شالوں کے درمیان ہو گی نام ان کا احمد ہو گا۔ اور یہ شہر (یعنی مکہ) ان کی جائے ولادت اور مقام بعثت ہے اور پھر ان کی قوم ان کو مکہ سے نکالے گی اور اس نبی کے دین کو ناپسند کرے گی یہاں تک کہ وہ نبی میثرب یعنی مدینہ کی جانب ہجرت کرے گا اور وہاں جا کر اس کو غلبہ حاصل ہو گا۔ پس تو اس نبی کے بارہ میں دھوکہ نہ کھانا۔ میں نے دین ابراہیمی کی تلاش میں تمام شہروں کو چھان مارا۔ یہود اور نصاریٰ اور مجوس جس سے بھی پوچھا سب نے یہی کہا کہ وہ دین آگے آنے والا ہے۔ اور سب نے اس نبی کے وہی اوصاف بیان کئے جو میں نے تمھ سے بیان کئے اور سب کے سب یہی کہتے تھے کہ اب اس نبی کے سوا کوئی نبی باقی نہ رہا۔

حضرت عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مشرف باسلام ہوا تو آپ ﷺ کے سامنے زید کا قول نقل کیا اور زید کا سلام پہنچایا۔ حضور ﷺ نے زید کے سلام کا جواب دیا اور ان کے حق میں دعاء رحمت فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں نے زید کو جنت میں دامن کھینچتے ہوئے دیکھا۔

چھٹی شہادت

جب شاہ یمن نے ایک مرتبہ بلاد عرب کا دورہ کیا۔ جب مدینہ منورہ پر گزر ہوا تو کسی وجہ سے مدینہ کے باشندوں کے قتل کا حکم دیا۔ وہ یہودی عالم بادشاہ کے ہمراہ تھے انہوں نے بادشاہ کو منع کیا اور یہ کہا:

فانہا مہاجر نبی یکون فی آخر الزمان۔

ترجمہ = یہ شہر اس نبی کا دارالہجرت ہے جو اخیر زمانہ میں ہو گا۔

بادشاہ نے اپنا ارادہ ترک کیا اور واپس ہوا۔ جب مکہ مکرمہ پر گزر ہوا تو خانہ کعبہ کے مندم کرنے کا ارادہ کیا۔ انہیں دو عالموں نے بادشاہ کو پھر منع کیا اور کہا یہ گھرا براہیم خلیل اللہ کا بتایا ہوا ہے۔

وانہ سیکون لہ شان عظیم علی یدی ذالک النبی المبعوث فی

آخر الزمان۔

ترجمہ = اور اس خانہ کعبہ کی آئندہ زمانہ میں ایک عجیب شان ہوگی کہ جو اس نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوگی جو اخیر زمانے میں مبعوث ہوگا۔

بادشاہ نے خانہ کعبہ کا احترام کیا اور اس کا طواف کیا اور غلاف چڑھایا۔ اور یمن کو واپس ہوا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابن عساکر نے اس قصہ کو متعدد طرق کے ساتھ ابی بن کعب اور عبداللہ بن سلام اور عبداللہ بن عباس اور کعبہ اجازہ اور وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر صفحہ ۱۶۳ ج ۹)

ساتویں شہادت

بمقام طبرانی میں جیڑ بن مطعم سے مروی ہے کہ میں تجارت کے لیے شام گیا۔ وہاں مجھ کو ایک شخص ملا جو اہل کتاب میں سے تھا۔ مجھ سے کہا کہ کیا تمہارے بلاد میں کوئی نبی ظاہر ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ تم اس شخص کی صورت بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں وہ شخص مجھ کو اپنے گمراہے گیا۔

فساعة ما دخلت فنظرت الى صورة النبي صلى الله عليه وسلم و
لذا رجل آخذ بعقب النبي صلى الله عليه وسلم قلت من هذا
الرجل القابس على عقبه قال انه لم يكن نبى الا كان بعده نبى
الا هذا النبى فانه لانبى بعده وهذا الخليفة بعده و اذا صفة ابى بكر
رضى الله عنه (تفسیر ابن کثیر ص ۲۵۱ ج ۴)

ترجمہ = داخل ہوتے ہی نبی کریم ﷺ کی تصویر پر نظر پڑی اور ایک آدمی کی تصویر دیکھی کہ جو نبی کریم ﷺ کی ایڑی پکڑے ہوئے ہے میں نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے کہ جو آپ کی ایڑی پکڑے ہوئے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اس سے پیشتر کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کے بعد نبی نہ ہوا ہو۔ مگر یہ نبی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں اور یہ شخص کہ جو ان کی ایڑی پکڑے ہوئے ہے۔ وہ ان کے بعد خلیفہ ہوگا۔

غور سے دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تصویر تھی۔

آٹھویں شہادت

ہرقل شاہ روم کے نام آنحضرت ﷺ نے دعوت اسلام کا والا نامہ بھیجا جس کا مفصل قصہ صحیحین میں مذکور ہے اور عوام اور خواص میں مشہور ہے۔ اسی قصہ میں ایک روایت یہ ہے کہ ہرقل شاہ روم نے رات کے وقت صحابہ کے وفد کو بلایا اور ایک سونے کا صندوق نکالا جس پر قفل بھی سونے ہی کا تھا اس صندوق میں بہت سے خانے تھے جن میں ریشمی پارچوں پر تصویریں تھیں۔ بادشاہ نے وہ تصویریں دکھلائیں اور اخیر میں آنحضرت ﷺ کی تصویر دکھلائی۔ ہم نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔

فذكر انها صور الانبياء وانه خاتم صلى الله عليه وسلم

(بخ الباری ص ۱۸۳ ج ۱)

ترجمہ = اس پر بادشاہ نے کہا کہ یہ انبیاء کی تصویریں ہیں اور یہ آخری تصویر خاتم الانبیاء کی ہے۔

حافظ عسقلانی ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الاسر اسبيلات
و على طافتحه بان النبي الذي يخرج في آخر الزمان من ولد
اسماعيل الخ

(بخ الباری ص ۱۸۳ ج ۱)

ترجمہ = ہرقل کا اعتماد آپ ﷺ کی نبوت کے بارے میں اسرائیلی روایتوں پر تھا اور تمام اسرائیلی روایتیں اس پر متفق ہیں کہ وہ نبی جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہو گا وہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہو گا۔

حدیث ہرقل میں یہ بھی ہے کہ ہرقل نے علماء روم کو محل میں جمع کر کے

یہ خطاب کیا:

يامعشر الروم هل لكم فى الفلاح والرشد آخر الابد وان يثبت
لكم ملككم۔ (الحدیث)

ترجمہ = اے گروہِ روم کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو دائمی اور
ابدی فلاح اور رشد حاصل ہو جائے اور تمہاری سلطنت باقی رہے۔

حافظ عسقلانی اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں:

لانه عرف من الكتب ان لامة بعد هذه الامة ولا دين بعد دينها وان
من دخل فيه من على نفسه فقال لهم ذلك۔

(بخ الباری ص ۱۶۸ ج ۸)

ترجمہ = بادشاہ نے یہ بات اس بناء پر کہی کہ بادشاہ کو کتب سابقہ اور
صحف سماویہ سے یہ بات بخوبی معلوم ہو چکی تھی کہ اس امت کے بعد کوئی
امت نہیں اور اس دین کے بعد کوئی دین نہیں۔ یعنی یہ آخری امت
اور آخری دین ہے۔ جو اس دین میں داخل ہوا وہ مامون ہو گیا۔ اس بنا
پر ان کو دینِ محمدی میں داخل ہونے کا مشورہ دیا۔

اور یہی واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ مستدرک حاکم اور دلائل نبوت
بیہقی میں مذکور ہے جس کو حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں ذکر کر کے فرماتے ہیں:

واسانده لا باس بعد۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۹ ج ۳ سورۃ اعراف)

نویں شہادت

سعد بن ثابت سے مروی ہے کہ یہود بنی قریظہ اور یہود بنی نضیر کے علماء
نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جب صفات بیان کرتے تو یہ کہا کرتے تھے۔
انه نبی وانہ لانبی بعده واسمہ احمد۔

(خصائص کبریٰ للیسوطی ص ۳۷ ج ۱)

ترجمہ = بلاشبہ یہ نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور توریت اور

انجیل میں ان کا نام احمد ہے۔

دسویں شہادت

زیاد بن لبید راوی ہیں کہ ہم مدینہ کے ایک ٹیلہ پر تھے کہ یکایک یہ آواز سنائی دی:

يا اهل يثرب قد ذهبت والله نبوة بنى اسرائيل هذا نجم قد طلعت
بمولد احمد وهو آخر الانبياء ومهاجره الى يثرب

(خصائص کبریٰ ص ۱۷۲۷)

ترجمہ = اے اہل یثرب خدا کی قسم نبی اسرائیل سے نبوت رخصت ہوئی۔ یہ ستارہ ہے کہ جو احمد ﷺ کی ولادت کی وجہ سے طلوع ہوا ہے اور وہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں ان کا وار ہجرت یثرب یعنی مدینہ ہو گا۔ (فتلک عشرہ کاملہ)

دلیل ہشتم

قال الله عز وجل - سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى - وقال تعالى - ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ○ فاحسى الى عبده ما لوحى ○ ما كذب الفولاذ ماراى ○ افتتمرونه على ما يرى ○ الايات

ان آیات مبارکہ میں حق جل شانہ نے اجمالاً "واقعہ اسراء اور معراج کو ذکر فرمایا ہے جس سے مقصود حضور پر نور ﷺ کی فضیلت اور سیادت کو ظاہر کرنا ہے کہ فرش سے لے کر عرش تک معراج سوائے سید الاولین والآخرین اور خاتم الانبیاء والمرسلین کے کسی اور نبی اور رسول کو حاصل نہیں۔ واقعہ کی تفصیل کتب حدیث اور کتب سیر میں مذکور ہے۔ اس وقت ہم واقعہ اسراء کی چند روایتیں ذکر کرنا چاہتے ہیں، جس سے حضور پر نور ﷺ کا خاتم النبیین ہونا ظاہر ہوتا ہے۔

پہلی روایت

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام براق پر سوار ہو کر جبریل امین کے ہمراہ روانہ ہوئے تو آپؐ کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپؐ کو ان الفاظ سے سلام کیا۔ السلام علیک یا لولہ السلام علیک یا اخر السلام علیک یا حاشر۔ جبریلؑ نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ اور اس کے بعد بتلایا کہ جن لوگوں نے آپؐ کو سلام کیا تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔

(رداء الیستی فی الدلائل تفسیر ابن کثیر ص ۸ ج ۶ سورۃ اسراء۔ زرقاتی شرح مواہب ص ۳۰ ج ۶)

دوسری روایت

حضور ﷺ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو انتظار میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے اور ایک گروہ عظیم فرشتوں کا بھی تھا ایک موزن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی گئی اور جبریلؑ کے اشارہ سے نبی اکرم ﷺ نے انبیاء کرام اور ملائکہ کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو فرشتوں نے جبریلؑ سے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جبریلؑ نے یہ جواب دیا:

هذا محمد رسول اللہ خاتم النبیین۔
ترجمہ = یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں۔

فوائد

- ۱- حضور ﷺ کا تمام انبیاء کرام کی امامت فرمانا یہ آپؐ کے سید الاولین والآخرین ہونے کی صریح دلیل ہے بلکہ مقصد ہی امامت سے یہ تھا کہ تمام انبیاء پر حضور ﷺ کی سیادت اور افضلیت ظاہر ہو۔
- ۲- ختم نماز کے بعد فرشتوں کا سوال کرنا اور جبرائیل امین کا یہ جواب دینا

کہ ہذا محمد رسول اللہ خاتم النبیین اس سے مقصود یہ تھا کہ
حضرات انبیاء کرام اور ملائکہ عظام کی محفل نور التیام میں حضور
ﷺ کی ختم نبوت کا اعلان ہو جائے۔

۳۔ حضرات انبیاء اور ملائکہ کرام نے حضور ﷺ کی اقتداء کی اور
حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی۔ ظاہر یہی ہے کہ کسی نے آپ کے
پیچھے کوئی حرف فاتحہ وغیرہ کا نہیں پڑھا۔ سب نے نہایت خاموشی کے
ساتھ حضور ﷺ کی قرأت کو سنا۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ فرماتے
ہیں کہ قرأت خلف الامام جائز نہیں بلکہ درحقیقت خلاف ادب ہے۔

عجب ست کہ بو جودت وجود من بماند
تو بگفتن اندر آئی مارا سخن بماند

تیسری روایت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم
ﷺ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا:
یا بنی انک لاق ربک اللیلۃ وان امتک آخر الامم و اضعفها فان
استطعت ان تکون حاجتک کلھا و اجلھا فی امتک فافعل۔
آخرا جہ ابن عرفہ فی جزء و ابونعیم و ابن عساکر۔

خصائص کبریٰ ص ۱۶۲ ج ۱ و تفسیر ابن کثیر ص ۲۸ ج ۶ سورہ اسراء اور عبداللہ بن
مسعود کی یہ حدیث وان امتک آخر الامم تک فتح الباری ص ۱۶۹ ج ۷ میں بھی مذکور
ہے۔

ترجمہ = اے بیٹے آج کی رات تم اپنے پروردگار سے ملو گے اور تیری
امت سب سے آخری امت ہے اور سب سے زیادہ کمزور اور ضعیف
ہے جہاں تک ممکن ہو اپنی امت کی سہولت کے لیے کوشش کرنا۔

چوتھی روایت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے معراج کی طویل حدیث میں مروی ہے کہ جب حق جل و علانی نبی اکرم ﷺ کو اپنے قرب اور مکالمہ سے سرفراز فرمایا تو اس میں یہ ارشاد فرمایا:

وجعلت امتک ہم الاولین والآخرین وجعلت من امتک اقواما
قلوبہم انا جیلہم وجعلتک اول النبیین خلقا و آخرہم بعثا و
جعلتک فاتحا و خاتما۔

(نصائے کبریٰ ص ۱۷۳ ج ۱۔ ابن کثیر ص ۳۳ ج ۱، سورہ اسراء)

ترجمہ = اور میں نے تیری امت کو اول امم اور آخر امم بنایا یعنی فضیلت اور مرتبہ کے اعتبار سے اول اور ظہور کے اعتبار سے آخری امت اور تیری امت میں ایک قوم ایسی بنائی کہ جن کے دل انجیل ہوں گے۔ یعنی حفاظ قرآن اور تم کو نورانی اور روحانی اعتبار سے پہلا نبی اور بعثت کے اعتبار سے آخری نبی بنایا اور تم کو نبی دورۂ نبوت کا فاتح اور خاتم بنایا۔

پانچویں روایت

متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ سدرۃ المنتہی کے بعد عرش تک پہنچے اور قرب خاص اور مکالمہ خداوندی سے مشرف ہوئے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ عرش کائنات کا آخری مقام ہے۔ آخری نبی کو آخری مقام تک میر کرانی تاکہ ان کا آخری نبی ہونا خوب واضح اور آشکارا ہو جائے۔

دلیل نہم

قال اللہ عزوجل عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا ○

عنقریب تیرا پروردگار تجھ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔

احادیث متواترہ اور جمہور اور صحابہؓ اور تابعینؒ کے اقوال اس پر متفق

ہیں کہ مقام محمود سے مقام شفاعت مراد ہے اور احادیث متواترہ سے یہ امر روز

روشن کی طرح واضح ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کی درخواست کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گا اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ پر ختمی اور ختمتہ ہو گا۔ شفاعت کی طویل حدیث میں سلمان فارسیؓ سے مروی ہے کہ اولین اور آخرین جب شفاعت کے لیے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہ عرض کریں گے۔

انت الذی فتح اللہ بک و ختم و غفر لک ما تقدم و ما تاخر۔

(رواہ ابن ابے شیبہ فتح الباری ص ۳۷۸ ج ۱۱)

ترجمہ = آپ ہی ہیں وہ کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو شروع کیا اور آپ پر نبوت کو ختم کیا اور اگلی پچھلی بھول چوک سب معاف کی لہذا اب آپ ہماری شفاعت کیجئے کیونکہ جب آپ کی لغزشیں سب معاف ہو چکی ہیں تو پھر شفاعت سے عذر کے لیے کوئی تصور ہی نہیں جس کی بناء پر عذر فرمائیں۔

اور مسند احمد اور ابویعلیٰ کی روایت میں ہے کہ جب اہل حشر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں شفاعت کی درخواست لے کر حاضر ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں یہ فرمائیں گے:

ان محمداً رسول اللہ خاتم النبیین قد حضر الیوم وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ و ما تاخر

(کذا فی البدور السافرة الحافظ السیوطی ص ۶۸)

ترجمہ = خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ آج تشریف فرما ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اگلی پچھلی لغزشیں سب معاف کر دی ہیں لہذا ان کے پاس جاؤ۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ اہل حشر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہیں گے۔

یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء و غفر اللہ لک ما تقدم

مزدنبک و ماتاخر اشفع لنا الی ربک۔

(مسلم ص ۱۱۱ ج ۱ و بخاری)

ترجمہ = اے محمد ﷺ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی تمام لغزشیں معاف کی ہیں جب اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے تو ہمارے لیے شفاعت فرمائیے۔

مقام محمود کی وجہ تسمیہ

اس مقام کو مقام محمود اس لیے کہتے ہیں کہ اولین اور آخرین سب اس روز آپ ﷺ کی حمد و ثنا کریں گے۔ یا وجہ یہ ہے کہ اس روز حضور سجدہ میں کریں گے اور سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب حمد و ثنا کریں گے جس کا اسی وقت منجانب اللہ الہام اور القا ہو گا اور حکم ہو گا کہ سجدہ سے سر اٹھاؤ جو مانگو گے وہی عطا ہو گا اور ولسوف یعطیک ربک فترضی میں اسی طرف اشارہ ہے۔

ہر اذان کے بعد حضور کے لیے مقام محمود کی دعا

احادیث میں ہے کہ ہر اذان کے بعد یہ دعا مانگا کرو وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ لک لاتخلف المعیاد اے اللہ تو ہمارے نبی کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے یعنی وہ دن دکھلا جس میں آپ ﷺ کی سیادت اور انضیلت اور آپ ﷺ کی خاتیت اور ختم نبوت روز روشن کی طرح واضح ہو گی اور تمام اولین اور آخرین آپ ﷺ کی ختم نبوت کا اقرار کریں گے۔ یاد رہے کہ اس وقت اقرار کرنے والوں میں مرزائی اور قادیانی بھی ہوں گے مگر اس وقت کا اقرار مفید نجات نہیں اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر اس وقت کسی مسلمان کی نظر کسی قادیانی پر پڑ جائے اور اس سے یہ کہے کہ تم آج کس منہ سے انت رسول اللہ خاتم النبیین کہہ کر شفاعت کی درخواست کرتے ہو۔ تم تو ختم نبوت کے قائل نہ تھے۔ مرزا صاحب کو ڈھونڈو لو جو تمہارے نزدیک ہر شان میں تمام انبیاء سے بڑھے ہوئے ہیں تو قادیانی صاحب اس کا جواب سوچ لیں؟

دلیل دہم

قال الله عز وجل يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة

الدنيا وفي الآخرة

اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو محکم اور مضبوط قول پر دنیا کی زندگی میں بھی ثابت اور قائم رکھتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی۔

احادیث سے ثابت ہے کہ یہ آیت سوال قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یعنی اہل ایمان اللہ کی توفیق سے دنیا میں بھی اور قبر میں سوال نکیرین کے وقت بھی کلمہ حق پر قائم اور ثابت قدم رہتے ہیں۔

وعن تمیم الدری فی حدیث طویل فی سوال القبر فیقول ای المیت الاسلام دینی و محمد نبی و هو خاتم النبیین فیقولان له لصلقت رواہ ابن ابی الدنیا و ابو علی۔

(تفسیر در منشور ص ۱۶۵ ج ۶)

ترجمہ = تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث ذیل میں مروی ہے کہ مردہ نکیرین کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ اسلام میرا دین ہے اور محمد ﷺ میرے نبی ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ نکیرین کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔


معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی ختم نبوت کا اقرار بھی قول ثابت میں داخل ہے۔ لہذا اس آیت سے ختم نبوت پر استدلال صحیح ہے۔

فتلک عشرۃ کاملۃ

الحمد للہ کہ ختم نبوت کی یہ دس دلیلیں ختم ہوئیں۔ یہ دس دلیلیں فقط دس دلیلیں نہیں۔ بلکہ دلائل کی دس قسمیں ہیں اور ہر قسم کے تحت اس کے افراد اور جزئیات ہیں۔ انواع اور اقسام کے تعین سے انقباض میں سہولت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ناچیز نے یہ طریقہ اختیار کیا۔

اب اس رسالہ کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس
 رسالہ کو اہل ہدایت کے لیے موجب استقامت اور اہل ضلالت کے لیے موجب
 ہدایت بنائے۔ اور اس آوارہ اور ناکارہ کے حق میں موجب شفاعت بنائے۔
 آمین یا رب العلمین

94 .



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى و الصلوة
 و السلام على سيد الاصفياء و خاتم الانبياء و على اله و اصحابه البررة
 الاتقياء عدد انفاس الخلائق اجمعين و علينا معهم يا ارحم الراحمين۔
 امامجد: سلاطين عالم کا یہ طریق رہا ہے کہ ہر کس و ناکس کو اپنا وزیر اور
 سفیر نہیں بناتے۔ وزارت اور سفارت کے لیے ایسے شخص کو منتخب کرتے ہیں جو
 عقل اور فہم میں یگانہ روزگار ہو۔ بادشاہ اور اس کی حکومت کا وفادار اور اطاعت
 شعار ہو۔ صادق اور راست باز ہو۔ امانت دار اور دیانت دار ہو۔ جھوٹا اور منکار
 نہ ہو۔ زیرک اور دانا ہو کہ احکام شاہی کے سمجھنے میں غلطی نہ کرتا ہو۔ وغیرہ
 وغیرہ۔ جب تک اس قسم کے اوصاف فاضلہ اور صفات کاملہ نہ ہوں گی اس وقت
 تک اس کو منصب وزارت و سفارت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔

جب شاہان دنیا کی مجازی اور فانی حکومت کی وزارت اور سفارت کے لیے
 یہ شرائط ہیں تو اس احکم الحاکمین اور شہنشاہ حقیقی کی نبوت اور خلافت کے لیے اس
 سے ہزار ہا درجہ بڑھ کر شرائط ہوں گی۔ حافظ توربشتی رحمۃ اللہ "المعتقد
 فی المعتقد" میں فرماتے ہیں۔

"انبياء کرام ہمیشہ فرمان الہی کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا نفس اطاعت
 خداوندی میں ہمیشہ ان کا تابع اور مطیع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بزرگ حضرات
 خدا تعالیٰ کی معصیت سے معصوم ہوتے ہیں۔ اگر انبیاء معصوم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ
 مخلوق کو ان کی بے چون و چرا اطاعت و متابعت کا حکم نہ دیتا۔ انبیاء کی عقل
 دوسرے لوگوں کی عقل سے ارفع اور اکمل ہوتی ہے۔ ان کے اور اکتا دوسروں

کے اور اکت سے بہت زیادہ سریع اور تیز ہوتے ہیں۔ خطا اور غلطی سے محفوظ اور مامون ہوتے ہیں۔ ان کی رائے دوسروں کی رائے سے زیادہ تیز اور قوی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علوم وحی کو جس طرح انبیاء سمجھتے ہیں، دوسروں سے ممکن نہیں۔ ان کا حافظہ سب سے قوی ہوتا ہے اور فصاحت اور بلاغت اور تاثیر سخن میں بھی انبیاء تمام عصر پر غالب رہتے ہیں۔ ان کی ظاہری اور باطنی قوی سب سے زیادہ قوی ہوتی ہیں۔ ان کا خلق نہایت نیک، اور ان کی صورت بڑی وجیہ، اور ان کی آواز نہایت عمدہ اور خوش اور غایت درجہ موثر ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ انبیاء جس طرح سیرت اور معنی کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں اسی طرح صورت اور ظاہر میں بھی خوب تر اور پسندیدہ تر ہوتے ہیں۔“ انتہی

(مترجمان الفارسیۃ بالہندیۃ)

اس زمانہ میں لوگوں نے نبوت اور رسالت کو ایک کھیل بنا لیا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ وحی اور الہام کے اشتہار شائع کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم مختصر طور پر نبوت کے کچھ شرائط ذکر کرتے ہیں، جو عین عقل سلیم کے مطابق ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ کسی عقل والے کو ان کے قبول کرنے میں تردد نہ ہو گا۔ اور جو لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کے دام میں پھنسے ہوئے ہیں: انشاء اللہ ثم انشاء اللہ ان پر مرزا غلام احمد کی نبوت کی حقیقت خوب واضح ہو جائے گی کہ وہ صادق تھا یا کاذب۔ فاقول وباللہ التوفیق وبیدہ اذمۃ التحقیق ان لیرید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

شرط اول

عقل کامل

نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ کامل العقل بلکہ اکمل العقل ہو۔ نبی کے لیے عقل کامل کی ضرورت اس لیے ہے کہ نبی وحی الہی کے سمجھنے میں غلطی نہ کرے۔ نیز جب تک عقل کامل نہ ہو، اس پر اطمینان نہیں ہو سکتا۔ نبوت غباوت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ غبی کا نبی ہونا عقلاً محال ہے۔ ایک عاقل اور دانا کو غبی اور ناقص العقل پر ایمان لانے کا حکم دینا سراسر خلاف عقل ہے۔ غبی اور ناقص العقل تو اپنا بھی ہادی اور راہنما نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ وہ عقلاء اور اذکیا کی ہدایت کے لیے مبعوث ہو۔ بچے اور عورتیں چونکہ ناقص العقل ہوتے ہیں، اس لیے وہ بغیر ولی اور سرپرست کے اپنے مال میں بھی تصرف کرنے کے مجاز نہیں۔ حتیٰ کہ ناقص العقل کو بغیر ولی کے نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں اور عقلاً یہ بھی محال ہے کہ کسی غبی اور ناقص العقل شخص کو فقط غبی اور ناقص العقل لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اس لیے کہ نبی اور امت جب دونوں ہی ناقص العقل ہوں گے تو پھر وہ دین عجیب حماقتوں کا مجموعہ ہو گا اور ایسے احقانہ دین سے کسی صلاح و فلاح کی توقع تو درکنار، خرابی ہی میں اضافہ ہو گا۔

بلکہ

نبی کے لیے فقط کامل العقل ہونا کافی نہیں، بلکہ اکمل العقل ہونا ضروری ہے۔ یعنی عقل اور فہم میں اس درجہ بلند ہو کہ اس زمانہ میں کوئی اس کی نظیر نہ

ہو۔ اس لیے کہ یہ ناممکن ہے کہ کسی امتی کی عقل کسی نبی کی عقل سے بڑھ کر ہو۔ نبوت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نبی اپنی تمام امت سے عقل 'اور دانائی میں بالا اور برتر ہو۔ کسی بڑے سے بڑے عاقل کی عقل اس کے ہم پلہ اور پاسنگ نہ ہو۔

دوسری شرط

حفظ کامل

نبوت کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا حافظہ فقط صحیح اور درست ہی نہ ہو، بلکہ کامل الحفظ اور بلکہ اکمل الحفظ ہو۔ معاذ اللہ اگر نبی کا حافظہ خراب ہو، تو اس کو اللہ کی وحی بھی پوری یاد نہ رہے گی۔ بسا اوقات ایک لفظ کی کمی سے بھی حکم میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اور جب نبی کا حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے بندوں تک اللہ کی وحی، اور اس کا حکم پورا پورا نہ پہنچے گا۔ تو وہ بجائے ہدایت کے گمراہی کا سبب ہو گا۔

حدیث شریف میں ہے کہ جب ابتداء بعثت میں جبرئیل امین آنحضرت ﷺ کے پاس وحی لے کر نازل ہوتے تو حضور ﷺ جبرئیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے۔ مبادا کوئی لفظ قرآن کا بھول جاؤں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

لا تحرك به لسانك لتجعل به ○ ان علينا جمعه وقرانه ○ فاذا

قرناه فاتبع قرانه ○ ثم ان علينا بيانہ القيامة

ترجمہ = نہ چلا تو اس کے پڑھنے پر اپنی زبان شتاب، اس کو سیکھ لے۔ وہ تو ہمارا ذمہ ہے اس کو سمیٹ رکھنا اور پڑھنا۔ پھر جب ہم پڑھنے لگیں، تو ساتھ رہ اس کے پڑھنے کے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔

منقرئک فلا تنسی ○ الا ماشاء اللہ (سورۃ اعلیٰ)

ترجمہ = ہم پڑھادیں گے تجھ کو۔ پھر تو نہ بھولے گا مگر جو چاہے اللہ۔
اب ہم خود مرزا صاحب کے اقرار سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب
کی نہ عقل درست تھی اور نہ حافظہ۔

اقرار مراق

مرزا صاحب نے اپنی تحریرات اور اعلانات میں اپنے مراق اور مایعویا
اور خرابی حافظہ کا صاف اقرار کیا ہے۔ چنانچہ مرزا صاحب فرماتے ہیں:
”دیکھو میری بیماری کی نسبت بھی آنحضرت ﷺ نے پیش گوئی کی تھی جو اسی
طرح وقوع میں آئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو دو
زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ تو اسی طرح مجھ کو دو بیماریاں ہیں۔ ایک
اوپر کے دھڑکی اور ایک نیچے کے دھڑکی۔ یعنی مراق اور کثرت بول۔“ ۱۷

(ارشاد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مندرجہ رسالہ شہید الاذہان قادیان

(ملفوظات ج ۸ ص ۳۳۵)

ماہ جون ۱۹۰۶ء

”مراق کا مرض حضرت مرزا صاحب میں موروثی نہ تھا۔ بلکہ یہ خارجی
اثرات کے ماتحت پیدا ہوا، اور اس کا باعث سخت دماغی محنت، تھکرات، غم اور سوء
ہضم تھا۔“

(از رسالہ ریویو قادیان ص ۱۰ بابت ماہ اگست ۱۹۲۶ء)

خرابی حافظہ کا اقرار

”مکرمی اخویم سلمہ، میرا حافظہ بہت خراب ہے۔ اگر کئی دفعہ کسی کی
ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں..... حافظہ کی یہ اہتری (یعنی بدترین حالت) ہے
کہ بیان نہیں کر سکتا۔“

فاکسار غلام احمد از صدر انبالہ احاطہ ناگ پبلی (مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر

۳ ص ۲۱ مجموعہ مکتوبات مرزا غلام احمد)

مرزائے قادیان میں عقل اور حافظہ دونوں کا فقدان

مرزا صاحب میں نبوت کی یہ دونوں شرطیں مفقود تھیں۔ مرزا صاحب کو اپنے مراق ”(مالیخولیا) اور خرابی حافظہ کا خود اقرار اور اعتراف ہے۔ مرزا صاحب حافظہ قرآن نہ تھے۔ مسلمانوں کے بچوں کے برابر بھی حافظہ نہ تھا۔ حالانکہ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ میری بعثت (معاذ اللہ) رسول اللہ ﷺ کی بعثت ثانیہ بلکہ اس سے بھی اکمال ہے۔ (خلبہ الیامیہ ص ۲۴۱ / ۲۴۲ روحانی خزائن ص ۲۴۱ / ۲۴۲ ج ۱۶) پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معاذ اللہ رسول اللہ ﷺ کو بعثت ثانیہ میں قرآن یاد نہ رہا تھا، نیز مرزا صاحب کے اختلافات اور متعارض اور متناقض اقوال مرزا صاحب کی خرابی حافظہ کی دلیل ہیں۔ مرزا صاحب کو یاد نہیں رہتا کہ پہلے کیا لکھ چکا ہوں اور ناخ و منسوخ کی تاویل مرزا صاحب کی من گھڑت ہے۔ احکام میں تو کچھ چل نہیں سکتی ہے لیکن واقعات اور خبروں میں تنخ جاری نہیں ہوتا۔ لہذا واقعات کے بیان میں مرزا صاحب کی جو متعارض عبارتیں ہوں گی، ان میں سوائے خرابی حافظہ یا چالاکی کے اور کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔ چالاکی سے مراد یہ ہے کہ مرزا صاحب کے ہر مسئلہ میں دو دو اور تین تین اور چار چار مختلف اقوال ان کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ کچھ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق ہیں اور بہت کچھ اسلامی عقائد کے خلاف ہیں تاکہ جیسا موقع ہو ویسی ہی عبارت مرزا صاحب کی کتاب سے پیش کر دی جائے۔ جب مرزا صاحب کا اسلام ثابت کرنا ہو تو مرزا صاحب کی وہ عبارتیں دکھلا دی جائیں جو مسلمانوں کے اجتماعی عقائد کے مطابق دعویٰ نبوت سے پہلے لکھی ہیں اور جب اپنی مرزائیت اور نیا دین پیش کرنا ہو تو دعویٰ نبوت کے بعد کی عبارتیں دکھلا دی جائیں۔ غرض یہ کہ مرزا صاحب کے قبیلے میں سب کچھ ہے۔ ختم نبوت بھی اور دعویٰ نبوت بھی حیات مسیح بھی ہے اور وفات مسیح بھی۔ نزول مسیح بھی ہے، اور نزول مسیح کا انکار بھی۔ مرزا صاحب کے اختلافات اور متعارض اقوال پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جن کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ دنیا کے کسی شخص کے اقوال میں اتنا اختلاف نہیں، جتنا کہ مرزا صاحب کے اقوال میں ہے۔

مرزا صاحب کو یہود اور نصاریٰ اور مجوس اور ہندوں کی بھی کتابیں یاد ہونی چاہیں

مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں تمام انبیاء (حقیقت الہی حاشیہ ص ۷۳ روحانی خزائن ص ۷۶ ج ۲۲) اور کافروں اور ہندوؤں کے اوتاروں کا بروز ہوں۔ (پہلے سیکلوتھ ص ۳۳ روحانی خزائن ص ۲۲۸ ج ۲۰) اس لیے مرزا صاحب کو توریت اور انجیل اور زبور کے علاوہ چاروں وید وغیرہ بھی یاد ہونے چاہیں۔ حالانکہ مرزا صاحب کو توریت اور انجیل اور زبور اور وید کا ایک ورق بھی یاد نہ تھا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تیس آیتوں سے صراحتاً ”حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ممات ثابت ہے۔“

(ازالہ اوہام ص ۵۹۸ روحانی خزائن ص ۳۲۳ ج ۳)

لیکن سوال یہ ہے کہ

مرزا صاحب دعویٰ نبوت سے پہلے اگرچہ نبی نہیں بنے تھے لیکن مجدد اور محدث اور ملہم من اللہ تو بن چکے تھے اور اپنی الہامی کتاب براہین احمدیہ میں حضرت مسیح بن مریمؑ کی حیات اور دوبارہ دنیا میں تشریف لانے کا اعلان فرما رہے تھے۔۔۔۔۔ (براہین احمدیہ چار حصے ص ۳۹۹ روحانی خزائن ص ۵۹۳ ج ۱) کیا اس وقت یہ تیس آیتیں مرزا صاحب کی نظر سے مخفی ہو گئی تھیں؟ ظاہر یہ ہے کہ مرزا صاحب مجدد نہیں یا نبی، قرآن کی تلاوت ضرور فرماتے ہوں گے اور صلوة الاوائین کی بیس رکعتوں اور تہجد کی آٹھ رکعتوں میں قرآن کریم کے کئی کئی پارے ضرور پڑھتے ہوں گے۔ جن میں وفات مسیح کی آیتیں بھی گزرتی ہوں گی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ باوجود مجدد اور ملہم من اللہ ہونے کے ان تیس آیتوں سے حضرت مسیح کی وفات کو نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے برعکس اپنی الہامی کتاب میں حیات مسیح اور نزول مسیح کی اشاعت کر رہے ہیں۔ کم عقلی کی یہ انتہا ہے کہ جو مسئلہ قرآن کریم کی تیس آیتوں

میں صراحت "مذکور ہو" وہ باوجود مجدد اور ملہم من اللہ ہونے کے بھی نہ سمجھ میں آوے اور اگر غمبات نہیں تو صراحت "مکر ہے۔ اور جس طرح غبی اور بد عقل نبی نہیں ہو سکتا، اسی طرح صاحب مکر شخص نیک بھی نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ نبی ہو جائے۔

نبوت کی تیسری شرط

علم کامل

نبوت کی تیسری شرط یہ ہے کہ نبی کا علم ایسا کامل اور مکمل ہو، کہ امت کے جیٹہ اور اک سے بالا اور برتر ہو۔ مرزا صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں تمام اولین اور آخرین سے علوم میں بڑھا ہوا ہوں۔ (حقیقت الہی ص ۱۵، ص ۹۲ تذکرہ ص ۱۹۲ طبع ۲) لیکن یہ دعویٰ ایسا بدیہی البطلان ہے کہ جس کو سوائے نادان کے کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ مرزا صاحب کی تصانیف کا علماء کی تصانیف سے موازنہ کر لیا جائے۔ نثر کانٹر سے اور نظم کا نظم سے، اردو کا اردو سے، فارسی کا فارسی سے، اور عربی کا عربی سے، اور انگریزی الہام کا انگریزی ادیبوں کے کلام سے موازنہ کر لیا جائے۔ ابھی مرزا صاحب کا مبلغ علم معلوم ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب کی زندگی ہی میں جو علماء تھے، ان کی تصانیف کو دیکھ لیا جائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو سامنے رکھ کر مرزا صاحب کی کتابوں کو دیکھا جائے۔ دو چار ہی ورق میں فرق معلوم ہو جائے گا۔

مرزا صاحب کی تمام تصانیف میں۔۔۔۔۔ سوائے اپنے کشف و الہام اور عقل کے دعویٰ، دیگر حضرات انبیاء کرام کی تنقیص اور توہین،۔۔۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گالیوں کے اور کیا ہے! مرزا صاحب کی کتابوں سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور آخرت کا شوق و رغبت نہیں حاصل ہوتی۔

میں مرزائیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ

کی احیا العلوم اور کیمیائے سعادت کا ترجمہ پڑھیں اور اس زمانہ کے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحبؒ کے مواعظ کا خصوصاً مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔

قرآن کریم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام معجز نظام ہے اور حدیث نبی کریم ﷺ کا کلام فصاحت التیام ہے۔ جس کا درجہ فصاحت و بلاغت میں قرآن کریم کے بعد ہے۔ حضور پر نور ﷺ کے خطبات کا، عرب کے اوباء فصحاء اور بلغاء کے خطبات سے موازنہ کر لیا جائے۔ زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا، اور حضور پر نور ﷺ کے جوامع الکلم اور کلمات حکمت و موعظت کا حکماء عالم کے کلمات حکمت سے موازنہ کر لیا جائے۔ حکماء عالم کی حکمت و موعظت کو حضور پر نور ﷺ کی حکمت و موعظت سے، وہ نسبت بھی نہ ملے گی جو قطرہ کو سمندر کے ساتھ یا ذرے کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب مرزائی حضرات اپنے نبی پر نظر ڈالیں کہ جس کو وہ تمام انبیاء سابقین سے افضل اور نبی کریم ﷺ کا عین بلکہ آپ ﷺ سے شاید بہتر اور برتر سمجھتے ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت پر نظر ڈالیں۔ کیا مرزا صاحب اردو، فارسی ادب اور فصاحت و بلاغت میں اوباء زمانہ سے کچھ بڑھ کر تھے؟ مرزا صاحب چونکہ ہوشیار تھے اس لیے اردو، فارسی ادب میں تو اعجاز کا دعویٰ نہ کیا کہ ابھی قلمی کھل جائے گی اور دنیا مذاق اڑائے گی۔ البتہ عربی زبان میں اعجاز کا دعویٰ کیا اور ”قصیدہ اعجازیہ“ لکھ کر اپنا معجزہ پیش کیا۔ علماء نے اس کے مقابل قصائد پیش کر دیئے اور مرزا صاحب کے قصیدہ اعجازیہ کی عرضی اور صرفی اور نحوی اور ادبی غلطیاں شائع کر دیں۔ جس کا اب تک مرزا صاحب اور مرزائی حضرات سے جواب نہیں ہو سکا اور اگر ہو سکتا ہے تو اب جواب دیں۔

مرزا صاحب کی فصاحت و بلاغت معلوم کرنے کا طریقہ

اگر کسی کو مرزا صاحب کے قصیدہ اعجازیہ پر ناز ہے تو ایک عام مجلس منعقد کر لی جائے۔ جس میں حجاز اور شام کے اوباء کو مدعو کیا جائے۔ اس میں مرزا

صاحب کے قصیدہ اعجازیہ کو پیش کیا جائے اور علمائے اسلام کی گرفتوں کو بھی پیش کیا جائے اور ادباء عرب سے دریافت کیا جائے کہ مرزا صاحب کا قصیدہ اعجازیہ مصر کے مشہور شاعر شوقی اور حافظ ابراہیم کے قصائد کا پاسنگ بننے کے بھی قابل ہے یا نہیں؟ اور کوئی مرزائی دعویٰ کر کے تو دیکھے کہ مرزا صاحب کے اردو شعر اکبر الہ آبادی کے اشعار کے پاسنگ بھی بن سکتے ہیں؟ مرزائی خوب جانتے ہیں کہ سارا ملک اردو زبان جانتا ہے۔ یہ دعویٰ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سنا جاسکتا۔ البتہ عربی زبان ایسی ہے کہ جس سے ملک کا اکثر طبقہ نا آشنا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں دعویٰ اعجاز پر کمر بستہ ہوئے اور ”قصیدہ اعجازیہ“ لکھ کر شائع کر دیا۔ جس پر قادیان کے کچھ نادان ایمان لے آئے جن کو نہ عربی کی خبر ہے نہ فارسی کی۔

مرزا صاحب کے صحابی اور تاجی انگریزی زبان کے ماہر ہیں۔ مگر قرآن اور حدیث کی زبان کے ماہر نہیں۔ ماہر تو کیا ہوتے کافیہ اور علم الصیغہ کی بھی خبر نہیں۔ ایسے آدمیوں کی نہ تصدیق معتبر ہے اور نہ تکذیب۔

مرزا صاحب اور ان کے صحابہ و تابعین کے امتحان کا طریقہ

مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں تمام انبیاء کرام کا عموماً اور سرور دو عالم محمد عربی مصطفیٰ ﷺ کا نخل اور بروز بلکہ ان کا عین ہوں (حقیقت الوحی ص ۳۳ تا ۳۶ ج ۲۲) مرزا صاحب کی عبارت کا احادیث نبویہ کی عربیت سے موازنہ کیا جائے اور مرزا صاحب کے صحابہ اور تابعین کے عربی کلام کا نبی اکرم ﷺ کے صحابہ اور تابعین کے خطبات اور اشعار سے موازنہ کیا جائے۔ بلکہ غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان غلامان محمد رسول اللہ ﷺ کی نثر اور نظم سے مقابلہ کر لیا جائے، ابھی مرزا صاحب اور ان کے تابعین کا مبلغ علم معلوم ہو جائے گا۔ مرزا صاحب کے خلیفہ ثانی۔۔۔۔۔ مرزا بشیر الدین محمود ربوہ میں موجود ہیں۔ ان کی عربی نثر و نظم کو کسی عربی ادیب کو دکھلایا جائے، اور مرزا کے خلیفہ ثانی تو رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ ثانی حضرت عمر

فاروق رضی اللہ عنہ کے خطبوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جس کا جی چاہے، امتحان کرے۔

نبوت کی چوتھی شرط

عصمت کاملہ و مستمرہ

شاہان دنیا کے تقرب کے لیے سراپا اطاعت ہونا ضروری ہے۔ اپنے مخالفوں کو اپنی بارگاہ میں کون گھسنے دیتا ہے۔ اور مسند قرب پر کون قدم رکھنے دیتا ہے۔ اسی طرح خداوند ذوالجلال کا مقرب اور پیغمبر وی ہو سکتا ہے جو ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کا پورا پورا مطیع اور فرمانبردار ہو اور اس کے دشمنوں سے بری اور بیزار ہو۔

مرزا صاحب اپنے اقرار سے بھی معصوم نہ تھے اور نہ اللہ کے دشمنوں سے بری اور بیزار تھے۔ یہود اور نصاریٰ سے جہاد اور قتال کو حرام سمجھتے تھے، اور ان کے عروج اور ترقی کے لیے دعا گو تھے۔

(ازالہ ادہام حاشیہ ص ۸۳۹۔ روحانی خزائن ص ۵۶۱ ج ۳)

کافروں کے لیے دعا کا مطلب

کافروں کی حکومت اور سلطنت کے لیے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر اور کافروں کو عزت اور عروج ہو، اور اسلام اور مسلمان ذلیل اور خوار ہوں۔ سبحان اللہ! عجب پیغمبری ہے کہ جس کا مقصد ہی کفر کا عروج، اور اسلام کا زوال ہے۔ نبوت کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور کافروں کی بات نیچی ہو۔ اللہ کا نام لینے والے عزیز اور سر بلند ہوں اور اللہ کے دشمن ذلیل اور خوار ہوں اور کافر خدا کے دوستوں کے غلام اور باج گزار بن کر رہیں مگر مرزا صاحب کے دین میں معاملہ برعکس ہے۔ یہ عجب نبی ہے جو نصاریٰ کے لیے دعا کرنے والا ہے اور مسلمانوں کے لیے بددعا۔

مرزا صاحب سے یہ تو ممکن نہ ہوا کہ دنیا کو اپنی عصمت، طہارت اور نزاہت دکھلا سکیں۔ اس لیے انبیاء کرام کی عصمت ہی کا انکار کر دیا، کہ نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری نہیں تاکہ اپنی عصمت دکھلانی اور ثابت نہ کرنی پڑے۔ جس کا مطلب محاذ اللہ یہ ہوا کہ اے لوگو! میرے دعویٰ نبوت پر تم میری عصمت کو نہ جانچنا، کوئی نبی معصوم نہیں گزرا۔

اے مسلمانو! ذرا غور تو کرو کہ اگر نبی کے لیے عصمت لازم نہیں، تو پھر غیر معصوم کی اطاعت کیسے واجب ہوگی؟ اگر انبیاء کرام واجب الصمت نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی اطاعت کا حکم نہ دیتا اور نہ ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا۔

نبوت کی پانچویں شرط

صداقت اور امانت

نبوت کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی صادق اور امین ہو۔ اس لیے کہ جھوٹا اور خائن کبھی نبی نہیں ہو سکتا اور مرزا صاحب کے جھوٹے ہونے پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جن میں مرزا صاحب کی مدینہ گوئیوں کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے۔

صادق اور کاذب کی تعریف

صادق اور سچا ہونے کے لیے ایک دو پیشین گوئیوں کا سچا ہو جانا کافی نہیں۔ کاہنوں اور نجومیوں کی بھی تمام پیشین گوئیاں جھوٹی نہیں نکلتیں۔ سچا وہ ہے کہ جس کی سب باتیں سچی ہوں اور جھوٹا وہ ہے کہ جس کی سب باتیں سچی نہ ہوں اگرچہ اس کی بہت باتیں بلکہ اکثر باتیں سچی ہوں۔

اس زمانے میں جو لوگ جھوٹ کے مصنف ہیں یعنی پراپیگنڈے کے امام ہیں۔ ان کی بھی تمام باتیں جھوٹی نہیں ہوتیں۔ بلکہ ان کی بھی اکثر باتیں سچی ہی ہوتی ہیں۔ مگر بائیں ہمہ وہ جھوٹے ہی ہیں۔ پردہ پوشی کے لیے جھوٹ کا نام پراپیگنڈہ رکھ لیا ہے مگر حقیقت اس کی ایسا اعلیٰ درجہ کا جھوٹ ہے کہ جس کو سننے کے بعد

بڑے سے بڑا ہوشیار بھی سچ سمجھنے لگے۔

اسی طرح مرزائی حضرات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مرزا صاحب کی کتنی پیشین گوئیاں جھوٹی نکلیں۔ چند پیش گوئیوں کے سچا ہونے سے کسی کا صادق اور راست باز ہونا ثابت نہیں ہو سکتا اور اگر جھوٹے کے یہ معنی ہوں کہ اس کی کوئی بات بھی سچی نہ ہو، تو اس معنی کو دنیا میں کوئی بھی جھوٹا نہیں نکلے گا۔ بلکہ اس معنی کو جھوٹا ہونا عقلاً محال ہے۔ اس لیے کہ یہ عقلاً ناممکن ہے کہ کسی شخص کی ہر بات جھوٹی ہو اور کوئی بات بھی اس کی سچی نہ ہو۔ خوب سمجھ لو۔ شیطان کی بھی ساری باتیں جھوٹی نہیں۔

مرزا صاحب سے جب اپنا سچا ثابت کرنا ممکن نہ ہوا، تو دوسرے پیغمبروں کی پیشین گوئیوں کو جھوٹا ثابت کرنا شروع کیا، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو کہ جھوٹ بولنے سے نبوت میں فرق نہیں آتا، اور محاذ اللہ! میں (یعنی مرزا صاحب) ہی جھوٹا نہیں۔ بلکہ اور پیغمبر بھی جھوٹے گزرے ہیں۔

نبوت کی چھٹی شرط

عدم توریت

نبوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کسی کی زمین اور جائیداد اور مال و دولت کا وارث ہو اور نہ اس کے بعد کوئی اس کا وارث ہو۔

حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ حضور پر نورؐ نے فرمایا:

نحن معاشر الانبیاء لاثرت ولا نورث ماترکنا صدقہ

ترجمہ = ہم گروہ انبیاء، نہ ہم کسی کے وارث اور نہ ہمارا کوئی وارث ہم

جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ خدا کے لیے وقف ہوتا ہے۔

مگر مرزا صاحب کے یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ خود بھی اپنے باپ کی زمین و جائیداد کے وارث ہوئے اور دعویٰ پیغمبری سے جو زمین اور جائیداد فراہم کی، انگریزی پکھری سے اسکی باضابطہ رجسٹری اپنی اولاد کے نام کرائی۔ جب سب کو

مطلوم ہے اور قادیانی حضرات کو ہم سے ہزار درجہ بڑھ کر مطلوم ہے۔ ”عیاں راچہ عیاں“

نبوت کی ساتویں شرط

زہد

نبوت کی ایک شرط زہد یعنی دنیا کی شہوات اور لذات سے بے تعلقی ہے۔ نبوت کا مقصد بندوں کو خدا تک پہنچانا ہے، اور ظاہر ہے کہ شہوت پرستی بندوں کو خدا پرست نہیں بنا سکتی۔ مگر مرزا صاحب میں یہ شرط بھی مفقود ہے۔ مرزا صاحب نے حطام دنیا کے جمع کرنے میں کوئی دقیقہ اور حیلہ نہیں چھوڑا۔ جس جس تدبیر اور حیلہ سے روپیہ جمع کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا۔ حتیٰ کہ اپنی تصویر تک فروخت کی۔ اور سچنی عورت (کبھی عورت) کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے، فکر مند رہے۔ (میرۃ الہدیٰ ص ۲۶۲ ج ۱) اسے استعمال میں لانے کی دلیل بھی دی۔ (آئینہ کلمات ص ۶۶۰، ۶۰۱)

نبوت کی آٹھویں شرط

اعلیٰ حسب و نسب

نبوت کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اور برتر ہو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر قل شاہ روم نے۔۔۔ ابو سفیان سے دریافت کیا: کیف نسبہ فیکم۔

ترجمہ = محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب و نسب کیسا ہے۔

ابو سفیان نے جواب دیا:

ہو فی حسب ما لا نفضل علیہ غیرہ۔

ترجمہ = یعنی وہ حسب و نسب میں سب سے بڑھ کر ہے۔

شاہ روم نے کہا وکذلک الرسل تبعث فی احساب قومها یعنی انبیاء
بیشہ بہترین خاندان میں سے مبعوث ہوتے ہیں تاکہ لوگ حسب و نسب کے لحاظ سے
ان کو حقیر نہ سمجھیں۔

مرزا صاحب میں یہ شرط بھی مفقود ہے۔ مرزا صاحب مثل اور پٹھان تھے
(کتاب البریہ ص ۱۳۳ روحانی خزائن ص ۱۶۲ ج ۱۳) سید اور ہاشمی تو کیا، شیخ زادہ بھی نہ
تھے۔ خصوصاً مرزا صاحب کا جیسا یہ دعویٰ ہے کہ میں عین رسول اللہ ہوں اور
امام مہدی بھی ہوں، تو عین رسول اللہ ہونے کی وجہ سے ہاشمی ہونے چاہیے تھے،
اور مہدی ہونے کی وجہ سے فاطمی یعنی حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہراءؑ کی اولاد
سے ہونے چاہیے تھے۔ مگر نہ ہاشمی تھے نہ فاطمی بلکہ مثل تھے۔

نبوت کی نویں شرط

مرد ہونا

نبوت کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی مرد ہو۔ قال اللہ تعالیٰ وما المرسلنا من
قبلک الا رجالا نوحی الیہم نبی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مرد ہو۔ اس لیے
کہ عورتیں ناقص العقل والدین ہوتی ہیں۔ پس اگر عورت کا نبی ہونا جائز رکھا
جائے تو نبی کے عقل اور دین کا ناقص ہونا لازم آئے گا اور نبی کے دین اور عقل کا
ناقص ہونا محال ہے۔ اس لیے کہ جب بنی بنی کی عقل اور نبی کا دین ناقص ہو گا، تو
امت کی عقل اور امت کا دین کیسے کامل ہو گا۔ نیز عورت کے لیے پردہ واجب ہے
کیونکہ بے پردگی موجب فتنہ ہے۔ لہذا اگر عورت نبی ہو تو دو حال سے خالی نہیں،
کہ پردہ کرے گی یا نہیں۔ اگر وہ پردہ کرے تو اس سے استفادہ کیسے ہو گا۔ نیز نبیہ
کو بغیر دیکھے لوگ صحابی کیسے بنیں گے۔ بغیر دیکھے صحابیت کا شرف حاصل نہ ہو گا۔
اور اگر پردہ نہ کرے تو موجب فتنہ ہو گی۔ خصوصاً جب کہ نبی کے لیے یہ ضروری
ہے کہ حسین و جمیل اور حسن الصوت یعنی خوش آواز بھی ہو (جیسا کہ بعض علماء
نے لکھا ہے) تو ایسی صورت میں حسین و جمیل اور خوش آواز (عورت) کا نبی ہونا

ہدایت کے بجائے فتنہ کا دروازہ کھولے گی۔

نبوت کی یہ شرط بھی مرزا صاحب میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ مرزا صاحب کا ایک دعویٰ مریم ہونے کا اور حاملہ ہونے کا بھی تھا (کشی نوح ص ۴۷ روحانی خزائن ص ۵۰ ج ۱۹) اور ظاہر ہے کہ مریم اور حاملہ تو عورت ہی ہو سکتی ہے نہ کہ مرد۔ لہذا مرزا صاحب اپنے اس اقرار کے بموجب مرد نہ ہوئے تو پھر نبی کیسے بنے۔

نبوت کی دسویں شرط

اخلاق کاملہ

نبوت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ صاحب نبوت اخلاق کاملہ اور کمالات فاضلہ کے ساتھ موصوف ہو۔ بدخلق اور بدزبان نہ ہو۔ یہ شرط بھی مرزا صاحب میں مفقود ہے۔ ناظرین اور طالبین حق کے لیے ہم مرزا صاحب کے اخلاق کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جس سے ناظرین اور قارئین کو معلوم ہو جائے گا کہ مرزا صاحب کس درجہ کے اخلاق والے تھے۔ ناظرین کرام کی سہولت کے لیے مرزا صاحب کی گالیوں کا حروف تجوی کے اعتبار سے نقشہ پیش کرتے ہیں۔ فتلک عشرۃ کاملہ

مرزا صاحب کی گالیوں کا حروف تجوی کے لحاظ سے نقشہ

الف

۸۳	ایام الصلح ص ۸۳	روحانی خزائن ص ۳۲۰ ج ۱۳	اے زور نج
۸۶	" ص ۸۶	روحانی خزائن ص ۳۲۲ ج ۱۳	ان حاسد
۱۰۳	" ص ۱۰۳	" " ج ۱۳	اے بد قسمت۔ بد گمانو
	ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۱/ح	" " ج ۱۳	اے مردار خور مولویو

	" "	اندھیرے کے کیڑو
ح/۲۲	ص ۳۰۶ ج ۱۱	اندھے
۲۶	ص ۳۱۰ ج ۱۱	اے اندھو
۲۵	ص ۳۲۹	اے بد ذات
"	" " "	اے خبیث
۲۶	ص ۳۳۰	اے پلید جال
۲۶	" " "	ان احمقو
۲۶	" " "	اے تارانو
۲۶	" " "	آنکھوں کے اندھو
۲۸	ص ۳۳۲	اسلام کے عار
۲۹	ص ۳۳۳	احق
ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۰	ص ۳۳۳ ج ۱۱	اے نابکار
۶۳	ص ۳۳۷	اوسیرے مخالف
انجام آتھم ص ۲۱/ح	ص ۲۱	اے بد ذات فرقہ
ح/۵۹	ص ۵۹	اعداء الاعداء
۲۳۱	ص ۲۳۱	امام التکبیرین
۲۵۲	ص ۲۵۲	اعلیٰ
۲۵۲	" " "	افغوی
۲۶۵	ص ۲۶۵	الانام
آئینہ کمالات اسلام ص ۳۰۸	ص ۳۰۸ ج ۵	استخوان فروش
براین احمدیہ پنجم ص ۱۳۳	ص ۳۱۲ ج ۲۱	اے بد بخت قوم
ضمیمہ براین احمدیہ پنجم ص ۱۳۳	ص ۳۱۲ ج ۲۱	اے ست ایمانو
۱۶۵/۵	ص ۳۳۲ ج ۲۱	الو
مواہب الرحمن ص ۱۳۸	ص ۳۵۰ ج ۱۹	احوال الغوی

نور الحق ج ۱ ص ۳	۸ ج ۵ ص	ایمان و دیانت سے عاری
اعجاز احمدی ص ۷۶	۱۹ ج ۱۸۸ ص	اس فرومایہ
""	۱۹ ج ۱۸۹ ص ""	اے دیو
الہدی التیسرہ ص ۶۱	۱۸ ج ۲۶۰ ص ""	ان شریر
"	۱۸ ج ۲۶۱ ص ""	آگ کے لادو ٹوڑو
نور الحق ج ۱ ص ۸۹	۸ ج ۱۴۰ ص	اے دروغ گو
چشمہ معرفت ج ۱ ص ۳	۱۱ ج ۲۳ ص	ابلہ
آختم ص ۲۱/ح	۱۱ ج ۳۰۵ ص ""	اے مردار
اشتہار انعامی ص ۱۳	مجموعہ اشتہارات ص ۷۸ ج ۲	اے احق
" " ص ۵/ح	مجموعہ اشتہارات ص ۶۹ ج ۲	اسلام کے دشمنو
ضیاء الحق ص ۳۳	روحانی خزائن ص ۲۹۳ ج ۹	ابولب
اتمام اللجہ ص ۲۳	روحانی خزائن ص ۳۰۳ ج ۸	اسلام کے عار
" " ص ۲۳	" " " " ج ۸ ص ۳۰۳	امام القتن
ست بچن ص ۹	روحانی خزائن ص ۱۴۱ ج ۱۰	اول درجہ کا تکبر
ایام السخ ص ۱۶۶	روحانی خزائن ص ۳۱۳ ج ۱۳	انسانوں سے بدتر پلید تر
ضمیمہ انجام آختم	" " " " ص ۳۰۵ ج ۱۱	اسلام کے دشمن
" " ص ۵۸	" " " " ص ۳۴۲ ج ۱۱	اسلام کے بدنام کرنے والے
" "	" " " " " " " "	اے بد بخت مغضوب
انجام آختم ص ۲۱/ح	" " " " ص ۲۱ ج ۱۱	اے ظالم
" " ص ۲۲۳/ح	" " " " ص ۲۲۳ ج ۱۱	اعمال مکذوبان الضالون
" " ص ۲۴۱/ح	" " " " ص ۲۴۱ ج ۱۱	اے شیخ احمق
" " ص ۲۵۱	" " " " ص ۲۵۱ ج ۱۱	اعمال شیخ الضال
آئینہ کمالات اسلام ص ۳۰۶	روحانی خزائن ص ۳۰۶ ج ۵	اے بد قسمت انسان
آئینہ کمالات ص ۱۵۱	روحانی خزائن ص ۶۰۱ ج ۵	اول درجہ کے کاذب

آئینہ کلمات اسلام ص دال	" " ۵ ج ۶۱	اے اس زمانہ کے ننگ اسلام
کلمات اسلام ص دال	روحانی خزائن ص ۶۰۸ ج ۵	اے کوتاہ نظر
ازالہ اوہام ج ۱ ص ۵	روحانی خزائن ص ۱۰۵ ج ۳	اے نفسانی
" " ص ۴۹ ج	" " ص ۱۵۷ ج ۳	اے خشک
ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۱۳-۲۷	روحانی خزائن ج ۱۲۱ ج ۲۱	اے اندھے
" " ص ۱۵۶	" " ج ۳۲۳ ج ۲۱	اے دیوانہ
براہین ہجیم ص ۱۶۵	روحانی خزائن ص ۳۳۲ ج ۲۱	اے دروغ آراستہ کرنے والے
مواہب الرحمن ص ۱۳۱	" " ص ۳۵۲ ج ۱۹	اے فبی
" " ص ۱۳۸	" " ص ۳۵۹	اے مسکین
نور الحق ج ۱ ص ۳	" " ص ۸۷ ج ۱	انسانیت کے پیرایہ سے بے بہرہ اور برہنہ
اعجاز احمدی ص ۵۷	روحانی خزائن ص ۲۹۹ ج ۱۹	اغوا کرنے والے محمد حسین
الهدی والتبصرة ص ۸	روحانی خزائن ج ۲۵۳ ج ۱۸	اکڑ باز
اشتہار انعامی تین ہزار ص ۵	مجموعہ اشتہارات ص ۶۹ ج ۲	اے بے ایمانو
ضمیمہ انجام آختم ص ۲۳ ج	روحانی خزائن ص ۳۰۸ ج ۱۱	اندھے پادریوں

ب-ب

ایام الصلح ص ۱۱۵	روحانی خزائن ص ۳۱۳ ج ۱۳	پلید ملاؤں
ایام الصلح ج ۱۲۱	روحانی خزائن ص ۳۱۳ ج ۱۳	پلید جاہلوں
ایام الصلح ص ۱۱۵	روحانی خزائن ص ۳۱۳ ج ۱۳	پلید طبع مولوی
" " ص ۸۳	" " ج ۳۲۰ ج ۱۳	بد اخلاقی اور بد خلقی میں غرق ہونے والو
" " ص ۱۰۳	" " ج ۳۳۱ ج ۱۳	بد قسمت بد گمانو

۱۶۱	" "	۱۳ ج ۳۱۳	" "	بدتر
"	"	" "	" "	پلید تر
"	"	" "	" "	پلید ملاوں
ضمیمہ انجام آتھم ص ۳	" "	۱۱ ج ۲۸۸	" "	پلید دل
۱۰	" "	" ص ۲۹۳	" "	بے ایمانی بدیانتی
۱۱	" "	" ص ۲۹۵	" "	بد بخت
ص ۲۳/ح	" "	" ص ۳۰۶	" "	بے وقوف اندھے
"	"	" "	" "	بے ایمان اور اندھے
۳۵	" "	" ۳۲۹	" "	بد ذات
۳۶	" "	" ۳۳۰	" "	پلید دجال
۳۷	" "	" ۳۳۱	" "	بے نصیب
"	"	" "	" "	بے سہرہ
۵۳	" "	" ۳۳۷	" "	بد گوہر
۵۳	" "	" "	" "	بے وقوفوں
"	"	" "	" "	بندروں
انجام آتھم ص ۵۹/ح	" "	روحانی خزائن ص ۵۹ ج ۱۱	" "	باطل پرست بطلوی
۲۵۱	" "	" ۲۵۱ ج ۱۱	" "	باطل
۶	" "	" ۲۹۰ ج ۱۱	" "	بد ذات
آئینہ کلمات اسلام ص ۳۰۱	" "	روحانی خزائن ص ۳۰۱ ج ۵	" "	بے ہودہ
۲۰۸	" "	" ۳۰۸	" "	پلید آدمی
۶۰۰	" "	" ۶۰۰	" "	بے چارہ
نزول المسیح ص ۱۳	" "	روحانی خزائن ص ۳۹۰ ج ۱۸	" "	بد قسمت ایڈیٹر
۶۳	" "	روحانی خزائن ص ۳۳۰ ج ۱۸	" "	بے حیا
نزول المسیح ص ۶۳	" "	روحانی ص ۳۳۲ ج ۱۸	" "	پاگل

روحانی خزائن ص ۱۵ ج ۳	ازالہ ادہام ص ۳۹ ح	بدعت زاہد
روحانی خزائن ص ۲۲۲ ج ۲۲	حقیقت الوحی ص ۲۱۳	بدعاش، بد ذاتی
روحانی خزائن ص ۳۳۵ ج ۲۲	" " ص ۱۳	بے ایمانی
روحانی خزائن ص ۳۸۰ ج ۶	شہادۃ القرآن ص ۱۰	بدکار آدمی
روحانی خزائن ص ۴ ج ۸	نور الحق ص ۱ ج ۱	برہنہ
روحانی خزائن ص ۱۵۰ ج ۱۹	اعجاز احمدی ص ۲۹	بھیڑے
" " ص ۱۵۳ ج ۱۹	" " ص ۳۳	پتک
" " ص ۱۸۸ ج ۱۹	اعجاز احمدی ص ۷۵	پھو
" " ص ۳۰ ج ۲۰	تذکرۃ الشادتین ص ۳۸	بے حیاء
" " ص ۳۵ ج ۷	کرامت الصادقین ص ۳	بالکل جاہل
" " " " "	" " " "	بالکل بے بہرہ
روحانی خزائن ص ۳۰۸ ج ۱۱	ضمیمہ انجام آقہم ص ۲۳ ح	پلیدیوں
" " ص ۱۸ ج ۱۱	انجام آقہم ص ۱۸ ح	بے باک اور بے شرم
" " ص ۳۶ ج ۱۱	" " ص ۳۶	پلید فطرت
" " ص ۲۰۳ ج ۱۱	" " ص ۲۰۳	بد اطوار
روحانی خزائن ص ۳۰۰ ج ۹	ضیاء الحق ص ۳۸	بخیل
" " ص ۸۸ ج ۸	نور الحق ص ۶۳ ج ۱	بد خلق
مجموعہ اشتہارات ص ۶۹ ج ۲	اشتہار انعامی تین ہزار ص ۵ ح	بے ایمانو
" " ص ۱۴۵ ج ۱	تبلغ رسالت ج ۱ ص ۸۳	بے عزتوں
روحانی خزائن ص ۳۰۰ ج ۹	ضیاء الحق ص ۳۸	بخیل طبع
" " ص ۲۸ ج ۱۱	انجام آقہم ص ۲۸	بد بخت
" " ص ۵۳۳ ج ۲۲	تتمہ حقیقت الوحی ص ۱۰۷	بداخیش
" " ص ۳۰۶ ج ۸	اتمام الحجہ ص ۲۶	بخیلوں

انجام آتھم ص ۲۸	" " ج ۲۸ ۱۱	بد بخت جموٹوں
حقیقتہ الوحی ص ۲۸۸	" " ص ۳۰۱ ج ۲۲	بے راہ
تترہ حقیقت الوحی ص ۱۵۶	" " ج ۵۹۳ ۲۲	بے خوف

ت

آئینہ کلمات اسلام ص ۳۰۸	روحانی خزائن ص ۳۰۸ ج ۵	منفقہ سے سخت بے بہرہ
ضمیمہ براہین احمدیہ ص ۱۵۷/۵	" " ج ۳۲۵ ۲۱	تجھ سے زیادہ بد بخت کون
" " ص ۱۶۵/۵	" " ص ۳۳۲ ج ۲۱	تو صبح کو الوکی طرح اندھا ہو جاتا ہے
اعجاز احمدی ص ۷۵	" " ص ۱۸۸ ج ۱۹	تو ملعون
" " ص ۸۱	" " ص ۱۹۳ ج ۱۹	تجھ پر ویل
کرامات الصادقین ص ۲۱	" " ص ۶۳ ج ۷	کبکبر کا کبڑا
اشتہار انعامی تین ہزار ص ۵/ح	مجموعہ اشتہارات ص ۷۰ ج ۲	تمہاری ایسی تہیسی ہے
دافع ابلا ص ۱۸	روحانی خزائن ص ۲۳۸ ج ۱۸	کھنڈیر کا پانی
ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۳/ح	روحانی خزائن ص ۳۰۷ ج ۱۱	تقویٰ و دیانت سے دور
" " ص ۵۰	" " ج ۳۳۳ ۱۱	تزویر و تلیس

ث

اعجاز احمدی ص ۳۳	روحانی خزائن ص ۱۵۵ ج ۱۹	ثناء اللہ کو علم اور ہدایت سے ذرہ مس نہیں
اعجاز احمدی ص ۵۱	روحانی خزائن ص ۶۳ ج ۱۹	ثناء اللہ تجھے جموٹ کا دودھ پلایا گیا
		دودھ پلایا گیا

ج-بج

ایام الصلح ص ۱۱۶	روحانی خزائن ج ۳۵۳ ج ۱۳	جہاں
ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۰	" " " " ص ۲۹۳ ج ۱۱	چارپائے ہیں نہ آدی
" " ص ۱۸	" " " " ص ۳۰۲ ج ۱۱	جہاں سجادہ نشین
" " ص ۱۸/ح	" " " " " " " "	جہلاء
" " ص ۲۸/ح	" " " " " ۲۸ " "	جھوٹے
ضمیمہ " ص ۳۹	" " " " " ۳۳۳ " "	جنگل کے وحشی
" " ص ۵۰	" " " " " ۳۳۳ " "	جھوٹا
انجام آتھم ص ۲۳۱	" " " " " ۳۳۱ " "	جار غوی
" " ص ۲۵۳	" " " " " ۲۵۳ " "	جاہلین
نزل المسیح ص ۸	روحانی خزائن ص ۳۸۶ ج ۱۸	جانور
نور الحق ج ۱ ص ۳۸	" " " " " ۶۶ ج ۸	جاہل مخالف
انجاز احمدی ص ۸۱	" " " " " ۱۹۳ ج ۱۹	جنگوں کے غول
حماہد البشری ص ۷۲/ح	" " " " " ۷ ج ۷	چارپایوں
کرامات الصادقین ص ۲۲	" " " " " ۶۵ ج ۷	چال باز
آسمانی فیصلہ ص ۳۱	" " " " " ۳۳۱ ج ۳	جلد باز مولویوں
نور الحق ص ۸۹	" " " " " ۱۲۰ ج ۸	جنگ جو
آریہ دھرم ص ۱۳	" " " " " ۱۲ ج ۱۰	چوروں
ضیاء الحق ص ۳۵	" " " " " ۲۹۶ ج ۹	جہاں اخبار نویس
اتمام الجہد ص ۲۶	" " " " " ۳۰۶ ج ۸	چالاک حاسدوں
ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۰	" " " " " ۳۳۳ ج ۱۱	جھوٹ کا گوہ کھلیا
آئینہ کمالات اسلام ص ۳۰۲	" " " " " ۳۰۲ ج ۵	جاہلوں
نزل المسیح ص ۹	" " " " " ۳۸۷ ج ۱۸	جھوٹ بولنے کا سرخند

ح

ایام الصلح ص ۸۶	روحانی خزائن ص ۳۲۲ ج ۱۳	حسد
شادۃ القرآن ص ۳ ج	" " " " ص ۳۸۰ ج ۶	حرامی
انوار الاسلام ص ۳۰	" " " " ج ۹	حرام زادہ
تتمہ حقیقتہ الوحی ص ۱۳	روحانی خزائن ص ۳۳۶ ج ۲۲	حرامی لڑکے
شادۃ القرآن ص ۶ و	" " " " ج ۶	حق پوش
اعجاز احمدی ص ۲۲	" " " " ج ۱۳۱	حیوانات
المدی والتبصرہ ص ۸	" " " " ج ۲۵۳	حاسدوں
نور الحق ص ۶۳ ج ۱	" " " " ص ۸۸ ج ۸	حریص
نور الحق ص ۸۹ ج ۱	" " " " ص ۱۳۰ ج ۸	حرم کے جنگل کے شیطان
" " " " ص ۹۲ ج ۱	" " " " ج ۱۲۳	حرم کی وجہ سے مکار
انوار الاسلام ص ۳۰	" " " " ص ۳۱ ج ۹	حلال زادہ نہیں
آئینہ کلمات اسلام ص ۶۰۰	" " " " ج ۶۰۰	حاطب اللیل
اتمام الحجہ ص ۲۵	" " " " ج ۳۰۲	حق کے مخالف

خ

ضمیمہ انجام آختم ص ۲۱/ح	روحانی خزائن ص ۳۰۵ ج ۱۱	خبیث طبع
" " "	" " " "	خزیر سے زیادہ پلید
" " "	" " " "	خبیث طبع
" " " " ص ۴۷	" " " " ج ۳۳۱	خللی گدھے
ازالہ ادہام کلاں ص ۵ ج ۱	" " " " ص ۲۵ ج ۳	خنگ زاہد

ضمیمہ برائین ص ۱۳۲ ج ۵	" " ج ۲۱	خٹک ملاؤں
شادۃ القرآن ص ۵۵	" " ج ۶۳۸۲	غیبیہ نفس
" " ص ۳	" " ج ۶۳۸۱	خود پسند
آریہ دھرم ص ۱۲	" " ج ۱۰	خیانت پیشہ
ضمیمہ انجام آتھم ص ۸	" " ج ۱۱۲۹۲	غیبیہ طینت
" " ص ۹/ح	" " ص ۲۹۳	غیبیہ فرقہ
انجام آتھم ص ۱۷/ح	" " ص ۱۱۷	خناسوں
نور الحق ج ۱ ص ۶۳	" " ج ۸ ص ۸۷	حسین ابن خیس
" " ص ۱۲۳	" " ج ۸ ص ۱۲۳	خراب عورتوں اور دجال کی نسل
ضیاء الحق ص ۹	" " ج ۹ ص ۲۵۹	غیبیہ النفس
" " ص ۲۲	" " ج ۹ ص ۲۷۸	خود غرض مولویوں
انوار الاسلام ص ۲۱	" " ج ۹ ص ۲۲۳	غیبیہ القلب
ست بچن ص ۹	" " ج ۱۰ ص ۱۲۱	خٹک دماغ
ایام السخ ص ۱۶۵	" " ج ۱۳ ص ۳۱۳	خدا کا ان مولویوں پر غضب ہوگا
اتمام الحجہ ص ۲۵	" " ج ۸ ص ۳۰۴	خسر الدنیا والاخرۃ
تہذیب عقیدت الوحی ص ۱۵۶	" " ج ۲۲ ص ۵۹۵	غیبیہ فطرت
آئینہ کلمات اسلام ص - ز	روحانی خزائن ص ۱۱ ج ۵	خٹک مطہ

و-ز

ایام السخ ص ۳۱	روحانی خزائن ص ۱۱ ج ۱۳	ذیل
ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۱/ح	" " ج ۱۱ ص ۳۰۵	دل کے مہدم
" " "	" " "	دشمن
" " "	" " "	وجہل

ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۰	" " " " ج ۱۱ ص ۳۳۴	دشمن اللہ و رسول
" " " " ص ۵۳	" " " " ج ۱۱ ص ۳۳۷	ذلت کے سیاہ داغ
" " " " ص ۱۹۸	" " " " ۱۹۸	دیانت و دین سے دور
" " " " ص ۲۳۱	" " " " ۲۳۱	دشمن عقل و دانش
آئینہ کمالات اسلام ص ۵	روحانی خزائن ص ۵ ج ۱۰	دشمن انصار دین
نزول المسح ص ۱۳	" " " " ج ۱۸ ص ۳۹۰	دروع گو
" " " " ص ۶۳	" " " " ج ۱۸ ص ۳۳۲	دیوانہ
براینہ بیجم ص ۳۳	" " " " ج ۲۱ ص ۳۱۱	دنیا کے کیرے
" " " " ص ۱۳۳/۵	" " " " ج ۲۱ ص ۳۰۲	دلوں کے اندھو
شلاوة القرآن ص ۵	" " " " ج ۶ ص ۳۸۲	دروع گو بخبر
" " " " ص ۷	" " " " ج ۶ ص ۳۸۳	دورنگی اختیار کرنے والا
عجاز احمدی ص ۷۶	" " " " ج ۱۹ ص ۱۸۹	دیو
حملتہ البشری ص ۷۲/ح	" " " " ج ۷	درندوں
ازالہ اوہام کلاں ج ۲ ص ۵۱۰	" " " " ج ۳ ص ۳۷۳	دابتہ الارض
الحدی والتبصرہ ص ۹۶	" " " " ج ۱۸ ص ۳۳۶	ذنب
استخلاص ص ۲۰	" " " " ج ۱۲ ص ۱۲۸	دنیا کے کتے
" " " " ص ۲۷/ح	" " " " ج ۱۲ ص ۱۳۵	دشمن حق
ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۴/ح	" " " " ج ۱۱ ص ۳۰۸	ذرت شیطان
انجام آتھم ص ۴۷	" " " " ص ۴۷	دجل اکبر
نور الحق ج ۱ ص ۸۸	" " " " ج ۸ ص ۳۰	دشنامہ
اشتمار انعامی تین ہزار ص ۵/ح	مجموعہ اشتمارات ص ۸ ج ۲	دل کے اندھے
" " " " ص ۵/ح	" " " " ج ۲ ص ۶۹	دجل کے ہرآنو
تبلیغ رسالت ج ۱ ص ۸۳	" " " " ج ۱ ص ۱۴۵	دیوتوں
ضیاء الحق ص ۲۷	روحانی خزائن ص ۲۸۵ ج ۹	دنیا پرست

۲ " "	۹ ج ۲۹۱ " "	دین فروش
۳۵ " "	۹ ج ۲۹۶ " "	دیوانے درندوں
ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۹	روحانی خزائن ص ۳۳۳ ج ۱۱	ذلت کی روسیاهی کے اندر غرق
المدی والتبصرہ ص ۱۸	۱۸ ج ۲۵۵ " "	درندہ طبع
انجام آتھم ص ۲۰۳	۱۱ ج ۲۰۳ " "	دجل فریہ
ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۵ ص ۱۱۵	۲۱ ج ۳۳۲ " "	دروغ آراستہ کرنے والے
اشتماری انعامی تین ہزار ص ۵/ح	مجموعہ اشتہارات ص ۸ ج ۲	دل کے اندھے
انجام آتھم ص ۲۰۶	روحانی خزائن ص ۲۰۶ ج ۱۱	دجل کینہ

ر-ز

ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۹/ح	روحانی خزائن ص ۳۰۳ ج ۱۱	زاڈخاء
" " ص ۲۱/ح	" " ۳۰۵ " "	زیادہ پلید
" " ص ۲۶	" " ۳۳۰ " "	رئیس الدجالین
انجام آتھم ص ۲۳۱	روحانی خزائن ص ۲۳۱ ج ۱۱	رئیس المستدین
" "	" "	راس الفلویں
" " ص ۲۵۱	" " ص ۲۵۱ ج ۱۱	رئیس المتطفلین
آئینہ کلمات اسلام ص ۵۳	روحانی خزائن ص ۵۳ ج ۵	رعڑیوں کی اولاد
" " ص ۵۹۹	" " ۵۹۹ ج ۵	رئیس التکبرین
ایام الصلح ص ۸۳	۱۳ ج ۳۲۰ " "	زود رنج
ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۶	۱۱ ج ۳۳۰ " "	زمانہ کے ظالم
آئینہ کلمات اسلام ص ۲۲۱/ح	۵ ج ۲۲۱ " "	زمانہ کے بد ذات
" " ص ۱۱	روحانی خزائن ص ۱۱ ج ۵	رسول اللہ کے دشمن
" " ص ۱	" " ص ۶۰۸ ج ۵	زمانہ کے تک اسلام

برایین ج ۵ ص ۱۵۷	" " ج ۲۱ ص ۳۲۵	زیادہ بد بخت
ضمیمہ استثناء ص ۲	روحانی خزائن ص ۱۰۸ ج ۱۲	روحانیت سے بے بہرہ

س-ش

ضمیمہ انجام آتھم ص ۳	روحانی خزائن ج ۱۱ ص ۲۸۸	شیطان
" " ص ۱۸	" " ج ۱۱ ص ۳۰۲	شتر مرغ
" " ص ۱۸/ح	" " "	شیاطین الانس
" " ص ۵۳	" " ج ۱۱ ص ۳۳۷	سورول
ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۳	" " ج ۱۱ ص ۳۳۷	سیاہ داغ
" " ص ۵۷	" " ج ۱۱ ص ۳۴۱	شر
" " ص ۵۸	" " ج ۱۱ ص ۳۴۲	سیاہ دل
" " ص ۱۹۸	" " ج ۱۱ ص ۱۹۸	شیخ نجدی
" " ص ۲۲۹	" " ج ۱۱ ص ۲۲۹	سکان قبیلہ
" " ص ۲۴۱	" " ج ۱۱ ص ۲۴۱	شیخ احمقان
" " ص ۲۵۲	" " ج ۱۱ ص ۲۵۲	شیخ انزل
" " "	" " "	سلطان الکبرین
" " "	" " "	شقی
" " ص ۲۵۳	" " "	سقاء
آئینہ کلمات اسلام ص ۶۰۳	روحانی خزائن ص ۲۹۵ ج ۵	شغال
" " ص ۳۰۱	" " ج ۵ ص ۳۰۱	شیطنیت کی بدو
" " ص ۳۰۲	" " ج ۵ ص ۳۰۲	سظہ پن
" " ص ۳۰۶	" " ج ۵ ص ۳۰۶	شیخ نامہ سیاہ
تتمہ حقیقتہ الہی ص ۱۳	" " ج ۲۲ ص ۳۳۵	سفیوں کا نطفہ

ح/۱۲۸ " "	" " ۲۲ ج ۵۶۵	شر
ضمیمہ برائین ج ۵ ص ۱۱	" " ۲۱ ج ۲۴۵	مخت دل عالم
نور الحق ج ۱ ص ۲۳	" " ۸ ج ۳۲	ساتیوں
ضمیمہ انجام آتھم ۳۹	روحانی خزائن ۱۱ ج ۳۳۳	سادہ لوح
حماستہ البشری ص ۷۲/ح	" " ۷ ج	سلفی مخلوقات
ازالہ کلان ج ۲ ص ۲۱۱ ص ۵۰۹ (خورد)	" " ۳ ج ۳۴۳	مخت جاہل
" " "	" " "	مخت نادان
" " "	" " "	مخت تالائق
کرامات الصادقین ص ۲۷	" " ۷ ج ۶۹	شیخ مفضل
" " "	" " ۷ ج ۷۲	شیخ مزور
الهدی والتبصرة ص ۱۰	" " ۱۸ ج ۲۵۵	شیخی باز
" " "	" " ۱۸ ج ۲۵۸	سفلہ دشمن
" " "	" " ۱۸ ج ۲۶۰	شریروں
" " "	" " ۱۸ ج ۲۶۲	سفلہ دشمنوں
انجام آتھم ص ۹	" " ۱۱ ج ۹	شریر بھیڑیے
نور الحق ج ۱ ص ۷۲	" " ۸ ج ۹۶	سفیہ
" " "	" " ۸ ج ۱۳۲	شرابیوں
انوار الاسلام ص ۲۵	روحانی خزائن ص ۲۶ ج ۹	مخت دل مولویو مشیو
" " "	" " ص ۳۰ ج ۹	شیخ علی کے بڑے بھائی
ضیاء الحق ص ۳۲	" " ۹ ج ۲۹۱	شریر مولویو
انجام آتھم ص ۲۳/ح	" " ۱۱ ج ۲۳	مخت ذلیل
" " "	" " ۲۳۱	شیخ منیل بطاوی
نزول المسحیح ص ۶۶	" " ۱۸ ج ۳۳۳	مخت دروغ گو
ضمیمہ برائین ص ۵ ص ۱۳۳	" " ص ۳۱۲ ج ۲۱	ست ایمانو

عجاز احمدی ص ۷۶	" " " " ۱۹ ج ۱۸۸	شیخ الثالث
کرامات الصادقین ص ۲۲	" " " " ۷ ج ۶۵	شیخ چال باز
اتمام الحجہ ص ۲۵	" " " " ۸ ج ۳۰۲	سواد الوجہ الدارین (دنیا آخرت میں روسیاء)
ضمیمہ انجام آتھم ص ۶۲	" " " " ۱۱ ج ۳۲۶	سزے گلے مرہ
" " " " ۹ ص	" " " " ۱۱ ج ۹	نخت بد ذات
" " " " ۱۸ ج	" " " " ۱۸ ج	نخت بے پاک
انوار الاسلام ص ۱۰	" " " " ۹ ج ۱۰	سودائی
نزول المسح ص ۱۱	" " " " ۱۸ ج ۳۸۹	شیاطین
تتمہ حقیقتہ الوحی ص ۱۵۶	" " " " ۲۲ ج ۵۹۳	نخت دل قوم
آریہ دھرم ص ۳۱	" " " " ۱۰ ج ۳۱	شرر انفس
" " " " ۳۱ ص	" " " " ۱۰ ج ۳۲	شرر پنڈت

ص-ض

انجام آتھم ص ۲۳۱	روحانی خزائن ص ۲۳۱ ج ۱۱	ضال بطلوی
نور الحق ج ۱ ص ۷۲	" " " " ۸ ج ۹۶	ضال
حقیقتہ الوحی ۳۱	" " " " ۲۲ ج ۳۲۳	ضلالت پیشہ
ایام السلسلہ ص ۸۹ ج	" " " " ۱۳ ج ۳۲۶	صریح بے ایمانی

ط-ظ

دافع البلاء ص ۱۸	روحانی خزائن ص ۲۳۸ ج ۱۸	ظالم طبع
ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۸	" " " " ۱۱ ج ۳۳۲	ظالم

انجام آختم ص ۲۱/ح	۱۱ ج ۲۱ " "	خالم مولوی
براہین احمدیہ ص ۵/۱۳	۲۱ ج ۱۸۲ " "	خالم معترض
استثناء ص ۲۰	۱۲ ج ۱۲۸ " "	خالموں
ضمیمہ انجام آختم ص ۲۳/ح	۱۱ ج ۳۰۷ " "	طوائف
نزول المسیح ص ۸	۱۸ ج ۳۸۶ " "	خالم طبع مختلفوں

ع-غ

ضمیمہ انجام آختم ص ۲۶	روحانی خزائن ص ۳۳۰ ج ۱۱	علیم نعال لعن اللہ الف الف مرۃ
" " ص ۵۸	" " ج ۲۲۲	عبد الشیطن
انجام آختم ص ۲۲۳	" " ص ۲۲۳ ج ۱۱	عالموں
" " ص ۲۳۰	" " ج ۲۳۰	غوی فی البطلانہ
انجام آختم ص ۲۵۲	" " ص ۲۵۳ ج ۱۱	عادین
" " ص ۲۵۲	" " ص ۲۵۲ ج ۱۱	غول
ضمیمہ انجام آختم ص ۳۳	" " ص ۳۱۷ ج ۱۱	غبی
تتمہ حقیقتہ الوحی ص ۱۱۵	" " ج ۵۵۱	عجب نادان
" " ص ۱۳۹/ح	" " ج ۵۸۷	عجیب بے حیاء
انجاز احمدی ص ۷۷	" " ج ۱۹۰	غدار زمانہ
" " ص ۸۳	" " ج ۱۹۶	عورتوں کے عار
کرامات الصادقین ص د	" " ج ۱۵۲	غول البرباری
اشتہار انعامی تین ہزار ص ۱۲	مجموعہ اشتہارات ص ۷۹ ج ۲	عدو اللہ
ضیاء الحق ص ۳۲	روحانی خزائن ص ۲۹۱ ج ۹	غزنی کے ٹپاک سکو
ضمیمہ انجام آختم ص ۵۸	" " ج ۳۳۲	عبد الحق کامنہ کالا
" "	" "	غزنویوں کی جماعت پر لعنت

آئینہ کلمات اسلام ص ۳۰۸

" " " " ص ۳۰۸ ج ۵

علم اور روایت اور

حقت سے سخت بے بہرہ

ف-ق

ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۸

روحانی خزائن ص ۳۰۲ ج ۱۱

فقیری اور مولوت کے شتر مرغ

" " " " ص ۵۶

" " " " ص ۳۳۰ ج ۱۱

فرعون

" " " " ص ۵۸

" " " " ص ۳۳۲

نفت یا عبد الشیطن

تترہ حقیقہ الوحی ص ۳

" " " " ص ۳۳۵ ج ۲۲

فاسق آدمی

اگزار احمدی ص ۳۸

" " " " ص ۱۲۰ ج ۱۹

فریبی

" " " " ص ۷۶

" " " " ص ۱۸۸ ج ۱۹

فردیہ

انجام آتھم ص ۱۷ ج

روحانی خزائن ص ۱۷ ج ۱۱

قوم کے خنثوں

اتمام الجحد ص ۲۳

" " " " ص ۳۰۳ ج ۸

قندہ انگیز

ک-گ

ایام السبع ص ۸۰

روحانی خزائن ص ۳۲۱ ج ۱۳

کوہ اندیش علماء

ضمیمہ انجام آتھم ص ۵

" " " " ص ۲۸۹ ج ۱۱

گندے اخبار نویس

" " " " ص ۲۱ ج

" " " " ص ۳۰۵ ج ۱۱

گندی روحو

" " " "

" " " "

گیرڈ

استثناء ص ۲۰

" " " " ص ۱۲۸ ج ۱۳

گتے

ضمیمہ انجام آتھم ص ۳۷

" " " " ص ۳۳۱ ج ۱۱

گدھے

انجام آتھم ص ۵۲

" " " " ص ۵۲ ج ۱۱

کاذب

آئینہ کلمات اسلام ص ۳۰۱

" " " " ص ۳۰۶ ج ۵

کج طبع

ل-م

مغزور فقرا	روحانی خزائن ص ۲۹۹ ج ۱۱	ضمیمہ انجام آتھم ص ۱۲
مردار خور	" " " " ص ۳۰۵ ج ۱۱	" " " " ص ۲۱ ج ۱
مولوی جاہل	" " " " ص ۳۱۰	" " " " ص ۲۶
مولویت کے بدنام کرنے والے	" " " " ص ۳۳۰ ج ۱۱	" " " " ص ۲۶
منحوس چروں	" " " " " ۳۳۷	" " " " ص ۵۳
مفتزو	" " " " " ۳۴۲	" " " " ص ۵۸
منافق مولوی	" " " " " ۳۹	انجام آتھم ص ۲۹
مولویان خشک	" " " " " ۶۹	" " " " ص ۶۹ ج ۱
منکیرین	" " " " " ۲۴۱	" " " " ص ۲۴۱
معتدین	" " " " "	" " " " "
ملعونین	" " " " " ۲۵۲	" " " " ص ۲۵۲
منشوں	" " " " " ۳۰۲ ج ۵	آئینہ کلمات اسلام ص ۳۰۲
مطم المکوت	" " " " " ۵۹۸	" " " " ص ۵۹۸
مفتزی	روحانی خزائن ص ۳۹۰ ج ۱۸	نزول المسج ص ۱۲
مردار	" " " " " ۶۰۲ ج ۱۸	" " " " ص ۲۲۳
لمسوں	" " " " " ۲۲ ج ۳۳۵	تتمہ حقیقہ الوحی ص ۱۳-۱۵ ج ۱
لمعون	" " " " "	" " " " "
مفسد	" " " " "	" " " " "
متعصب نادان	" " " " " ۱۸۲ ج ۲۱	ضمیمہ براہین احمدیہ ج ۵ ص ۲۷
مفتزی نابکار	" " " " " ۲۵۵ ج ۲۱	" " " " " ۱۱
لاف و گزاف کے بیٹے	" " " " " ۳۱۷ ج ۲۱	" " " " " ۱۳۹
متعفن	" " " " " ۲۰۵ ج ۱۷	تحفہ گولڑویہ ص ۱۱۳

موہب الرحمن ص ۱۳۸	۱۹ ج ۳۵۹ " "	مسکین
نور الحق ج ۱ ص ۲۳	۸ ج ۳۲ " "	ماریرت
" " ج ۱ ص ۵۳	۸ ج ۴۳ " "	مضل جماعت
اجاز احمدی ص ۳۳	۱۹ ج ۱۵۵ " "	مجر
" " ص ۵۷	۱۹ ج ۱۶۹ " "	مٹی سیاہ
کرامات الصلوٰتین ص ۶-۲	۷ ج ۳۸ " "	متعصب
" " ص ۲۳-۲۵	۷ ج ۶۷ " "	متکبر مولویوں
" " ص ۲۷	۷ ج ۶۹ " "	مضل
" " ص ۷	۷ ج ۷۲ " "	مزدور
آسمانی فیصلہ ص ۲۲	۴ ج ۲۳۲ " "	مکس طینت مولویوں
الہدیٰ والتبصرہ ص ۱۶	۱۸ ج ۳۶۱ " "	لااد شوڈوں
استغناء ص ۲۰	۱۴ ج ۱۳۸ " "	منحبط الخواص
ضمیمہ انجام آختم ص ۹/ج	۱۱ ج ۲۹۳ " "	مردہ پرست
" " ص ۹/ج	۱۱ ج ۲۹۳ " "	مردار
نور الحق ج ۱ ص ۹۲	۸ ج ۱۳۳ " "	مکار
" " ص ۱۶۱	۸ ج ۱۳۳ " "	مخندل
کرامات الصلوٰتین ص ۳	۷ ج ۳۵ " "	ناقص الغم
ست بچن ص ۸	۱۰ ج ۱۴۰ " "	ناحق شناس
" " ص ۹	۱۰ ج ۱۴۱ " "	موٹی سمجھ
ایام الصلح ص ۱۶۶	۴ ج ۳۳۳ " "	مولوی تمام روئے زمین کے انسانوں سے بدتر اور پلید تر
ضمیمہ انجام آختم ص ۲۸/ج	۱۱ ج ۳۱۳ " "	مخالفوں کی ذلت
" "	" " " "	مولویوں کی ذلت
انجام آختم ص ۲۳/ج	۱۱ ج ۲۳۳ " "	مولوی سخت ذلیل

انجام آتھم ۲۲۴	" " ج ۲۲۴	مکذوبوں
تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳	" " ج ۲۲۴	منحوس
تتمہ حقیقۃ الوحی ص ۱۱۵	" " ج ۲۲۴	منفرد
ازالہ خوردج ۲ ص ۹۶	" " ج ۲۲۲	معمولی انسان
آسمانی فیصلہ ص ۱۳	" " ج ۲۲۴	مجتون درندہ
" " ص ۳۱	" " ج ۲۲۱	محبوب مولوی

ن

ایام الصلح ص ۱۱۷	روحانی خزائن ص ۳۵۵ ج ۱۳	تلوان علما
" " ص ۱۶۵	" " ج ۲۱۳	ٹپاک طبع
ضمیمہ انجام آتھم ص ۲۱/ح	" " ص ۳۰۴ ج ۱۱	ٹائل
" " ص ۳۳	" " ص ۳۱۷	ٹا بچھ
" " ص ۵۰	" " ص ۳۳۲	ٹپکار
" " ص ۵۳	" " ص ۳۳۷	ٹادان
" " ص ۶۱	" " ص ۳۳۵	ٹیبیا علماء
انجام آتھم ص ۲۰/ح	" " ص ۲۰ ج ۱۱	تلوان بطلوی
" " ص ۲۴/ح	" " ص ۲۴	ٹلائق
انجام آتھم ص ۲۴/ح	روحانی ص ۲۴ ج ۱۱	نفاق زدہ
" " ص ۴۵	" " ص ۴۵ ج ۱۱	ٹلائق نذیر حسین
آئینہ کلمات اسلام ص ۶۰۰	روحانی خزائن ص ۶۰۰ ج ۵	نیمہ
" " ص ۶	" " ص ۶۸ ج ۵	تک اسلام
نزول المسج ص ۸	" " ص ۸۶ ج ۱۸	نجاست خور
ازالہ اوہام ج ۱ ص ۳	روحانی خزائن ص ۲۰۵ ج ۳	نفسانی مولوی

مقدمہ چشمہ مسیحی ص ب	۲۰ ج ۳۳۵ " "	تاواقف
" " " " ص ۷۵	۲۰ ج ۳۸۹ " "	نادانوں
ضمیمہ انجام آختم ص ۲۳ حاشیہ	" " " " ص ۳۰۸ ج ۱۱	بابکاروں
اشتراک انعامی تین ہزار ص ۵/ح	مجموعہ اشتہارات ص ۶۹ ج ۲	نیم جیسائیہ
تخلیغ رسالت ج ۱ ص ۸۳	" " " " ج ۱۴۵	ناخدا اترس
انوار اسلام ص ۱۶/ح	روحانی خزائن ص ۲۷ ج ۹	نادان ہندو زادہ
ضیاء الحق ص ۳۶	" " " " ص ۲۹۸ ج ۹	نہایت پلید طبع
انجام آختم ص ۲۵	" " " " ص ۳۵ ج ۱۱	باسعادت مند شاگرد محمد حسین
ست بچن ص ۱۹	" " " " ج ۱۳۱ ص ۶۰	ناہینا
آئینہ کلمات اسلام ص ز	" " " " ج ۷۷ ص ۵	نذیر حسین خٹک معلم
ضمیمہ براہین ص ۵ ص ۳۰	" " " " ج ۲۸۵ ص ۲۱	نادان صحابی
ضمیمہ " " " " ص ۵ ص ۱۳۵	" " " " ج ۳۳۳ ص ۲۱	نادان قوم
انوار اسلام ص ۳۸	" " " " ص ۵۰ ج ۹	ناقص العقل چیلوں
ضیاء الحق ص ۲۷	" " " " ج ۲۸۵ ص ۹	نالائق چیلوں
اتمام الحجہ ص ۲۲	روحانی خزائن ص ۳۶ ج ۸	نادان غبی
ضمیمہ انجام آختم ص ۲۳/ح	" " " " ص ۳۰۷ ج ۱۱	نپاک فرقہ
انجام آختم ص ۲	" " " " ص ۲ ج ۱۱	نادان پادریوں
آئینہ کلمات اسلام ص ۳۳	" " " " ص ۳۳ ج ۵	نالائق متعصب

۵-۹

ضمیمہ انجام آختم ص ۵	روحانی خزائن ص ۲۸۹ ج ۱۱	وہ گندے اخبار نویس
" " " " ص ۳۷	" " " " ص ۳۳۱ ج ۱۱	وہ گدھا ہے نہ انسان
" " " " ص ۳۹	" " " " ج ۳۳۳ ص ۱۱	دشمن

۵۰ " " "	" ۳۳۳ " "	وہ بذات
۵۶ " " "	" ۳۳۰ " "	بلان
انجام آختم ص ۵۹/ح	" ۵۹ " "	ہندو زادہ
عجاز احمدی ص ۳۳	" ۱۵۴ ج ۱۹	ہوا و ہوس کا بیٹا
نور الحق ج ۱ ص ۷۲	" ۹۶ ج ۸	داشی
" " ج ۱ ص ۱۰۱	" " ص ۱۳۳ ج ۸	والغیبی المفضل
انوار الاسلام ص ۳۰	" " ص ۳۰ ج ۹	ولد الحرام
اشتار انعامی تین ہزار ص ۱۰	مجموعہ اشتارات ص ۷۷ ج ۲	ہزار لغت کارسہ
انوار الاسلام ص ۲۹	روحانی خزائن ص ۳۱ ج ۹	ولد الحلال نہیں
" " ص ۳۰	" " ص ۳۰ ج ۹	واہ رے شیخ چلی کے
		بڑے بھائی
اشتار انعامی تین ہزار ص ۱۰	مجموعہ اشتارات ص ۷۶ ج ۲	ہٹ دھرم
آئینہ کمالات اسلام ص ۳۳	روحانی خزائن ص ۲۳ ج ۵	بلائیق متعصب
انجام آختم ص ۲۵۱	" " ص ۲۵۱ ج ۱۱	والد جلال ابطال
اشتار انعامی ۳ ہزار ص ۱۰	مجموعہ اشتارات ص ۷۶ ج ۲	آنکھوں کے اندر سے
موہب الرحمن ص ۱۳۱	روحانی خزائن ص ۵۲ ج ۱۹	بچو کرگ
" " ص ۱۳۸	" " ص ۵۹ ج ۱۹	بچو بنتین

ی-ے

ضمیرہ انجام آختم ص ۳	روحانی خزائن ص ۲۸۷ ج ۱۱	یسودی صفت
" " ص ۱۹/ح	" " ص ۳۰۳ " "	یادہ گوہ
انجام آختم ص ۲۳/ح	" " ص ۲۳ " "	یسودی سیرت
شادۃ القرآن ص ۱	" " ص ۳۸۳ ج ۶	یہ شخص منافق

یہ نادان خون پسند	" " " " ۶ ج ۳۸۱	" " " " ۶ ج ۳۸۱
یہ لوگ حیوانات	" " " " ۱۹ ج ۱۳۱	اجاز احمدی ص ۲۲
یہودی	" " " " ۱۱ ج ۳۲۹	ضمیمہ انجام آختم ص ۴۵
یا شیخ انصالت	" " " " ۱۹ ج ۱۸۸	اجاز احمدی ص ۷۶
یک چشم	" " " " ۱۱ ج ۳۰۸	ضمیمہ انجام آختم ص ۲۳/ح
یا جوج باجوج اور	" " " " ۲۳ ج ۸۶	چشمہ معرفت ج ۱ ص ۷۸/ح
دجال بہ یورپین قومیں		
یہ جملاء	روحانی خزائن ص ۳۰۲ ج ۱۱	ضمیمہ انجام آختم ص ۱۸/ح
یہودیت کا خمیر	" " " " ۳۰۵	" " " " ص ۲۱/ح
یہ دل کے مجذوم	" " " "	" " " "
یہ سب مولوی جال	" " " " ۳۱۰	" " " " ص ۲۶
یہ شری	" " " " ۳۳۱	" " " " ص ۵۷
یہ سیاہ دل	" " " " ۳۳۲	" " " " ص ۵۸
یہ جال	" " " "	" " " "
یہ منافق	" " " " ۳۹	انجام آختم ص ۳۹
یا غول البراری!	روحانی ص ۱۵۲ ج ۷	کرامات الصادقین ص ۴ (۴)

مرزا صاحب کی نبوت کی دلیل

مرزا صاحب کی نبوت کی دلیل نہ تو علم ہے اور نہ عقل۔ اور نہ حافظہ اور نہ فہم، اور نہ زہد اور نہ تقویٰ، اور نہ صداقت اور نہ امانت، اور نہ عصمت اور نہ عفت، اور نہ حسب اور نہ نسب، اور نہ اخلاق فاضلہ، اور نہ معجزات اور نہ کرامات، کچھ بھی نہیں سب صفر ہے۔

دلیل صرف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ سبحان اللہ، عجیب

دلیل ہے۔ کیا محض کسی نبی کا فوت ہو جانا کسی مدعی کے نبی ہونے کی دلیل ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے۔ لیکن آپ اپنے نبی ہونے کی مستقل دلیل بیان کیجئے۔ خاتم الانبیاء سے پہلے ایک نبی کی زندگی میں بھی نبی آتے رہے ہیں۔

اگر کسی گاؤں کا دہقان یہ دعویٰ کرے کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور چودھری، اور دلیل یہ بیان کرے کہ چونکہ اس ملک کا بادشاہ مرچکا ہے، اور میں اس فوت شدہ بادشاہ کا مثل ہوں اور شبیہ اور ہم نام ہوں اور میرا گاؤں اسی کے دارالسلطنت کے سمت پر واقع ہے لہذا ثابت ہوا کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ تو کیا اہل عقل کے نزدیک اس طرح سے اس شخص کی بادشاہت ثابت ہو جائے گی؟ اہل عقل کے نزدیک جو شخص اس کی بادشاہت تسلیم کرے گا وہ بھی پاگل اور دیوانہ سمجھا جائے گا۔ اور اگر اس قسم کے چند پاگل مل کر عتلاء کو مناظرہ اور مباہلہ کا چیلنج دیں کہ آؤ ہم اس بادشاہ کی وفات ثابت کریں گے، تاکہ اس وفات سے --- اس مدعی کی بادشاہت ثابت ہو جائے تو عتلاء کو جائز ہے کہ تفریحی طور پر ان احمقوں کی حماقت ظاہر کرنے کے لیے دعوت مناظرہ منظور کر لیں ورنہ مناظرہ فی الحقیقت نظری امور میں ہوتا ہے۔ ایسے بدیہی البطلان امور میں تو مناظرہ نہیں ہوتا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ آریوں کے بادشاہ ہونے کا بھی ہے مگر کسی آریہ کے حلق کے نیچے نہیں اترا۔

جس کا جی چاہے موسیٰ بنے اور جس کا جی چاہے فرعون بنے۔ مگر موسیٰ بنے عمران بننے کے لیے بھی کوئی ظاہری اور مادی سامان چاہیے۔ ورنہ فرعون بے سامان اور نواب بے ملک کہلائے گا۔ اور مرزا صاحب کے پاس نہ کوئی نشان ہے اور نہ کوئی سامان ہے۔ مرزا صاحب اگر موسیٰ تھے تو بتلائیں کہ وہ کونسا فرعون غرق ہوا، اور اگر نوح تھے تو وہ کونسی دنیا غرق ہوئی، اور اگر مسیح تھے تو کونسا مسیح جیسے معجزے دکھلائے۔

مرزا صاحب کا دس لاکھ معجزات کا دعویٰ

آنحضرت ﷺ کے معجزات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اور ہر ہر معجزہ کو علیحدہ علیحدہ سند متصل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مرزا صاحب کے صحابہ و تابعین کو بھی چاہیے کہ مرزا صاحب کے دس لاکھ معجزات پر کوئی کتاب لکھ کر دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ دنیا کو مرزا صاحب کے معجزات کا علم ہو سکے کہ آخر وہ کیا کیا معجزے تھے؟

اب میں اس تحریر کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس تحریر کو قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے موجب ہدایت بنائے۔ آمین ثم آمین۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

حضرت صوفیاء کرام

اور

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ

پر

مرزاٹیوں کا بہتان و افواہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده

اما بعد :- بندۂ ناچیز محمد ادریس کاندھلوی کان اللہ لہ وکان ہو اللہ آمین۔ اہل اسلام کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ مرزائیوں کو اپنی گمراہی اور غلط عقائد کے ثابت کرنے کے لیے کتاب اور سنت اور اقوال صحابہؓ و تابعینؓ اور ائمہ دین اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین اور متکلمین کے کلام میں تو کہیں تل رکھنے کی گنجائش نہیں ملتی، اس لیے یہ گروہ حضرات اولیاء اور عارفین کے ناتمام اقوال قطع و برید کر کے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تاکہ عوام ان حضرات اولیاء کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکیں۔ حالانکہ ان بزرگوں کا صریح عقیدہ جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے، وہ ان کی کتابوں میں مذکور ہوتا ہے اس کو یہ لوگ نقل نہیں کرتے البتہ بزرگوں کے ان مبہم اور مجمل کلام کو نقل کر دیتے ہیں کہ جو ان بزرگوں سے ایک خاص حالت سکر میں نکلا ہے۔ جو بافتاق علماء حجت نہیں۔ جیسا کہ منصور نے ایک خاص یہودی کی حالت میں انا الحق کہہ دیا۔ مگر جب اس حالت سے افاقہ ہوا تو تائب ہوئے، تو کیا کوئی عاقل منصور کے انا الحق کہنے سے یہ استدلال کر سکتا ہے کہ علی اور بروزی الوہیت بندہ کو بھی مل سکتی ہے اور لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے سوا کوئی مستقل خدا نہیں ہو سکتا۔ البتہ علی اور بروزی خدا ہو سکتا ہے۔ حاشا وکلا یہ صریح کفر اور ارتداد ہے۔ اسی طرح ”لانی بعدی“ میں یہ تاویل کرنا کہ حضور ﷺ کے بعد کوئی مستقل نبی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ علی اور بروزی نبی ہو سکتا ہے یہ بھی صریح کفر اور ارتداد ہے۔

اسی سلسلہ میں آج کل مرزائی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کا نام نامی لے رہے ہیں کہ معاذ اللہ مولانا محمد قاسم صاحب بھی خاتم الانبیاء کے بعد نئے نبی کا آنا جائز رکھتے ہیں۔ یہ مولانا پر صریح بہتان اور افتراء ہے۔ اس بارہ میں حضرت مولانا کا تحذیر الناس کے نام سے ایک مختصر رسالہ ہے۔ جو عجیب و غریب حقائق و معارف اور نہایت وقتی اور عیثی علوم پر مشتمل ہے۔ ناظرین تو تصور فہم کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہوئے اور زانہین اور لہرین نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس رسالہ کی ناتمام عبارتیں، ماقبل اور مابعد سے حذف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں۔ جس سے عوام اور سادہ لوح، تردد اور تھیر میں پڑ گئے۔ اس لیے یہ تقاضائے اصلاح یہ ضروری سمجھا کہ مولانا محمد قاسم کے کلام کا خلاصہ سلیس عبارت میں پیش کر دیا جائے۔ تاکہ لوگ غلط فہمی سے محفوظ ہو جائیں۔ فاقول و باللہ التوفیق و بیدہ لزما التحقیق و ہوالہادی الی سواء الطریق۔

خاتمت ایک جنس ہے، جس کی دو قسمیں ہیں ایک زمانی اور دوسری رتبی۔ خاتمت زمانیہ کے معنی یہ ہیں کہ حضور ﷺ سب سے اخیر زمانہ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے بعد مبعوث ہوئے اور اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی مبعوث نہیں ہو گا۔ اور خاتمت رتبیہ کے معنی یہ ہیں کہ نبوت و رسالت کے تمام کمالات اور مراتب حضور ﷺ کی ذات باریکات پر ختم ہیں۔ اور نبوت چونکہ کمالات ملیہ میں سے ہے اس لیے خاتم النبیین کے معنی یہ ہوں گے کہ جو علم کسی بشر کے لیے ممکن ہے، وہ آپ ﷺ پر ختم ہو گیا۔ اور حضور ﷺ پر نور دونوں اعتبار سے خاتم النبیین ہیں۔ زمانہ کے اعتبار سے بھی آپ ﷺ خاتم ہیں۔ اور مراتب نبوت اور کمالات رسالت کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں۔ حضور ﷺ کی خاتمی فقط زمانی نہیں بلکہ زمانی اور رتبی دونوں قسم کی خاتمت حضور ﷺ کو حاصل ہے۔ اس لیے کمال مدح جب ہی ہوگی کہ جب دونوں قسم کی خاتمت ثابت ہو۔ مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی

خاتیت زانیہ قرآن اور حدیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور حضور ﷺ کی خاتیت زانیہ کا منکر ایسا ہی کافر ہے جیسا کہ رکعات نماز کا منکر کافر ہے۔ چنانچہ تہذیب الناس کے ص ۱۰ پر تحریر فرماتے ہیں۔

سواگر اطلاق اور عموم ہے۔ تب تو خاتیت ظاہر ہے۔ ورنہ تسلیم لزوم خاتیت زانیہ بدالات التزامی ضرور ثابت ہے۔ اور ہر تصریحات نبوی مثل انت منی بمنزلہ بارون من موسیٰ الانہ لانبیٰ بعدی لو کما قال۔ جو بظاہر بطرز مذکور اسی لفظ خاتم النسخ سے ماخوذ ہے۔ اس باب میں کافی ہے۔ کیونکہ یہ مضمون درجہ تواتر کو پہنچ چکا ہے۔ پھر اس پر اجماع بھی منعقد ہو گیا۔ گو الفاظ مذکور بسند متواتر منقول نہ ہوں۔ سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر معنوی یہاں ایسا ہی ہو گا۔ جیسا کہ تواتر اعداد رکعات فرائض، وتر وغیرہ، باوجود یکہ الفاظ احادیث مشر تعداد رکعات متواتر نہیں۔ جیسا کہ اس کا منکر کافر ہے۔ ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہو گا۔ انتہی کلام۔

اس عبارت میں اس امر کی صاف تصریح موجود ہے کہ خاتیت زانیہ کا منکر ایسا ہی کافر ہے جیسا کہ تعداد رکعات کا منکر کافر ہے۔

مولانا مرحوم، اس خاتیت زانیہ کے علاوہ حضور ﷺ کے لیے ایک اور معنی کر کے خاتیت ثابت فرماتے ہیں۔ جس سے حضور ﷺ کا تمام اولین اور آخرین سے افضل و اعلم ہونا ثابت ہو جائے وہ یہ کہ حضور ﷺ پر نور کمالات نبوت کے فتی اور خاتم ہیں اور علوم اولین و آخرین کے معدن اور منبع ہیں۔ جس طرح تمام روشنیوں کا سلسلہ آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام علوم اور کمالات کا سلسلہ حضور ﷺ پر ختم ہوتا ہے۔

معاذ اللہ، مولانا مرحوم خاتیت زانیہ کے منکر نہیں بلکہ خاتیت زانیہ کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس خاتیت زانیہ کی فضیلت کے علاوہ خاتیت رتیبہ کی فضیلت بھی حضور ﷺ کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تاکہ حضور ﷺ کی تمام اولین اور آخرین پر فضیلت اور سیادت ثابت ہو اور خاتیت زانیہ اور

رتیہ میں فرق یہ ہے کہ خاتیتِ زمانیہ کے اعتبار سے حضور ﷺ کے بعد کسی نبی کا آنا شرعاً محال اور ناممکن ہے اور خاتیتِ رتیہ کے اعتبار سے بفرض محال اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی مبعوث ہو۔ تو حضور ﷺ کی خاتیتِ رتیہ میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ بہر صورت آپ کمالاتِ نبوت کے ختمی اور خاتم ہیں۔ آفتاب اگر تمام ستاروں سے پہلے طلوع کرے یا درمیان میں طلوع کرے، آفتاب کے منبع نور ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح بفرض اگر حضور ﷺ پر نور تمام انبیاءِ طہم السلام سے پہلے مبعوث ہوتے یا درمیان میں مبعوث ہوتے تو آپ کے منبع کمالات ہونے میں کوئی فرق نہ آتا اور یہ فرض بھی محض احتمالِ عقلی کے درجہ میں ہے۔ ورنہ جس طرح خاتیتِ زمانیہ میں حضور ﷺ کے بعد نبی کا آنا محال ہے اسی طرح خاتیتِ رتیہ میں بھی آپ کے بعد نبی کا آنا محال ہے۔ اس لیے کہ اگر انبیاءِ متاخرین کا دین، دینِ محمدی کے مخالف ہو تو اعلیٰ کا ادنیٰ سے منسوخ ہونا لازم آئے گا۔ جو حق تعالیٰ شانہ کے اس قول۔ مانسوخ من آیتہ لو ننسہات بخیر منها کے خلاف ہے۔ نیز جب علم ممکن للبشر آپ پر ختم ہو چکا۔ تو آپ کے بعد کسی نبی کا مبعوث ہونا بالکل عبث اور بے کار ہو گا۔ حاصل یہ نکلا کہ خاتیتِ رتیہ کے لیے خاتیتِ زمانیہ بھی لازم ہے۔

مولانا مرحوم کے نزدیک اگر حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی مبعوث ہونا شرعاً جائز ہوتا۔ تو لفظ بفرض استعمال نہ فرماتے۔ مولانا کا یہ فرمانا کہ بفرض اگر آپ کے بعد کوئی نبی الخ یہ لفظ بفرض خود اس کے محال ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہے۔ کہ یہ بات محال ہے۔ کسی طرح ممکن نہیں۔ لیکن اگر بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے اس محال کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تب بھی حضور ﷺ کی خاتیتِ رتیہ اور آپ کی افضلیت اور سیادت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ ایسا ہے۔ جیسے حضور ﷺ کا یہ فرمانا کہ لوکان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، تو عمر ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کا مقصود یہ نہیں۔ کہ آپ کے بعد نبی کا آنا ممکن ہے۔ بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ میں

خاتم التسن ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ بفرض محال اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ تو عمرؓ ہوتا۔ اس ارشاد سے حضور ﷺ کی خاتیت اور عمرؓ کی فضیلت ثابت کرنا مقصود ہے۔

اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر ایک چاند نہیں بلکہ ہزار چاند ہوں تب بھی ان سب کا نور آفتاب ہی سے مستفاد ہو گا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقیقتہً "ہزاروں چاند ہیں بلکہ مقصود آفتاب کی فضیلت ثابت کرنا ہے کہ آفتاب تمام انوار اور شعاعوں کا ایسا خاتم اور متناہ ہے کہ اگر بالفرض ہزار چاند بھی ہوں۔ تو ان کا نور بھی اسی سے مستفاد ہو گا۔

اس بالفرض ہزار چاند انہی کے سے آفتاب کی فضیلت دو بالا ہو جائے گی کہ آفتاب فقط اسی موجودہ قمر سے افضل نہیں۔ بلکہ اگر جس قمر کے اور بھی ہزاروں افراد فرض کر لیے جائیں۔ تب بھی آفتاب ان سب سے افضل اور بہتر ہو گا۔ اسی طرح نبی اکرم ﷺ کی تمام افراد نبوت پر فضیلت اور برتری بتلانا مقصود ہے۔ خواہ وہ افراد ذہنی ہوں یا خارجی محقق ہوں یا مقدر ممکن ہوں یا محال۔ اور یہ کہ حضور ﷺ پر نور سلسلہ نبوت کے علی الاطلاق خاتم ہیں زمانا "بھی اور رجتہ" بھی۔

مولانا نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ سرور عالم ﷺ کے بعد نبی کا آنا شرعاً "جائز ہے۔ بلکہ یہی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس امر کو جائز سمجھے کہ حضور ﷺ کے بعد نبی کا آنا شرعاً "ممكن الوقوع ہے۔ وہ کافر ہے اور قطعاً "دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔

چنانچہ مولانا محمد قاسم "مناظرۃ عجیبہ کے ص ۳۹ پر لکھتے ہیں۔ خاتیت زمانیہ اپنا دین و ایمان ہے۔ ناحق کی تہمت کا البتہ کوئی علاج نہیں۔

پھر اسی کتاب کے ص ۱۰۳ پر لکھتے ہیں۔ امتناع بانفیہ میں کے کلام ہے۔ اپنا دین و ایمان ہے۔ کہ بعد رسول اللہ ﷺ کسی اور نبی ہونے کا احتمال نہیں۔ جو اس میں تامل کرے اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ انتہی۔

ناظرین باجمین۔ مولانا محمد قاسمؒ کے ان عبارات اور تصریحات کے بعد خود انصاف کریں کہ کیا مولانا محمد قاسمؒ خاتیت زمانہ کے منکر ہیں۔ حاشا وکلا، وہ تو خاتیت زمانہ کے منکر کو کافر سمجھتے ہیں۔ اس خاتیت زمانہ کے علاوہ حضور ﷺ کے لیے ایک اور خاتیت یعنی خاتیت رتبیہ ثابت کرتے ہیں۔ تاکہ حضور ﷺ کی فضیلت و سیادت خوب واضح اور نمایاں ہو جائے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء و المرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و علینا معہم یا رحمہم الراحمین۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرات صوفیاء کرام اور مسئلہ ختم نبوت

علماء شریعت کی طرح تمام صوفیاء کرام بھی اس پر متفق ہیں کہ نبوت و رسالت خاتم النبیین ﷺ پر ختم ہو گئی اور آپؐ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور پر نورؐ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ مرتد اور دائرۃ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔

شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ

اور یہی شیخ محی الدین ابن عربی کا مسلک ہے کہ نبوت و رسالت بالکل ختم ہو چکی، البتہ نبوت و رسالت کے کچھ کمالات اور اجزاء باقی ہیں کہ جو اولیاء امت کو عطا کیے جاتے ہیں مثلاً کشف اور الہام اور رویائے صادقہ (سچا خواب) اور کرامتیں۔ اس قسم کے کمالات نبوت کے اجزاء ہیں وہ ہنوز باقی ہیں لیکن ان کمالات کی وجہ سے کسی شخص پر نبی کا اطلاق کسی طرح جائز نہیں۔ اور نہ ان کے کشف اور الہام پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایمان فقط کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر ہے۔ نبی کا تو خواب بھی وحی ہے مگر ولی کا خواب اور الہام شرعاً حجت نہیں۔ نبی کے خواب

سے ایک معصوم کا ذبح کرنا اور قتل کرنا بھی جائز ہے۔ مگر ولی کے الہام سے قتل کا جواز تو کیا ثابت ہوتا اس سے استنباب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اس کو اس طرح سمجھو کہ اگر کسی شخص میں کچھ کمالات اور خصالتیں بادشاہ اور وزیر کی سی پائی جائیں تو اس بنا پر وہ شخص بادشاہ اور وزیر نہیں بن سکتا۔ اور اگر کوئی اس بنا پر بادشاہت اور وزارت کا دعویٰ کرے اور اپنے کو وزیر اور بادشاہ کہنے لگے تو فوراً گرفتاری کے احکام جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر کسی شخص میں نبوت کے برائے نام کچھ کمالات پائے جائیں تو اس سے اس شخص کا منصب نبوت پر فائز ہونا لازم نہیں آتا بلکہ اگر کوئی شخص اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ مرد اور اسلام کا باغی سمجھا جائے گا۔ شیخ محی الدین ابن عربی کی صاف صاف تصریحات موجود ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک کسی کو منصب نبوت نہیں مل سکتا اور نہ کسی پر نبی اور رسول کا اطلاق جائز ہے۔ البتہ نبوت کے کچھ کمالات اور اجزاء باقی ہیں مگر کمالات نبوت اور اجزاء رسالت سے متصف ہونا اتصاف بالنبوة کو مستلزم نہیں۔ تفصیل اگر درکار ہو تو مسک الحتام فی ختم النبوة علی سید الانام کی طرف مراجعت کریں۔ (جو اس مجموعہ میں شامل ہے) حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ الثاب ص ۸ میں فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر نے اپنی خاص اصطلاح میں ولایت اور محدثیت کو نبوت غیر تشریحی کے لفظ سے تعبیر کر دیا۔ مگر اس گروہ کو نبی نہیں کہا جاسکتا۔ چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں۔

فان خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرویا جزء من اجزا النبوة فقد بقى للناس فى النبوة هذا وغيره ومع هذا لا يطلق اسم النبوة ولا النبى الا على المشرع خاصة فحجر هذا الاسم لخصوص وصف معين فى النبوة

ترجمہ = رسول اللہ ﷺ نے ہم کو بتلایا کہ خواب (سچا) اجزائے نبوت میں سے ایک جزو ہے تو لوگوں کے واسطے نبوت میں سے یہ جزو (رویہ) وغیرہ باقی رہ گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نبوت کا لفظ اور نبی کا

نام بجز مشرع (امرونی لانے والا) کے اور کسی پر نہیں بولا جاسکتا۔ تو نبوة میں ایک خاص وصف معین کی موجودگی کی وجہ سے اس نام (نبی) کی بندش کر دی گئی۔

(فتوحات ص ۲۴۹۵)

کمن یوحی الیہا فی المبشرات وہی جزء من اجزاء النبوة وان لم یکن صاحب المبشرة نبیا فتفظن لعموم رحمة اللہ فما تطلق النبوة الا لمن اتصف بالمجموع فذالک النبی وتلك النبوة التي حجرت علينا و انقطعت فان من جعلتها التشريع بالوحی الملکی فی التشريع..... وذلك لا یكون الا لنبی خاصہ

ترجمہ = جیسے کسی کی طرف مبشرات کی وحی آئی اور وہ مبشرات اجزائے نبوة میں سے ہیں اگرچہ صاحب مبشر نبی نہیں ہو جاتا۔ پس رحمت الہیہ کے عموم کو سمجھو تو نبوة کا اطلاق اسی پر ہو سکتا ہے جو تمام اجزائے نبوة سے متصف ہو وہی نبی ہے اور وہی نبوة ہے جو منقطع ہو چکی اور ہم سے روک دی گئی۔ کیونکہ نبوة کے اجزاء میں سے تشریح بھی ہے جو وحی ملکی سے ہوتی ہے اور یہ بات صرف نبی کے ساتھ مخصوص ہے۔

شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں

فما بقی للاولیاء الیوم بعد ارتفاع النبوة الا التعریفات وانسدت ابواب الاوامر الالہیہ والنواہی فمن ادعاها بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو مدع شریعة لوحی بہا الیہ سواء وافق بہا شرعنا و خالف

(فتوحات مکیہ ص ۵۱ جلد ۳)

ترجمہ = نبوة اٹھ جانے کے بعد آج اولیاء کے لیے بجز تعریفات کے کچھ باقی نہیں رہا اور اوامر و نواہی کے سب دروازے بند ہو چکے؟ اب جو کوئی محمد رسول اللہ ﷺ کے بعد امر و نہی کا مدعی ہو (جیسے مرزا

صاحب) وہ اپنی طرف وحی شریعت آنے کا مدعی ہے خواہ شریعت ہماری شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔

صوفیائے کرام کے شطحیات

حضرات صوفیاء و کرام کے یہاں ایک خاص باب ہے جس کو شطحیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور خود فتوحات مکہ میں اس کا ایک باب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرات صوفیہ پر کچھ باطنی حالات گزرتے ہیں۔ جو ایک سکر اور بیخودی کی حالت ہوتی ہے اس حالت میں ان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو قواعد شریعت اور کتاب و سنت کے نصوص پر چسپاں نہیں ہوتے۔ جیسے انا الحق اور سبحانی ما اعظم شانی اور جب ہوش میں آتے ہیں تو ایسے کلمات سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔

خود حضرات صوفیاء کی ان شطحیات کے بارہ میں تصریحات موجود ہیں کہ کوئی شخص ہماری ان باتوں پر ہرگز عمل پیرا نہ ہو کہ جو ہم سے ان خاص حالات میں بے اختیار صادر ہوئی ہیں۔ بلکہ جس شخص پر یہ حالات نہ گزرے ہوں اس کو ہماری کتابوں کا مطالعہ بھی جائز نہیں۔ اور یہ بھی تصریح کرتے ہیں کہ ہمارا کشف اور الہام کسی پر حجت نہیں۔ ہمارا کشف صرف ہمارے لیے ہے اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر یہ حکم بذریعہ وحی نازل ہوا ہے۔ خواہ وہ حکم شریعت کے موافق ہو یا مخالف۔ اگر وہ مدعی عاقل بالغ ہے تو قابل گردن زونی ہے اور اگر عاقل بالغ نہیں تو اس سے اعراض کریں گے۔

حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کا وصال ہوا تو فاروق اعظم جیسے شخص کا بیخودی میں یہ حال ہوا کہ تلوار لیکر بیٹھ گئے اور یہ کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صدیق اکبر آئے اور ان کلمات کو سنتے ہوئے گزر گئے۔ اور منبر نبوی پر جا کر خطبہ دیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم انک میت و انہم میتون۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے

خطبہ سے ہماری آنکھیں کھل گئیں اور فاروق اعظمؓ کو بھی اس حالت سے آفاقہ ہو گیا۔

اب قابل غور امر یہ ہے کہ فاروق اعظمؓ کی زبان سے جو کلمات نکلے وہ غلبہ حال میں نکلے حقیقت کے بالکل خلاف تھے۔ مگر چونکہ وہ ایک سکر اور نیمخودی کی حالت تھی اس لیے صحابہؓ نے حضرت عمرؓ کو معذور سمجھ کر سکوت کیا اور کسی قسم کی ملامت نہیں کی اور اتباع صدیق اکبرؓ کا کیا، کیونکہ وہ مغلوب الحال نہ تھے۔

شیخ محی الدین ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبرؓ خلیفہ بلا فصل ہوئے۔ نبی کا خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو حال پر غالب ہو اور جس پر حال غالب آ جائے وہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انبیاء کرامؑ طہیم السلام کبھی مغلوب الحال نہیں ہوتے انبیاء کرامؑ ہمیشہ حال پر غالب رہے ہیں۔ اس لیے حضرات صوفیاءؒ کے اس قسم کے شطیحات شرعاً حجت نہیں اور نہ ان کا اتباع جائز ہے۔ البتہ وہ حضرات معذور ہیں۔ اور ان پر ملامت جائز نہیں۔ جیسے حضرات صحابہؓ نے نہ تو فاروق اعظمؓ کا اس قول میں اتباع کیا اور نہ ان پر کوئی ملامت کی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حضرات صوفیاء کے ان اقوال کا ہرگز اتباع نہ کریں۔ جو ان سے خاص حالات میں بے اختیار نکل گئے ہیں۔ بلکہ ان اقوال کا اتباع کریں جو انہوں نے سلسلہ عقائد کے بیان میں لکھے ہیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و
مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آلہ واصحابہ اجمعین و
علینا معهم بالرحم الرحیم

محمد ادریس کاندھلوی کان اللہ لہ
یوم الجمعة ۱۵ / ذی القعدہ ۱۳۷۱ ہجری
جامعہ اشرفیہ لاہور

1498



الأعلام

بمعنى

الكشف والوعي الأعلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کشف

عالم غیب کی کسی چیز سے پردہ اٹھا کر دکھلا دینے کا نام کشف ہے۔ کشف سے پہلے جو چیز مستور تھی، اب وہ کشف یعنی ظاہر اور آشکارا ہو گئی۔ قاضی محمد اعلیٰ تھانوی "کشاف اصطلاحات الفنون" صفحہ ۱۲۵۴ میں لکھتے ہیں:

"ا کشف عند اهل السلوک هو الکاشفة و مکاشفة رفع حجاب راگویند کہ میاں روح جسمانی است کہ اور اک آں بحواس ظاہری نتواں کرد الخ"

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی صفائی اور نورانیت پر موقوف ہے۔ جس قدر قلب صاف اور منور ہو گا اسی قدر حجابات مرتفع ہوں گے۔ جاننا چاہیے کہ حجابات کا مرتفع ہونا قلب کی نورانیت پر موقوف تو ہے مگر لازم نہیں۔

(احیاء العلوم ص ۱۶ ج ۳)

الہام

کسی خیر اور اچھی بات کا بلا نظر و فکر اور بلا کسی سبب ظاہری کے من جانب اللہ قلب میں القاء ہونے کا نام الہام ہے۔ جو علم بطریق حواس حاصل ہو وہ اور اک حسی ہے اور جو علم بغیر طور حس اور طور عقل، من جانب اللہ بلا کسی سبب کے دل میں ڈالا جائے وہ الہام ہے۔ الہام محض موبت ربانی ہے اور فراست

ایمانی، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے وہ من وجہ کسب ہے اور من وجہ وہب ہیں۔
کشف اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے الہام سے عام ہے لیکن کشف کا
زیادہ تعلق امور حسیہ سے ہے اور الہام کا تعلق امور قلبیہ سے ہے۔

وحی

وحی لغت میں مخفی طور پر کسی چیز کے خبر دینے کا نام ہے خواہ وہ بطریق
اشارہ و کنایہ ہو یا بطریق خواب ہو یا بطریق الہام ہو یا بطریق کلام ہو۔ لیکن اصطلاح
شریعت میں وحی اس کلام الہی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے بذریعہ فرشتہ نبی کو
بھیجا ہو۔ اس کو وحی نبوت بھی کہتے ہیں جو انبیاء طہیم السلام کے ساتھ مخصوص ہے
اور اگر بذریعہ القاء فی القلب ہو تو اس کو وحی الہام کہتے ہیں جو اولیاء پر ہوتی ہے
اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو رویائے صالحہ کہتے ہیں جو عام
مومنین اور صالحین کو ہوتا ہے کشف اور الہام اور رویائے صالحہ پر لفظ "وحی" کا
اطلاق ہو سکتا ہے مگر عرف شرع میں جب لفظ وحی کا بولا جاتا ہے تو اس سے وحی
نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں باعتبار لغت کے شیطانی
وسوسوں پر بھی وحی کا اطلاق آیا ہے۔ کما قال تعالیٰ وان الشیطین لیوحون
الیہ اولیائہم۔ وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیطین الانس والجن یوحی
بعضہم الی بعض زخرف القول غرورا۔ لیکن عرف میں شیطانی وسوسوں پر وحی
کا اطلاق نہیں ہوتا۔

وحی اور الہام میں فرق

وحی نبوت قطعی ہوتی ہے اور معصوم عن الخطاء ہوتی ہے اور امت پر
اس کا اتباع لازم ہوتا ہے اور نبی پر اس کی تبلیغ فرض ہوتی ہے اور الہام ظنی ہوتا
ہے اور معصوم عن الخطاء نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرات انبیاء معصوم عن الخطاء
ہیں اور اولیاء معصوم نہیں۔ اسی وجہ سے الہام دوسروں پر حجت نہیں اور نہ الہام
سے کوئی حکم شرعی ثابت ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ استجاب بھی اللہ سے ثابت نہیں ہو

سک۔

نیز علم احکام شرعیہ بذریعہ وحی انبیاء کرام طہیم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور غیر انبیاء پر جو الہام ہوتا ہے سو وہ از قسم بشارت یا از قسم تنفیم ہوتا ہے احکام پر مشتمل نہیں ہوتا جیسے حضرت مریمؑ کو جو وحی الہام ہوئی وہ از قسم بشارت تھی نہ کہ از قسم احکام، اور بعض مرتبہ وحی الہام کسی حکم شرعی کی تنفیم اور انعام کے لیے ہوتی ہے۔

جو نسبت رویائے صالحہ کو الہام سے ہے وہی نسبت الہام کو وحی نبوت سے ہے۔ یعنی جس طرح رویائے صالحہ الہام سے درجہ میں کمتر ہے اسی طرح الہام درجہ میں وحی نبوت سے فروتر ہے اور جس طرح رویائے صالحہ میں ایک درجہ کا ابہام اور خفا ہوتا ہے اور الہام اس سے زیادہ واضح ہوتا ہے اسی طرح الہام بھی باعتبار وحی کے مخفی اور مبہم ہوتا ہے اور وحی صاف اور واضح ہوتی ہے۔

اور جس طرح رویائے صالحہ میں مراتب اور درجات ہیں جو شخص جس درجہ صالح اور جس درجہ صادق ہے اسی درجہ اس کا رویا بھی صالحہ اور صادق ہو گا۔ اسی طرح الہام میں بھی مراتب ہیں جس درجہ کا ایمان اور جس درجہ کی ولایت ہوگی اسی درجہ کا الہام ہو گا۔ حدیث میں ہے کہ اگر میری امت میں کوئی محدث من اللہ ہے تو وہ عظمیٰ ہے۔ سو جاننا چاہیے کہ یہ تحدیث من اللہ الہام کا ایک خاص مرتبہ ہے جو خواص اولیاء کو حاصل ہوتا ہے جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے اور صدق اور وحی خداوندی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ بلکہ حق جل شانہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ حق کا ظہور اور صدور اسی محدث من اللہ کی زبان سے ہو۔ کما قال تعالیٰ فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام حقیق علیہ الاقول علی اللہ الا الحق یہ تحدیث الہی مرتبہ فاروقیہ ہے اس کے اوپر مرتبہ صدیقیت ہے اور اس کے اوپر مرتبہ نبوت و رسالت ہے۔

وحی رحمانی اور وحی شیطانی میں فرق

اگر واردات قلبیہ کسی امر خیر اور امر آخرت یعنی حق جل شانہ کی اطاعت

کی طرف داعی ہوں تو وحی رحمانی ہے۔ اور اگر دنیاوی شہوتوں اور نفسانی لذتوں کی طرف داعی ہوں۔ تو وہ وحی شیطانی ہے۔

(کذافی خاتم الحکم ص ۱۵۶ و مدارج السالکین ص ۲۷۷ ج ۱)

حضرات صوفیائے کرام کا مطلب

جس طرح حق جل شانہ نے وحی کو معنی لغوی کے اعتبار سے مقسم قرار دے کر اس کے تحت میں وحی نبوت اور الہام اور شیطانی وسوسوں کو داخل فرمایا اور الہام کو معنی لغوی کے اعتبار سے الہام فجور اور الہام تقویٰ کی طرف تقسیم فرمایا فالہمہما فجور ہا و تقواہا اور لفظ ارسال معنی لغوی کے اعتبار سے شیطان لعین کے لیے آیا ہے۔ انا رسلنا الشیطین علی الکفرین۔

اسی طرح حضرات صوفیاء نے نبوت کو بمعنی لغوی لیکر مقسم بنایا۔ یعنی خدا تعالیٰ سے اطلاع پانا اور دوسروں کو اطلاع دینا۔ اس معنی لغوی کو مقسم بنایا اور حضرات انبیاء کی نبوت اور وحی شریعت اور اولیاء کی ولایت اور الہام معرفت کو نبوت بمعنی لغوی کے تحت میں داخل فرمایا۔ اور نبوت کے لیے چونکہ تشریح احکام ضروری ہے اور ولایت میں کوئی حکم شرعی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرات صوفیاء نے نبوت و رسالت کا نام نبوت تشریح رکھا اور ولایت کا نام نبوت غیر تشریحی رکھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شریعت میں نبوت کی دو قسمیں ہیں ایک نبوت تشریحی اور ایک نبوت غیر تشریحی بلکہ نبوت بمعنی لغوی کی دو قسمیں ہیں ایک اصطلاحی نبوت جس کے لیے تشریح احکام لازم ہے اور نبوت بمعنی لغوی کی دوسری قسم ولایت اور الہام ہے جس سے صرف حقائق اور معارف کا انکشاف ہوتا ہے۔ مگر اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہوتا حتیٰ کہ کشف اور الہام سے مستحب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور حضرات صوفیاء نے نہایت واضح طور پر اس کی تصریح کر دی ہے کہ حضور پر نور ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے اور جس قسم کی وحی حضرات انبیاء پر اترتی تھی وہ بالکل مسدود ہو گئی۔ اب نہ

یہ منصب باقی ہے اور نہ کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنے اوپر نبی اور رسول کے لفظ کا اطلاق کرے۔ نبوت بالکل ختم ہو گئی۔ اولیاء کے لیے نبوت میں سے صرف وحی الہام باقی ہے اور حفاظ قرآن کے لیے قرآن باقی ہے۔ حدیث میں ہے:

من حفظ القرآن فقد ادرجت النبوة بین جنبیه
ترجمہ = جس نے قرآن کو حفظ کر لیا تو اس کے دونوں پہلوؤں کے
درمیان نبوت داخل کر دی گئی۔

اور علماء اور خواص امت کو منصب رسالت میں یہ حصہ ملا کہ وہ احکام شریعت کی تبلیغ کریں۔ اور فقہاء اور مجتہدین کو منصب رسالت سے یہ حصہ ملا کہ کتاب و سنت اور شریعت کی روشنی میں اجتہاد و استنباط کریں اور غیر منصوص امور کا حکم اصول شریعت کے ماتحت رہ کر خدا داد نور فہم اور نور تقویٰ سے قرآن اور حدیث سے نکال کر امت کو فتویٰ دیں۔ اس طرح مجتہدین کو تشریح احکام کا ایک حصہ عطا ہوا۔ اور یہ بھی تصریح فرمائی کہ جو شخص آں حضرت ﷺ کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر اللہ کے یہ احکام اور یہ اوامر اور نواہی نازل ہوئے ہیں، وہ مدعی شریعت ہے ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔

تو کیا مرزا صاحب کے نزدیک تمام اولیاء اور علماء اور حفاظ قرآن نبی ہو سکتے ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے؟ حضرات صوفیاء کی اس تحقیق سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اگر اولیاء کو نبوت غیر تشریحہ سے حصہ ملا ہے تو فقہاء اور مجتہدین کو تو نبوت تشریحہ سے حصہ ملا ہے۔ لہذا مرزائیوں کے نزدیک ائمہ اجتہاد تو تشریحی نبی ہونے چاہیں۔

بلکہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ نے نبوت معنی لغوی (یعنی خدا سے خبر پانا اور دینا) کو اس قدر عام فرمایا کہ کسی موجود کو اس سے خالی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ فتوحات کے ایک سو پچیسویں باب میں فرماتے ہیں:

اعلم ان النبوة النبی ہی الاخبار من شی ساریة فی کل موجود عند
اہل الکشف و الوجود لکنہ لا یطلق علی احد منهم اسم نبی ولا

رسول الاعلیٰ الملائکۃ الذی ہم رسول

(کبریٰ احرم ۱۱۸ ج ۱)

ترجمہ = جاننا چاہیے کہ نبوت جس کے معنی لغت میں خبر دینے کے ہیں وہ اہل کشف کے نزدیک تمام موجودات میں سرایت کیے ہوئے ہیں لیکن معنی شرعی کے اعتبار سے نبی اور رسول کا اطلاق بجز فرشتوں کے اور موجودات پر نہیں کیا جائے گا۔

اب دیکھیے کہ اس عبارت میں تمام مخلوقات اور تمام موجودات کے لیے ثابت فرما دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ نبوت بمعنی لغوی یعنی اخبار عن الہی تمام موجودات میں جاری و ساری ہے مگر معنی شرعی کے اعتبار سے کسی پر نبی اور رسول کا اطلاق درست نہیں۔ شد کی کھیوں کے لیے وحی اور ہر نفس کے لیے الہام کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ولوحی ربک الی النحل۔ فالہما فاجورہا و تقوہا معلوم ہوا کہ وحی اور الہام کے فیض سے حیوانات بھی محروم نہیں۔ خداوند ذوالجلال کی وحی اور الہام کی تار برقی ہر ایک مخلوق کے دل میں لگی ہوئی ہے۔

سب سے ربط آشنائی ہے تجھے

دل میں ہر ایک کے رسائی ہے تجھے

اس مسئلہ کی تحقیق اور تفصیل درکار ہو تو بو اور التو اور صفحہ ۶۲۰ تا ۶۳۶

مصنف حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ اور مسک الحتام مصنف تاجز اور اشاب مصنف حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کی مراجعت کریں۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

صوفیاء کے شطیحات

صوفیاء کرام کے یہاں ایک باب ہے جس کو شطیحات کہتے ہیں۔ شطیحات شطی یا شطع کی جمع ہے۔ اصطلاح صوفیاء میں شطع کی تعریف یہ ہے کہ جو بات غلبہ حال اور

غلبہ وارو کی وجہ سے بے اختیار زبان سے نکل جائے اور بظاہر قواعد شریعت کے خلاف معلوم ہوتی ہو اس کو منع کہتے ہیں۔ ایسے شخص پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ دوسروں کو اس کی تقلید جائز ہے۔

خود حضرات صوفیاء نے اس کی تصریح فرمادی ہے کہ ان شطیحات پر کسی کو عمل پیرا ہونا جائز نہیں بلکہ جس شخص پر یہ احوال نہ گزرے ہوں وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ بھی نہ کرے، تاکہ فتنہ میں مبتلا نہ ہو۔

الہام کا حکم شرعی

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی وحی اور الہام کی محبت میں تو کیا کلام ہو سکتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا تو خواب بھی حجت قطعاً ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خواب کی بناء پر بیٹے کے ذبح کا ارادہ فرمایا جس کی حق جل شانہ نے قرآن میں مدح اور توصیف فرمائی۔

البتہ اولیاء اللہ کے الہام میں کلام ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ الہام کا حکم یہ ہے کہ اگر الہام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا جائز ہے واجب نہیں اور جو الہام کتاب و سنت اور شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا بالاجماع جائز نہیں جو الہام قرآن و شریعت کے خلاف ہو وہ الہام رحمانی نہیں بلکہ وہ الہام شیطانی ہے بلکہ الہام کے صادق اور کاذب ہونے کا معیار ہی کتاب و سنت کی موافقت اور مخالفت ہے۔

صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کبھی اپنے الہام پر عمل نہ فرماتے تھے جب تک کہ کتاب و سنت سے اس کی تصدیق و تائید نہ ہو جائے۔

امام غزالیؒ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ابو سلیمان دارانیؒ یہ فرمایا کرتے تھے کہ الہام پر اس وقت تک عمل نہ کرو جب تک آثار سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ فتوح الغیب میں فرماتے ہیں کہ الہام اور کشف پر عمل

کرنا جائز ہے بشرطیکہ وہ قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس صحیح کے مخالف نہ ہو۔

قاضی ثناء اللہ صاحب "ارشاد الطالین" میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا الہام علم ظنی کا موجب ہے اگر کسی ولی کا کشف اور الہام کسی حدیث کے خلاف ہو اگرچہ وہ حدیث خبر آحاد میں سے ہو بلکہ اگر ایسے قیاس صحیح کے بھی خلاف ہو کہ جو شرائط قیاس کو جامع ہو تو اس جگہ بمقابلہ کشف و الہام قیاس کو ترجیح دینی چاہیے اور یہ مسئلہ تمام سلف اور خلف میں متفق علیہ ہے۔ اب مکتوبات حضرت مجدد الف ثانیؒ کی ایک عبارت مع ترجمہ نقل کی جاتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بدلن، لرشدک اللہ تعالیٰ و الہمک سواء الصراط کہ از جملہ ضروریات طریق سلوک اعتقاد صحیح است کہ علمائے اہل سنت آں را از کتاب و سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ اند و کتاب و سنت را محمول داشتن بر معانی کہ جمہور علمائے اہل حق یعنی علمائے اہل سنت و جماعت آں معنی را از کتاب و سنت نفیہ اند نیز ضروری است و اگر بالفرض خلاف آں معانی مفومہ بکشف و الہام امرے ظاہر شود آں را اعتبار نیاید کرد ازاں استعاذہ باید نمود۔ مثلاً آیات و احادیث کہ از ظواہر آںما توحید وجود مفوم می شود ہم پیش احاطہ و سریان و قرب و معیت ذاتیہ مطوم می گرد و چون علمائے اہل حق ازاں آیات و احادیث اس معنی نفیہ اند اگر در اثنائے راہ بر سالک اس معانی منکشف شود و موجود جزیکے نیاید یا اور ابالذات محیط داند و قریب ذاتاً بیاید ہر چند او دریں وقت بواسطہ غلبہ حال سکر معذور است اما باید کہ ہمیشہ تجلی سبحانہ تعالیٰ متجلی و متضرع باشد کہ اور را ازیں درطہ بر آوردہ امورے کہ مطابق آرائے صائبہ علمائے اہل حق است بروے منکشف گرداند و سرموئے خلاف معتقدت حقہ ایشان ظاہر نازو بالجملہ معانی مفوم علمائے اہل حق را مصداق کشف خود باید ساخت و

حکم الہام خود را جزاں نباید داشت چه معانی کہ خلاف مفہومہ ایشان است از چیز اعتبار ساقط است زیرا کہ ہر مبتدع و ضال معتقدات مقتدائے خود را کتاب و سنت می واند و باندازہ افہام ریکہ خود از اں معانی غیر مطابقتہ می فہد یضلل بہ کثیراً^۱ و یہدی بہ کثیراً^۲۔ و آنکہ گفتیم کہ معانی مفہومہ اہل حق معتبر است۔ و خلاف اں معتبر نیست بنا بر آن است کہ اں معانی را از نتیجہ آثار صحابہ و سلف صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اخذ کرہ اند و از انوار نجوم ہدایت ایشان اقتباس فرمودہ اند۔ لہذا نجات ابدی مخصوص با ایشان گشت و فلاح سرمدی نصیب شاں آمد لولیک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون ○ و اگر بعضی از علماء با وجود حقیقت اعتقاد و فرعیات ہدایت نمایند و مرکب تقصیرات باشد در عملیات انکار مطلق علما نمودن و ہمہ را مطعون ساختن انسانی محض است و مکابرہ صرف بلکہ انکار است از اکثر ضروریات دین چہ ناقلاں اں ضروریات ایشانند و ناقدان جیدہ اں را از رویہ ایشانند۔ لولا نور ہدایتہم لما اہتدینالولا تمییز ہم الصواب من الخطاء لغوینا ہم الذین بذلوجہد ہم فی اعلاء کلمۃ الدین القویم و اسلکو اطوائف کثیرة من الناس علی صراط مستقیم فمن تابعہم نجی و من خالفہم ضل و اضل۔

(کتوب دو صد و ہشاد و ششم از جلد اول کتوبات امام ربانی مجدد الف ثانی)

ترجمہ = اے عزیز! جان لے (خدا تجھے سمجھ عطا کرے اور سیدھے راستہ کی ہدایت کرے) کہ طریق سلوک کے ضروری امور میں سے صحیح عقیدہ رکھنا ہے۔ جو علمائے اہل سنت نے قرآن و حدیث اور آثار سلف سے اخذ کیا ہے اور قرآن و حدیث کو انہی معانی پر محمول کرنا بھی ضروری ہے جو علمائے حق یعنی علمائے اہل سنت و جماعت نے قرآن و حدیث سے سمجھے ہیں۔ اور اگر بالفرض ان اہل سنت کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف

کشف و الہام کے ذریعہ کوئی بات ظاہر ہو تو اس کا اعتبار نہ کرنا چاہیے۔ مثلاً وہ آیتیں اور حدیثیں جن کے ظاہری پہلوؤں سے وحدۃ الوجود سمجھ میں آتی ہے یا اسی طرح باری تعالیٰ کا ذاتی لحاظ سے ہر جگہ حاوی و ساری ہونا اور ذاتی قرب و معیت معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ علمائے حق نے ان آیات و احادیث سے یہ معنی نہیں سمجھے ہیں تو اگر راہ سلوک کے دوران میں یہ باتیں منکشف ہوں اور ایک (خدا) کے سوا کسی کو موجود نہ پائے یا خدا کو بالذات محیط سمجھے اور بالذات قریب پائے تو اگرچہ وہ سالک بوجہ سکر کی حالت کے غلبہ کے اس وقت معذور ہے لیکن اسے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس چکر سے نکال کر اہل حق علماء کی درست رائے کے موافق امور اس پر ظاہر فرما دے اور ان سچے عقیدوں کے خلاف بال برابر بھی ظاہر نہ ہونے دے۔ غرض اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کو اپنے کشف کا معیار بنانا چاہیے اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کو اپنے الہام کی کسوٹی نہیں بنانا چاہیے کیونکہ جو معانی اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی کے خلاف ہیں وہ درجہ اعتبار سے گرے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ (یوں تو) ہر مبتدع اور گمراہ اپنے پیشوا کے معتقدات کو قرآن و حدیث سمجھتا ہے اور اپنی ناقص اور پوچ سمجھ کے مطابق قرآن و حدیث سے حقیقت کے خلاف معانی سمجھتا ہے۔ (اور قرآن سے بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت راہ پاتے ہیں) اور یہ جو میں نے کہا کہ اہل حق کے سمجھے ہوئے معانی معتبر ہیں اور اس کے خلاف معتبر نہیں یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ان معانی کو صحابہؓ اور سلف صالحینؓ سے اخذ کیا ہے اور ان کے ستارہ ہدایت سے نور حاصل کیا ہے اسی لیے ابدی نجات اور دائمی فلاح ان کے لیے مخصوص ہو گئی (یہ لوگ ہیں اللہ کی جماعت اور سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے)

اگر بعض علماء باوجود صحیح عقائد جاننے کے جزئیات و فرعیات میں حق کو چھپائیں اور اعمال میں تفسیر کریں تو اس سے مطلقاً تمام علماء کا انکار کرنا

اور سب کو طاعت کرنا کھلی بے انصافی اور ہٹ دھرمی ہے بلکہ یہ چیز دوسرے الفاظ میں اکثر ضروریات دین سے انکار کر دینا ہے کیونکہ ضروریات دین کے روایت کرنے والے اور ان میں کھوٹے کھرے کی تمیز کرنے والے ہی علماء ہیں کہ اگر ان کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاسکتے اور اگر ان کی طرف سے حق و باطل میں تمیز نہ کی جاتی تو ہم بھٹک جاتے۔ یہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی آخری کوشش تک دین کا بول بالا کرنے کے لیے صرف کر دی ہے اور انسانوں کے بہت سے گروہوں کو سیدھے راستہ پر چلایا ہے پس جس نے ان کا اتباع کیا اس نے نجات و فلاح پائی اور جس نے ان کی مخالف کی وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنا۔“

مرزا صاحب کو اپنے الہام پر خود بھی یقین نہ تھا

مرزا صاحب کے الہامات چونکہ القاء شیطانی تھے اس لیے خود مرزا صاحب کو بھی اپنے الہامات پر یقین نہ تھا۔ چنانچہ مرزا صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”میں نے ایک عرصہ تک الہامات کی پیروی نہیں کی جب تک کہ ان الہامات کو قرآن و حدیث کے موافق جانچ نہ لیا۔“

جانچنے کی وجہ یہ تھی کہ مرزا صاحب کو شبہ تھا کہ یہ الہامات خدا کی طرف سے ہیں یا شیطان کی طرف سے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ مرزا صاحب کو یقین تھا کہ یہ الہامات من جانب اللہ نہیں بلکہ ان کے نفس کے من گھڑت ہیں۔ اور قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہیں۔ مگر اندیشہ یہ تھا کہ لوگ اس الہام کو سن کر متوحش ہوں گے۔ اس لیے سوچتے تھے کہ قرآن اور حدیث میں کس طرح تاویل کر کے الہام کو اس کے مطابق بنا دوں۔ وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اٰجْمَعِيْنَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يٰرَحْمَةُ الرَّحْمٰنِيْنَ ط

محمد اور لیس کان اللہ لہ وکان ہو اللہ آمین

كلمة الله

في

حيات رُوح الله

المعروف

حيات عيسى عليه السلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین و العاقبة للمتقین و الصلوٰۃ والسلام
 علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء و المرسلین و علی الہ و اصحابہ
 و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین و علینا معہم یا رحمہم یا رحیم

امابعد

بندۂ گنہ گار امیدوار رحمت پروردگار محمد اور یس کا ندھلوی کان اللہ لہ و
 کان ہو اللہ (آمین) اہل اسلام کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ اس امت مرحومہ
 پر قوم عاد اور ثمود کی طرح عذاب تو نہیں لیکن فتنے ہیں جن سے نکلنے کا راستہ
 سوائے کتاب و سنت کے کچھ نہیں اور کتاب و سنت تک رسائی بدون حضرات صحابہؓ
 و تابعینؓ کے ناممکن ہے۔ اس لیے کہ صحابہؓ اور تابعینؓ ہی کے ذریعے ہم تک
 کتاب و سنت پہنچی۔ نبی اور امت کے درمیان میں صحابہؓ واسطہ ہیں اور ایسا واسطہ
 ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے لہذا قرآن و حدیث کا
 وہی مطلب معتبر ہو گا جو حضرات صحابہؓ اور تابعینؓ نے سمجھا۔ سوائے حضرات انبیاء
 و مرسلینؑ علیہم السلام کے دنیا میں صحابہ کرامؓ جیسا نور علم اور نور فہم اور نور تقویٰ
 نہ اولین میں سے کسی کو میسر آیا اور نہ آخرین میں سے کسی کو حاصل ہوا پس اگر
 صحابہ کرامؓ کی تفسیر اور شرح معتبر نہیں تو پھر کسی کی بھی معتبر نہیں۔ خدا کی قسم! اگر
 ایک صحابیؓ کے نور علم اور نور فہم اور نور تقویٰ کی زکوٰۃ نکالی جائے اور کل عالم پر
 تقسیم کی جائے تو عالم کا ہر فرد علم و فہم کا امیر اور دولت مند بن جائے۔

اس دور پر فتن میں ہر طرف سے دین پر فتنوں کا ہجوم ہے جس میں ایک بہت بڑا فتنہ مرزائیت کا ہے۔ اس فتنہ کا بانی فشی مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اولاً" اس نے اپنے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مثیل مسیح ہونے کا پھر مسیح اور عیسیٰ ہونے کا۔ اور اپنی مسیحیت کی دھن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مدعی بنا اور ان کے رفع الی السماء کو محال قرار دیا اور صداہا اور اوراق اس بارے میں سیاہ کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا کر مدفون ہو چکے۔ اور جو شخص مر کر دفن ہو گیا، وہ قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں واپس نہیں آسکتا اور پھر اس زعم فاسد اور خیال کاسد کی بنا پر ان احادیث میں تحریف کی۔ کہ جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دنیا میں دوبارہ تشریف لانا صراحہ " مذکور ہے۔ ان احادیث صریحہ اور صحیحہ میں یہ تحریف کی کہ نزول مسیح سے مثیل مسیح کا پیدا ہونا مراد ہے۔ اور پھر اس مثیل کا مصداق خود اپنی ذات کو قرار دیا۔ جس کا حاصل یہ نکلا کہ تمام احادیث میں مسیح بن مریم سے وہ مسیح مراد نہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے بلکہ ان کا مثیل اور شبیہ مراد ہے اور نزول سے آسمان سے اترنا مراد نہیں بلکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا مراد ہے اور پھر ولادت سے یہ مراد ہے کہ وہ مثیل مسیح قادیان کے ایک دہقان کی پنجابن عورت کے پیٹ سے پیدا ہو اور بڑا ہو کر عیسائیوں کے اسکول میں تعلیم پائے اور جوان ہو کر عیسائیوں کی دفتری ملازمت کی اور پھر چند روز بعد مریم نسنے اور پھر خود اپنے سے عیسیٰ پیدا ہو جائے۔ خود ہی والد اور خود ہی والدہ اور خود ہی مولود۔ خدا کی قسم اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ کس طرح اس جنون اور دیوانگی پر ایمان لے آتے ہیں۔ ربنا لاترغ قلوبنا بعد اذھدیتنا وھب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوھاب ○

علماء اہل سنت و الجماعت نے رد مرزائیت پر عموماً " اور حیات عیسیٰ علیہ السلام کے موضوع پر خصوصاً " مفصل اور مختصر اور متوسط کتابیں تالیف فرمائیں اور بارگاہ خداوندی سے اجر حاصل کیا۔ جزا ہم اللہ تعالیٰ و عن سائر المسلمین خیر الجزاء آمین۔

۱۳۴۳ھ میں اس ناچیز اور بے بضاعت نے بھی ایک رسالت کلمتہ اللہ فی حیات روح اللہ کے نام سے لکھا تھا جس کو حضرت مخدومنا الحبيب و مطاعنا للیب حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ تعالیٰ بالرحمتہ والفرقان نے اپنے اہتمام سے شائع فرمایا تھا۔ پھر ۱۳۷۰ھ میں دوبارہ نظر ثانی اور اضافات کے ساتھ یہ رسالہ شائع ہوا۔ اب تیسری مرتبہ ۱۳۷۰ھ میں ہمت سے جدید اضافات اور ترمیمات کے ساتھ اہل اسلام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔

حضرت الاستاذ و شیخنا الاکبر مولانا الشاہ السید محمد نور نور اللہ وجہ یوم القیمة و نضر (آمین) صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند جس طرح وہ اپنے زمانہ میں بے مثال تھے اسی طرح انہوں نے اس موضوع پر ایک بے مثال اور لاجواب کتاب عربی زبان میں تالیف فرمائی جس کا نام ”عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام“ تجویز فرمایا۔ جو علماء اور فضلاء کے لیے مشعل راہ اور شمع ہدایت بنی اس ناچیز نے بھی اس کتاب مستطاب کے لطیف مضامین کے وہ اقتباسات جن کو عام اور متوسط الاستعداد طبقہ سمجھ سکے اپنے اس رسالہ میں اضافہ کر دیے ہیں۔

تحذیث بالنعمة

○ واما بنعمته ربک فحدث

ناچیز کا یہ رسالہ پہلی مرتبہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم دیوبند نے مطبع قاسمی میں طبع کرایا۔ جس شب میں اس رسالہ کی لوح کا ورق طبع ہو رہا تھا اس شب میں اس ناچیز نے یہ خواب دیکھا کہ یہ ناچیز دارالعلوم دیوبند کی مسجد میں داخل ہوا۔ دیکھا کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام منبر کے قریب اور محراب امام کے سامنے تشریف فرما ہیں چہرہ مبارک پر عجیب و غریب انوار ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور حضرت کے ساتھ کوئی خادم بھی ہے۔ یہ ناچیز نہایت ادب کے ساتھ دو زانو

سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک قادیانی پکڑ کر لایا گیا اور سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بعد ازاں دو عبائلے گئے۔ ایک نہایت سفید اور خوب صورت ہے اور دوسرا نہایت سیاہ اور بدبودار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ سفید عبا اس ناچیز کو پہنائیں اور سیاہ عبا اس قادیانی کو پہنایا جائے۔ چنانچہ سفید عبا اس ناچیز کو پہنایا گیا فللہ للحمد والمنقہ اور سیاہ عبا اس قادیانی کو۔ اور یہ ناچیز خاموش کھڑا ہے اور قادیانی کو دیکھ کر دل میں یہ آیت پڑھ رہا ہے سرابیلہم من قطران و تغشی وجوہ النار اس کے بعد آکھ کھلی گئی۔

اب میں حق تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار! علماے ربانین کی جوتیوں کے صدقہ اور طفیل میں اس ناچیز کی اس ناچیز خدمت کو بھی قبول فرما، اور اس تالیف کو اہل اسلام کے لیے موجب سیکنت و طمانیت اور قادیانیوں کے لیے موجب ہدایت و سعادت اور اس نابکار گنہ گار کے لیے ذخیرہ آخرت اور موجب نجات و مغفرت فرما۔ آمین یا ارحم الراحمین و یا اکریم الاکرمن۔

ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم و تب علینا انک انت

التواب الرحيم ○

بضاعت نیا وردم الا امیند

خدایا ز عنوم مکن نا امیند

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمہ

در بیان امکان رفع جسمانی

مرزا صاحب اور ان کی جماعت کا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وفات پا کر مدفون ہو چکے اور دلیل یہ ہے کہ کسی جسم عنصری کا آسمان پر جانا محال ہے۔

(ازالۃ الادہام ص ۴۷ ج ۱ تطبیح خور و روحانی خزائن ص ۱۲۶ ج ۳)

جواب

یہ ہے کہ جس طرح نبی اکرم محمد مصطفیٰ ﷺ کا جسد اطہر کے ساتھ لیلۃ المعراج میں جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا حق ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا جسدہ العنصری آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نازل ہونا بھی بلاشبہ حق اور ثابت ہے جس طرح آدم علیہ السلام کا آسمان سے زمین کی طرف ہیبوط ممکن ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کا آسمان سے زمین کی طرف نزول بھی ممکن ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم جعفر بن ابی طالب کا فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑنا صحیح اور قوی حدیثوں سے ثابت ہے اسی وجہ سے ان کو جعفر طیار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔

اخرج الطبرانی باسناد حسن عن عبد اللہ بن جعفر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنیاء لک ابوک یطیر مع الملائکۃ فی السماء

(و کذانی نفع الباری ص ۶۲ ج ۷ زر قانی شرح مواہب ص ۲۷۵ ج ۲)

ترجمہ = امام طبرانی نے باسناد حسن عبد اللہ بیٹے جعفر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک بار یہ ارشاد فرمایا کہ اے جعفر کے بیٹے عبد اللہ تجھ کو مبارک ہو تیرا باپ فرشتوں کے ساتھ آسمانوں میں اڑتا پھرتا ہے (اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جعفر جبرئیل و میکائیل کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے)۔ ان ہاتھوں کے عوض میں جو غزده موتہ میں کٹ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ملائکہ کی طرح ود باز و عطا فرما

دیے ہیں اور اس روایت کی سند نہایت جید اور عمدہ ہے۔

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اس بارے میں ایک شعر ہے:

وجعفر الذی یضحی و یمسی

یطیر مع الملائکة ابن امی

ترجمہ = وہ جعفر کہ جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے وہ میری ہی

ماں کا بیٹا ہے۔

اور علی ہذا عامر بن نفیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ بئر معونہ میں شہید ہونا اور پھر ان کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا روایات میں مذکور ہے جیسا کہ حافظ عسقلانی نے اصابہ میں اور حافظ ابن عبد البر نے استیعاب میں اور علامہ زر قانی نے شرح مواہب ص ۷۸ ج ۲ میں ذکر کیا ہے۔ جبار بن سلمی جو عامر بن نفیرہ کے قاتل تھے وہ اسی واقعہ کو دیکھ کر ضحاک بن سفیان کلابی کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور یہ کہا:

دعانی الی الاسلام مارایت من مقتل عامر بن فہیرة ورفعه الی

السماء

ترجمہ = عامر بن نفیرہ کا شہید ہونا اور ان کا آسمان پر اٹھایا جانا میرے

اسلام لانے کا باعث بنا۔

ضحاک نے یہ تمام واقعہ آں حضرت ﷺ کی خدمت بابرکت میں لکھ کر بھیجا۔ اس پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

فان الملائکة ولرت جنته وانزل فی علیین

ترجمہ = فرشتوں نے اس کے جش کو چھپا لیا اور وہ طین میں اتارے گئے۔

ضحاک ابن سفیان کے اس تمام واقعہ کو امام بیہقی اور ابو نعیم اصفہانی دونوں نے اپنی اپنی دلائل النبوة میں بیان کیا۔

(شرح الصدور فی احوال الموتی و القبور للطائفة السیوطی ص ۱۷۳)

اور حافظ عسقلانی نے اسبابہ میں جبار بن سلمیٰ کے تذکرہ میں اس واقعہ کی طرف اجمالاً اشارہ فرمایا ہے۔

شیخ جلال الدین سیوطی شرح الصدور میں فرماتے ہیں کہ عامر بن فییرہ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے واقعہ کو ابن سعد اور حاکم اور موسیٰ بن عقبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ غرض یہ کہ یہ واقعہ متعدد اسانید اور مختلف روایات سے ثابت اور محقق ہے۔

واقعہ رجیع میں جب قریش نے خییب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا تو اس حضرت ﷺ نے عمرو بن امیہ زمریؓ کو خییبؓ کی نعش اتار لانے کے لیے روانہ فرمایا۔ عمرو بن امیہ وہاں پہنچے اور خییب کی نعش کو اتار اذیتھ ایک دھماکا سنائی دیا۔ پیچھے پھر کر دیکھا اتنی دیر میں نعش غائب ہو گئی۔ عمرو بن امیہ فرماتے ہیں گویا زمین نے ان کو نگل لیا۔ اب تک اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس روایت کو امام ابن حنبلؒ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔

(زرقاتی شرح مواہب ص ۴۳ ج ۲)

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ خییبؓ کو زمین نے لگایا اسی وجہ سے ان کا لقب بلج الارض ہو گیا۔ اور ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ عامر بن فییرہ کی طرح خییبؓ کو بھی فرشتے آسمان پر اٹھالے گئے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ جس طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے عامر بن فییرہؓ اور خییب بن عدیؓ اور علاء بن حضرمیؓ کو آسمان پر اٹھایا۔ افسوس۔

علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اولیاء کا الہام و کرامت انبیاء کرام کی وحی اور معجزات کی دراشت ہے۔

ومما یقویٰ قصۃ الرفع الی السماء ما اخرجہ النسائی والبیہقی والطبرانی وغیرہم من حدیث جابر بن طلحۃ اصیبت اناملہ یوم احد فقال حس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت بسم

اللہ لرفعتک الملائکة والناس ینظرون الیک حتی تلج بک فی
جو السماء

واخرج ابن ابی الدنیا فی ذکر الموتی عن زید بن اسلم قال کان
فی بنی اسرائیل رجل قد اعتزل الناس فی کھف جبل وکان اھل
زمانہ اذا قحطوا استغاثوا بہ فدعی اللہ فسقامھم فمات فاخذ وافی
جھازہ فبیناھم كذلك اذاھم بسریرر رفرر فی عنان السماء
حتی اتھمی الیہ فقام رجل فاخذہ فوضعه علی السریرر والناس
لینظرون الیہ فی الھواء حتی غاب عنھم

(شرح الصدور ص ۱۷۳)

ترجمہ = شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ عامر بن فیرہ اور خیب
رضی اللہ تعالیٰ عنھما کے واقعہ رفع الی السماء کی وہ واقعہ بھی تائید کرتا ہے
جس کو نسائی اور بیہقی اور طبرانی نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنھما سے
روایت کیا ہے کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں تو
اس تکلیف کی حالت میں زبان سے ”حس“ یہ لفظ نکلا۔ اس پر آنحضرت
ﷺ نے فرمایا کہ اگر تو بجائے ”حس“ کے بسم اللہ کہتا تو لوگ
دیکھتے ہوئے ہوتے اور فرشتے تجھ کو اٹھا کر لے جاتے یہاں تک کہ تجھ کو
آسمان میں لے کر گھس جاتے۔ ابن ابی الدنیا نے ذکر الموتی میں زید بن
اسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ جو پہاڑ میں
رہتا تھا جب قحط ہوتا تو لوگ اس سے بارش کی دعا کراتے وہ دعا کرتا اللہ
تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے باران رحمت نازل فرماتا۔ اس عابد کا
انتقال ہو گیا۔ لوگ اس کی تجمیزد مخمنین میں مشغول تھے اچانک ایک تخت
آسمان سے اترتا ہوا نظر آیا جہاں تک کہ اس عابد کے قریب آکر رکھا
گیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر اس عابد کو اس تخت پر رکھ دیا۔ اس
کے بعد وہ تخت اوپر اٹھا گیا، لوگ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ غائب ہو

گیا۔

اور حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جنازہ کا آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے زمین پر اتر آنا متدرک حاکم میں مفصل مذکور ہے۔

(متدرک ص ۵۷۹ ج ۲)

مقدمہ ان واقعات کے نقل کرنے سے یہ ہے کہ منکرین اور ملحدین خوب سمجھ لیں کہ حق جل شانہ نے اپنے محبوبین اور مخلصین کی اس خاص طریقہ سے بارہا تائید فرمائی کہ ان کو صحیح و سالم فرشتوں سے آسمانوں پر اٹھوایا اور دشمن دیکھتے ہی رہ گئے۔ تاکہ اس کی قدرت کاملہ کا ایک نشان اور کرشمہ ظاہر ہو اور اس کے نیک بندوں کی کرامت اور منکرین معجزات و کرامات کی رسوائی و ذلت آشکارا ہو۔ اور اس قسم کے خوارق کا ظہور مومنین اور مصدقین کے لیے موجب طمانیت اور مکذبین کے لیے اتمام حجت کا کام دے۔

ان واقعات سے یہ امر بھی بخوبی ثابت ہو گیا کہ کسی جسم غضری کا آسمان پر اٹھایا جانا نہ قانون قدرت کے خلاف ہے نہ سنت اللہ کے متصادم ہے بلکہ ایسی حالت میں سنت اللہ یہی ہے کہ اپنے خاص بندوں کو آسمان پر اٹھایا جائے تاکہ اس ملیک مقدر کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو اور لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ کی اپنے خاص الخاص بندوں کے ساتھ یہی سنت ہے کہ ایسے وقت میں ان کو آسمان پر اٹھالیتا ہے۔ غرض یہ کہ کسی جسم غضری کا آسمان پر اٹھایا جانا قطعاً محال نہیں بلکہ ممکن اور واقع ہے اور اسی طرح کسی جسم غضری کا بغیر کھائے اور پئے زندگی بسر کرنا بھی محال نہیں۔ اصحاب کف کا تین سو سال تک بغیر کھانے پئے زندہ رہنا قرآن کریم میں مذکور ہے ولبشوافی کھفہم ثلث مائتہ سینین وازدادو تسعا اس سے مرزا صاحب کا یہ دوسرہ بھی زائل ہو گیا کہ جو محض اسی یا نوے سال کو پہنچ جاتا ہے وہ محض نادان ہو جاتا ہے کما قال تعالیٰ و منکم من یردالی لردل العمر لکیلا بعد علم شیا اس لیے کہ ارذل العمر کی تفسیر میں اسی یا نوے سال کی قید

مرزا صاحب نے اپنی طرف سے لگائی ہے قرآن و حدیث میں کہیں قید نہیں۔ اصحاب کف تین سو سال تک کہیں نادان نہیں ہو گئے۔ اور علی ہذا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام صد ہا سال زندہ رہے اور ظاہر ہے کہ نبی کے علم اور عقل کا زائل ہونا ناممکن اور محال ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال ظاہر ہو گا تو شدید قحط ہو گا اور اہل ایمان کو کھانا میسر نہ آئے گا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت اہل ایمان کا کیا حال ہو گا؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یجزئہم ما یجزی السماء من التسبیح و التقدیس یعنی اس وقت اہل ایمان کو فرشتوں کی طرح تسبیح و تقدیس ہی غذا کا کام دے گی۔

اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ کئی کئی دن کا صوم وصال رکھتے اور یہ فرماتے ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی تم میں کون شخص میری مثل ہے کہ جو صوم وصال میں میری برابری کرے۔ میرا پروردگار مجھے غیب سے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے یہ نبی طعام میری غذا ہے معلوم ہوا کہ طعام و شراب عام ہے خواہ حسی ہو یا نبی ہو۔ لہذا وما جعلنہم جسدا لا یاکلون الطعام سے یہ استدلال کرنا کہ جسم عنصری کا بغیر طعام و شراب کے زندہ رہنا ناممکن ہے غلط ہے۔ اس لیے کہ طعام و شراب عام ہے کہ خواہ حسی ہو یا معنوی۔ حضرت آدم علیہ السلام اکل شجرہ سے پہلے جنت میں ملائکہ کی طرح زندگی بسر فرماتے تھے۔ تسبیح و تہلیل ہی ان کا ذکر تھا۔ پس کیا حضرت مسیح جو کہ نوحہ جبرئیل سے پیدا ہونے کی وجہ سے جبرئیل امین کی طرح تسبیح و تہلیل سے زندگی بسر نہیں فرما سکتے کما قال تعالیٰ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم کیا اصحاب کف کا تین سو نو سال تک بغیر کھائے اور پئے زندہ رہنا اور حضرت یونس علیہ السلام کا شکم ماہی میں بغیر کھائے پئے زندہ رہنا قرآن کریم میں صراحتاً "مذکور نہیں؟ اور حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد فلولا انہ کان من المسبحین للبت فی بطنہ الی یوم یبعثون ○ اس پر صاف دلالت کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام اگر سبحین

میں سے نہ ہوتے تو اسی طرح قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے۔ اور بغیر کھائے اور پئے زندہ رہتے۔

رہا طہرین کا یہ سوال کہ زمین سے لے کر آسمان تک کی طویل مسافت کا چند لمحوں میں طے کر لینا کیسے ممکن ہے؟

سو جواب یہ ہے کہ حکمائے جدید لکھتے ہیں کہ نور ایک منٹ میں ایک کروڑ بیس لاکھ میل کی مسافت طے کرتا ہے۔ بجلی ایک منٹ میں پانچ سو مرتبہ زمین کے گرد گھوم سکتی ہے۔ اور بعض ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھ اسی ہزار میل حرکت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں انسان جس وقت نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو حرکت شعاعی اس قدر سریع ہوتی ہے کہ ایک ہی آن میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے اگر یہ آسمان حائل نہ ہوتا تو اور دور تک وصول ممکن تھا۔ نیز جس وقت آفتاب طلوع کرتا ہے تو نور شمس ایک ہی آن میں تمام کرۂ ارضی پر پھیل جاتا ہے حالانکہ سطح ارضی ۲۰۳۶۳۶۳۶ فرخ ہے جیسا کہ سچ شداد ص ۴۰ پر مذکور ہے اور ایک فرخ تین میل کا ہوتا ہے لہذا مجموعہ ۶۱۰۹۰۹۰۸ کروڑ میل ہوا۔ حکمائے قدیم کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں جرم شمس بتامہ طلوع کرتا ہے اتنی دیر میں فلک اعظم کی حرکت ۵۱۹۶۰۰ لاکھ فرخ ہوتی ہے اور ہر فرخ چونکہ تین میل کا ہوتا ہے لہذا مجموعہ مسافت ۱۵۵۸۸۰۰ لاکھ میل ہوئی۔ نیز شیاطین اور جنات کا شرق سے لے کر غرب تک آن واحد میں اس قدر طویل مسافت کا طے کر لینا ممکن ہے تو کیا خداوند عالم اور قادر مطلق کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ کسی خاص بندے کو چند لمحوں میں اس قدر طویل مسافت طے کرا دے۔ آصف بن برخیا کا مینوں کی مسافت سے بقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے حاضر کر دینا قرآن کریم میں مصرع ہے . کما قال تعالیٰ و قال الذی عنده علم من الکتب اننا اتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما راہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا مسخر ہونا بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ وہ ہوا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں چاہے اڑا کر لے جاتی اور مینوں کی مسافت

گھنٹوں میں طے کرتی کما قال تعالیٰ و مسخر ناله الريح تجرى بامرہ۔
 آج کل کے طہرین فی گھنٹہ تین سو میل کی مسافت طے کرنے والے ہوائی
 جہاز پر تو ایمان لے آئے ہیں مگر نہ معلوم سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بھی ایمان
 لاتے ہیں یا نہیں۔ ہوائی جہاز بندہ کی بنائی ہوئی مشین سے اڑتا ہے اور سلیمانؑ کے
 تخت کو ہوا بھکم خداوندی اڑا کر لے جاتی تھی کسی بندہ کے عمل اور صنعت کو اس
 میں دخل نہ تھا اس لیے وہ معجزہ تھا اور ہوائی جہاز معجزہ نہیں۔

(مرزا صاحب ازائد الادہام ص ۷۷ ج ۱ روحانی خزائن ص ۱۲۶ ج ۳)

”پر لکھتے ہیں کہ کسی جسدِ عضری کا آسمان پر جانا سراسر محال ہے۔ اس لیے
 کہ ایک جسمِ عضری طبقہ ناریہ اور کہ زمریہ سے کس طرح صحیح و سالم گزر سکتا
 ہے“

جواب یہ ہے کہ جس طرح نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایلاتہ المہراج
 میں اور ملائکتہ اللہ کا لیل و نهار طبقہ ناریہ اور کہ زمریہ سے مرور عبور ممکن ہے
 اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی عبور و مرور ممکن ہے اور جس راہ
 سے حضرت آدم علیہ السلام کا ہیوط اور نزول ہوا ہے اسی راہ سے حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام کا ہیوط و نزول بھی ممکن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے مادہ کا
 نازل ہونا قرآن کریم میں صراحتاً ”مذکور ہے کما قال تعالیٰ اذ قال الحولویون
 یعیسیٰ بن مریم هل یتسطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء (الی
 قوله تعالیٰ) قال عیسیٰ بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
 نکون لنا عید الا ولنا اخرنا وایۃ منک ولوزقنا وانت خیر الرزقین“ قال
 اللہ انہی منزلہا علیکم پس اس مادہ کا نزول بھی طبقہ ناریہ میں ہو کر ہوا ہے۔
 مرزا صاحب کے زعمِ قاسد اور خیالِ باطل کی بنا پر اگر وہ نازل ہوا ہو گا تو طبقہ ناریہ
 کی حرارت اور گرمی سے جل کر خاکستر ہو گیا ہو گا۔ نوحو باللہ من ہذہ الخرافات یہ
 سب شیاطین الانس کے دوسے ہیں اور انبیاء و مرسلین کی آیات نبوت اور کرامات
 رسالت پر ایمان نہ لانے کے بہانے ہیں۔ کیا خداوند ذوالجلال عیسیٰ علیہ السلام کے

لیے طبقہ تاریہ کو ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح برد اور سلام نہیں بنا سکتا؟
جب کہ اس کی شان یہ ہے:

انما امره اذ اراد شيا ان يقول له كن فيكون فسبحان ذي الملك
الملکوت والعزة الجبروت امننت بالله وکفرت بالطاغوت

حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی

پہلی دلیل

قال اللہ عزوجل

فبما نقضهم ميثاقهم وکفرهم بايت الله و قتلهم الانبياء بغير
حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بکفرهم فلا يومنون! الا
قليلاً ○ وکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظيما و قولهم انا قتلنا
المسيح عيسى بن مریم رسول الله و ماقتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم و
ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ؕ لهم به من علم الا اتباع الظن و ماقتلوه
يقينا" بل رفعه الله اليه و كان الله عزيزا حكيما ○

رابط

حق جل شانہ نے ان آیات شریفہ میں یہود بے بہود کے ملعون اور
مغضوب اور مطرود و مردود ہونے کے کچھ وجوہ و اسباب ذکر کیے ہیں۔
چنانچہ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے یہود کو متعدد وجوہ کی بنا پر مردود و لعنت و
غضب بنایا۔ (۱) نقض عہد اور ميثاق کی وجہ سے (۲) اور آیات الہیہ اور احکام
خداوندیہ کی تکذیب اور انکار کی وجہ سے (۳) اور خدا کے پیغمبروں کو بے وجہ
مغضب و عائد اور دشمنی کی بنا پر قتل کرنے کی وجہ سے (۴) اور اس قسم کے متکبرانہ

کلمات کی وجہ سے کہ مثلاً ہمارے قلوب علم اور حکمت کے طرف ہیں ہمیں تمہاری ہدایت اور ارشاد کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ ان کے قلوب علم اور حکمت اور رشد و ہدایت سے بالکل خالی ہیں بلکہ اللہ نے ان کے عناد اور تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جس کی وجہ سے قلوب میں جمالت اور ضلالت بند ہے اوپر سے مہر لگی ہوئی ہے اندر کا کفر باہر نہیں آسکتا اور باہر سے کوئی رشد اور ہدایت کا اثر اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ پس اس گروہ میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں مگر کوئی شاذ و نادر جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے رفقاء (۵) اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر و عداوت کی وجہ سے (۶) اور حضرت مریم پر عظیم بہتان لگانے کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اہانت اور تکذیب کو بھی مستلزم ہے۔ اہانت تو اس لیے کہ کسی کی ماں کو زانیہ اور بدکار کہنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص ولد الزنا ہے اور العیاذ باللہ نبی کے حق میں ایسا تصور بھی بدترین کفر ہے۔ اور تکذیب اس طرح لازم آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے حضرت مریم کی برات اور نزاہت ظاہر ہو چکی ہے اور سمت لگانا برات اور نزاہت کا صاف انکار کرنا ہے۔ (۷) اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ جو بطور تفاخر کہتے تھے کہ ہم نے مسیح بن مریم جو رسول اللہ ہونے کے مدعی تھے ان کو قتل کر ڈالا۔ نبی کا قتل کرنا بھی کفر ہے بلکہ ارادہ قتل بھی کفر ہے اور پھر اس قتل پر فخر کرنا یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے اور حالاں کہ ان کا یہ قول کہ ہم نے مسیح بن مریم کو قتل کر ڈالا بالکل غلط ہے ان لوگوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا لیکن ان کو ایشیاء ہو گیا اور جو لوگ حضرت مسیح کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ سب شک اور تردید میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی صحیح علم اور صحیح معرفت نہیں سوائے گمان کی پیروی کے کچھ بھی نہیں۔ خوب سمجھ لیں کہ یہ امر قطعی اور یقینی ہے کہ حضرت مسیح کو کسی نے قتل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا اور ایک اور شخص کو حضرت عیسیٰ کا شبیہ اور ہم شکل بنا دیا اور حضرت عیسیٰ سمجھ کر اسی کو قتل کیا اور صلیب پر چڑھایا اور اسی وجہ سے یہود کو ایشیاء ہوا اور پھر اس

اشباہ کی وجہ سے اختلاف ہوا اور یہ سب اللہ کی قدرت اور حکمت سے کوئی بعید نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غالب اور حکمت والے ہیں کہ اپنی قدرت اور حکمت سے اپنے نبی کو دشمنوں سے بچالیا اور زندہ آسمان پر اٹھایا اور ان کی جگہ ایک شخص کو ان کے ہم شکل بنا کر قتل کرایا اور تمام قاتلین کو قیامت تک اشباہ اور اختلاف میں ڈال دیا۔

تفصیل

امید واثق ہے کہ ناظرین اس اجمالی تفسیر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیات شریفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمی میں نص صریح ہیں۔ اب ہم کسی قدر تفصیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ طالبان حق کی بفضل خدا پوری تفسی اور تسلی ہو جائے ورنہ ہم کیا اور ہماری مجال کیا، اور ہم کیا اور ہماری تحریر کیا کہ جس سے تسلی اور تفسی کر سکیں لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ قلوب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں جس طرح چاہے اور جدھر چاہے دلوں کو پلٹتا اور پھیرتا ہے۔ اسی کی توفیق سے لکھ رہا ہوں اور اسی کی توفیق سے اپنے لیے اور ناظرین کرام کے لیے اسی کی توفیق اور دست گیری کی امید رکھتا ہوں اور اسی کی اعانت اور تائید سے ناظرین اور قارئین کی تعلیم و تفہیم کے لیے چند امور ذکر کرتا ہوں۔

(۱)

ان آیات میں یود بے بہود پر لعنت کے اسباب کو ذکر فرمایا ہے۔ ان میں ایک سبب یہ ہے وقولہم علیٰ مریم بہتانا عظیم یعنی حضرت مریم پر طوفان اور بہتان لگانا۔ اس طوفان اور بہتان عظیم میں مرزا صاحب کا قدم یود سے کہیں آگے ہے۔ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں حضرت مریم پر جو بہتان کا طوفان برپا کیا ہے یود کی کتابوں میں اس کا چالیسواں حصہ بھی نہ ملے گا۔ مرزا صاحب کی عبارتیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں عیاں را چہ بیان ہم سے تو مرزا صاحب کی وہ عبارتیں پڑھی بھی نہیں جاتیں اور مرزائیوں کو تو قرآن کی طرح یاد

ہیں بلکہ کچھ اس سے بھی بڑھ کر، اس لیے ان کے نقل کی ضرورت نہیں۔

(۲)

آیات کا سیاق و سباق بلکہ سارا قرآن روز روشن کی طرح اس امر کی شہادت دے رہا ہے کہ یہود بے بہود کی ملعونیت اور مفضوبیت کا اصل سبب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عداوت اور دشمنی ہے۔ مرزا صاحب اور مرزائی جماعت کی زبان اور قلم سے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بغض اور عداوت کا جو منظر دینا نے دیکھا ہے وہ یہود کے وہم و گمان سے بالا اور برتر ہے۔ مرزا صاحب کے لفظ لفظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی ٹپکتی ہے۔

قد بدلت البغضاء من افواہم و ماتخفی صدور ہم اکبر ط

ترجمہ = انتہائی بغض اور عداوت خود بخود ان کے منہ سے ظاہر ہو رہی ہے اور جو عداوت ان کے سینوں میں مخفی اور پوشیدہ ہے وہ تمہارے خواب و خیال سے بھی کہیں زیادہ ہے۔

مرزا صاحب نے نصاریٰ کے الزام کے بہانہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اپنے دل کی عداوت دل کھول کر نکالی جس کے تصور سے بھی کلیجہ شق ہوتا ہے۔

(۳)

پہلی آیت میں وقتلہم الانبیاء بغیر حق فرمایا۔ یعنی انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ملعون اور مفضوب ہوئے اور اس آیت میں وقولہم انا قتلنا المسیح فرمایا۔ یعنی اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح کو قتل کر ڈالا۔ معلوم ہوا کہ محض قول ہی قول ہے اور قتل کا محض زبانی دعویٰ ہے۔ اگر دیگر انبیاء کی طرح حضرت مسیح واقع میں مقتول ہوئے تھے تو جس طرح پہلی آیت میں وقتلہم الانبیاء فرمایا تھا اسی طرح اس آیت میں وقتلہم و صلبہم المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ فرماتے۔ پہلی آیت میں لعنت کا سبب قتل انبیاء ذکر فرمایا اور دوسری

آیت میں لعنت کا یہ سبب ان کا ایک قول بتلایا۔ یعنی ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر ڈالا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص یہ کہے کہ مسیح بن مریم مقتول اور مصلوب ہوئے وہ شخص بلاشبہ ملعون اور مغضوب ہے۔ نیز اس آیت میں حضرت مسیح کے دعویٰ قتل کو بیان کر کے بل رفعہ اللہ فرمایا اور انبیاء سابقین کے قتل کو بیان کر کے بل رفعہم اللہ نہیں فرمایا۔ حالانکہ قتل کے بعد ان کی ارواح طیبہ آسمان پر اٹھالی گئیں۔

(۴)

اس مقام پر حق جل شانہ نے دو لفظ استعمال فرمائے۔ ایک ماقتلوه جس میں قتل کی نفی فرمائی۔ دوسرا وماصلبوه جس میں صلیب پر چڑھائے جانے کی نفی فرمائی۔ اس لیے کہ اگر فقط وماقتلوه فرماتے تو یہ احتمال رہ جاتا کہ ممکن ہے قتل نہ کیے گئے ہوں لیکن صلیب پر چڑھائے گئے ہوں۔ اور علیٰ ہذا اگر فقط وماصلبوه فرماتے تو یہ احتمال رہ جاتا کہ ممکن ہے صلیب تو نہ دیے گئے ہوں لیکن قتل کر دیے گئے ہوں۔ علاوہ ازیں بعض مرتبہ یہود ایسا بھی کرتے تھے کہ اول قتل کرتے اور پھر صلیب پر چڑھاتے۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے قتل اور صلیب کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا اور پھر ایک حرف نفی پر اکتفا نہ فرمایا یعنی وماقتلوه واصلبوه نہیں فرمایا ہے ایک حرف نفی یعنی کلمہ ”ما“ کو قتلوا اور صلبوا کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا اور پھر ماقتلوه اور پھر ماصلبوه فرمایا کہ ہر ایک کی نفی اور ہر ایک کا جداگانہ مستقلاً رد ہو جائے اور خوب واضح ہو جائے کہ ہلاکت کی کوئی صورت ہی پیش نہیں آئی نہ مقتول ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے اور نہ قتل کر کے صلیب پر لٹکائے گئے۔ دشمنوں نے ایزی چوٹی کا سارا زور ختم کر دیا مگر سب بے کار گیا۔ قادر توانا جس کو بچانا چاہے اسے کون ہلاک کر سکتا ہے۔

کہ زور آورد گر تو یاری وہی
کہ گیرد چو تو رشتگاری وہی

مرزائی جماعت کا یہ خیال ہے کہ اس آیت میں مطلق قتل اور صلب کی نفی مراد نہیں بلکہ ذلت اور لعنت کی موت کی نفی مراد ہے۔

جواب یہ ہے کہ یہ محض دوسرے شیطانی ہے جس پر کوئی دلیل نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ یہود کے خیال کی تردید ہے تو تب بھی آیت میں یہود کا پورا رد ہے۔ اس لیے کہ یہود کا گمان یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ جھوٹے نبی ہیں اور جھوٹا نبی ضرور قتل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ وہ قتل بھی نہیں کیے گئے اور نہ صلیب پر چڑھائے گئے اس لیے کہ وہ خدا کے سچے نبی تھے۔ علاوہ ازیں اگر یہود کے اس عزم کی رعایت کی جائے تو وقتلہم الانبیاء بغیر حق اور یقتلون النبیین کے یہ معنی ہونے چاہیں کہ معاذ اللہ وہ انبیاء ذلت اور لعنت کی موت مرے۔

کبرت کلمۃ تخرج من افواہم ان یقولون الا کذباً ○

(۵)

ولکن شبہلہم

یعنی ان کے لیے اشبہا پیدا کر دیا گیا یا شبہ کی ضمیر حضرت مسیح کی طرف راجع کرو اور اس طرح ترجمہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شبہ اور ہم شکل ان کے سامنے کر دیا گیا تاکہ عیسیٰ سمجھ کر اس کو قتل کریں اور ہمیشہ کے لیے اشبہا اور التباس میں پڑ جائیں۔ حضرت شاہ عبدالقادرؒ اس طرح ترجمہ فرماتے ہیں لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے۔ یہ ترجمہ اسی اشبہا کی تفسیر ہے یعنی اس صورت سے وہ اشبہا اور التباس میں پڑ گئے۔

ابن عباسؓ سے باسناد صحیح منقول ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح کے قتل کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کو مکان کے ایک درپچہ سے آسمان پر اٹھالیا اور ان ہی میں سے ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل اور مشابہ بنا دیا۔ یہودیوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا اور بہت خوش ہوئے کہ ہم اپنے

مدعا میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

قال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن سنان حدثنا ابو معوية عن
الاعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس
قال لما اراد الله ان يرفع عيسى الى السماء خرج على اصحابه و
في البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين يعني فخرج عليهم من
عين في البيت وراسه يقطر ماء فقال ان منكم من يكفر بي اثني
عشر مرة بعد ان امن بي قال ايكم يلقي عليه شبهي فيقتل
مكاني ويكون معي في درجتي فقام شاب من احدتهم سنا فقال
له اجلس ثم اعاد عليهم فقام ذلك الشاب فقال انا فقال هو انت
ذاك فالقى عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روضة في البيت
الى السماء قال وجاء الطلب من اليهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم
صلبوه الى اخر القصة وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس ورواه
النسائي عن ابى كريب عن ابى معوية وكناذ كرغير واحد من
السلف انه قال لهم ايكم يلقي شبهي فيقتل مكاني وهو رفيقي
في الجنف

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۸ ج ۳)

ترجمہ = ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو عیسیٰ علیہ السلام اس چشمہ سے کہ جو مکان میں تھا غسل فرما کر باہر تشریف لائے اور سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے (بظاہر یہ غسل آسمان پر جانے کے لیے تھا جیسے مسجد میں آنے سے پہلے وضو کرتے ہیں) باہر مجلس میں بارہ حواریین موجود تھے۔ ان کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تم میں سے ایک شخص مجھ پر ایمان لانے کے بعد بارہ مرتبہ کفر کرے گا بعد ازاں فرمایا کہ کون شخص تم میں سے اس پر راضی ہے کہ اس پر میری شہادت ڈال دی جائے اور

وہ میری جگہ قتل کیا جائے اور میرے درجہ میں میرے ساتھ رہے یہ سنتے ہی ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اپنے کو اس جاں نثاری کے لیے پیش کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اسی سابق کلام کا اعادہ فرمایا، پھر وہی نوجوان کھڑا ہوا اور عرض کیا، میں حاضر ہوں۔

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہی وہ شخص ہے؟ اس کے فوراً ہی بعد اس نوجوان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شاہت ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشن دان سے آسمان پر اٹھالے گئے۔ بعد ازاں یہود کے پیادے عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے گھر میں داخل ہوئے اور اس شبیہ کو عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کیا اور قتل کر کے صلیب پر لٹکایا۔

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ سند اس کی صحیح ہے اور بہت سے سلف سے اسی طرح مروی ہے۔

اس روایت سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے رفع الی السماء کا بذریعہ وحی پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور یہ علم تھا کہ اب آسمان پر جانے کا تھوڑا ہی وقت باقی رہ گیا ہے اور بظاہر یہ غسل آسمان پر جانے کے لیے تھا جیسا کہ عید میں جانے کے لیے غسل ہوتا ہے۔ میرا گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ذرہ برابر مضطرب اور پریشان نہ تھے بلکہ غایت درجہ سکون اور اطمینان میں تھے بلکہ نہایت درجہ شادان و فرحان تھے۔

خرم آن روز کزین منزل ویراں بروم

راحت جاں ظلم وزپئے جاتاں بروم

بعض روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے رفع الی السماء سے پہلے حواریین کی دعوت فرمائی اور خود اپنے دست مبارک سے ان کے ہاتھ دھلائے اور بجائے رومال کے اپنے جسم مبارک کے کپڑوں سے ان کے ہاتھ پونچھے۔

(یہ روایت تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۹ ج ۳ پر ہے۔)

گویا کہ یہ دعوت رفع الی السماء کا ولیمہ اور رخصتانہ تھا اور احباب و اصحاب کی الوداعی دعوت تھی۔ الغرض غسل فرما کر برآمد ہونا اور احباب کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا یہ سب آسمان پر جانے کی تیاری تھی۔ جب فارغ ہو گئے تو اپنے ایک عاشق جاں نثار پر اپنی شہادت ڈال کر روح القدس کی معیت میں معراج کے لیے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ رفع الی السماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج جسمانی تھی جس طرح نبی اکرم ﷺ جبرائیل امین کی معیت میں آسمانوں کی معراج کے لیے روانہ ہوئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبرائیل کی معیت میں معراج کے لیے آسمان پر روانہ ہوئے۔

فائدہ

صحیح مسلم میں نواس بن معان کی حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دمشق کے منارۃ شریفہ پر اتریں گے تو سر مبارک سے پانی ٹپکتا ہوا ہو گا۔ سبحان اللہ جس وقت آسمان پر تشریف لے گئے اس وقت بھی سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور جس وقت قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اس وقت بھی سر مبارک سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے ہوں گے۔ جس شان سے تشریف لے گئے تھے اسی شان سے تشریف آوری ہوگی۔

تنبیہ

سلف میں اس کا اختلاف ہے کہ جس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت ڈالی گئی وہ یہودی تھا یا منافق عیسائی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخلص حواری۔ گزشتہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص مومن مخلص تھا۔ اس لیے کہ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر میری شہادت ڈالی جائے گی وہ جنت میں میرا رفیق ہو گا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

ایک شبہ کا ازالہ

جس طرح فرشتوں کا شکل بشر متحمل ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا اڑدہا بن جانا قرآن کرم میں منصوص ہے اور انبیاء کرام کے لیے پانی کا شراب اور زمون بن جانا نصاریٰ کے نزدیک مسلم ہے۔ پس اسی طرح اگر کسی شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ اور ہم شکل بنا دیا جائے تو کیا استبعاد ہے؟ احیاء موتی کا معجزہ القاشیہ کے معجزہ سے کہیں زیادہ بلند تھا لہذا احیاء موتی کی طرح القاشیہ کے معجزہ کو بھی بلاشبہ اور بالاتر و تسلیم کرنا چاہیے۔

بل رفعہ اللہ الیہ

یعنی یہودی حضرت مسیح کو نہ قتل کر سکے اور نہ صلیب دے سکے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف یعنی آسمان پر اٹھا لیا۔ جیسا کہ امام رازی نے وابدناہ بروح القدس کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت جبرئیل کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ خاص خصوصیت تھی کہ انہیں کہ نوحہ سے پیدا ہوئے انہیں کی تربیت میں رہے اور وہی ان کو آسمان پر چڑھا کر لے گئے۔

(تفسیر کبیر ۱۷:۲۳۶)

جیسا کہ شب معراج میں حضرت جبرئیل آل حضرت ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان پر لے گئے۔ صحیح البخاری میں ہے ثم اخذ بیدی فخرج بی الی السماء یہ آیت رفع جسمی کے بارے میں نص صریح ہے کہ حق جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ اور صحیح اور سالم آسمان پر اٹھالیا۔ اب ہم اس کے دلائل اور براہین ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ غور سے پڑھیں:

(۱)

یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ بل رفعہ اللہ کی ضمیر اسی طرف راجع ہے کہ جس طرف قلوہ اور ملبوہ کی ضمیریں راجع ہیں اور ظاہر ہے کہ قلوہ اور ملبوہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک اور جسد مطہر کی طرف

راجح ہیں۔ روح بلا جسم کی طرف راجح نہیں۔ اس لیے کہ قتل کرنا اور صلیب پر چڑھانا جسم ہی کا ممکن ہے۔ روح کا قتل اور صلیب قطعاً "ناممکن" ہے۔ لہذا بل رفقہ کی ضمیر اسی جسم کی طرف راجح ہوگی جس جسم کی طرف قتلہ اور صلبہ کی ضمیریں راجح ہیں۔

(۲)

دوم یہ کہ یہود روح کے قتل کے مدعی نہ تھے بلکہ جسم کے قتل کے مدعی تھے اور بل رفقہ اللہ الیہ سے اس کی تردید کی گئی ہے۔ لہذا بل رفقہ میں رفع جسم ہی مراد ہو گا اس لیے کہ کلمہ بل کلام عرب میں ما قبل کے ابطال کے لیے آتا ہے۔ لہذا بل کے ما قبل اور مابعد میں منافات اور تضاد کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحنہ بل عباد مکرمون ولدت اور عبودیت میں منافات ہے دونوں جمع نہیں ہو سکتے ام یقولون بہ جنۃ بل جاء ہم بالحق مجنونیت اور اتیان بالحق (یعنی من جانب اللہ حق کو لے کر آنا) یہ دونوں تضاد اور متناقض ہیں یک جا جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ ناممکن ہے کہ شریعت حقہ کلانے والا مجنون ہو۔ اسی طرح اس آیت میں یہ ضروری ہے کہ متحولیت اور مصلوبیت جو بل کا ما قبل ہیں وہ مرفوعیت الی اللہ کے منافی ہو جو بل کا مابعد ہے اور ان دونوں کا وجود اور تحقق میں جمع ہونا ناممکن ہے اور ظاہر ہے کہ متحولیت اور روحانی رفع معنی موت میں کوئی منافات نہیں محض روح کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا قتل جسمانی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ شہداء کا جسم تو قتل ہو جاتا ہے اور روح آسمان پر اٹھالی جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہوا کہ بل رفقہ اللہ میں رفع جسمانی مراد ہو کہ جو قتل اور صلب کے منافی ہے اس لیے کہ رفع روحانی اور رفع عزت اور رفعت شان قتل اور صلب کے منافی نہیں بلکہ جس قدر قتل اور صلب ظلماً ہو گا اسی قدر عزت اور رفعت شان میں اضافہ ہو گا۔ اور درجات اور زیادہ بلند ہوں گے۔ رفع درجات کے لیے تو موت اور قتل کچھ بھی شرط نہیں۔ رفع درجات زندہ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ کما قال

تعالیٰ ورفعالک ذکرک ○ اور یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین لوتوا
لعلم درجات

یہود حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم کے قتل اور صلب کے مدعی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ابطال کے لیے بل رفعہ اللہ فرمایا۔ یعنی تم غلط کہتے ہو کہ تم نے اس کے جسم کو قتل کیا، یا صلیب پر چڑھایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو صحیح و سالم آسمان پر اٹھالیا۔ نیز اگر رفع سے رفع روح معنی موت مراد ہے تو قتل اور صلب کی نفی سے کیا فائدہ؟ قتل اور صلب سے غرض موت ہی ہوتی ہے اور بل اضرابیہ کے بعد کو بھینٹہ ماضی لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السماء باعتبار ما قبل کے امر ماضی ہے۔ یعنی تمہارے قتل اور صلب سے پہلے ہی ہم نے ان کو آسمان پر اٹھالیا۔ جیسا کہ بل جاء ہم بالحق میں ماضی اس لیے لایا گیا کہ یہ بتلادیا جائے کہ آپ ﷺ کا حق کو لے کر آنا کفار کے مجنون کہنے سے پہلے ہی واقع ہو چکا ہے۔ اسی طرح بل رفعہ اللہ بھینٹہ ماضی لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ رفع الی السماء ان کے مزعوم اور خیالی قتل اور صلب سے پہلے ہی واقع ہو چکا ہے۔

(۳)

جس جگہ لفظ رفع کا مفعول یا متعلق جسمانی شے ہوگی تو اس جگہ یقیناً "جسم کا رفع مراد ہوگا۔ اور اگر رفع کا مفعول اور متعلق درجہ یا منزلہ یا مرتبہ یا امر معنوی ہو تو اس وقت رفع مرتبت اور بلندی رتبہ کے معنی مراد ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ ورفعنا فوقکم الطور اٹھایا ہم نے تم پر کوہ طور اللہ الذی رفع السموات بغیر عمدترونها اللہ ہی نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ واذیرفع ابرہیم القواعد من البیت واسمعیل یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسمعیل ان کے ساتھ تھے۔ ورفع ابوہ علی العرش یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت کے اوپر

بٹھایا۔ ان تمام مواقع میں لفظ رفع اجسام میں مستعمل ہوا ہے اور ہر جگہ رفع جسمانی مراد ہے اور ورفعنالک ذکرک ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اور رفعنابعضہم فوق بعض درجات ہم نے بعض کو بعض پر درجہ اور مرتبہ کے اعتبار سے بلند کیا۔ اس قسم کے مواقع میں رفعت شان اور بلندی رتبہ مراد ہے۔ اس لیے کہ رفع کے ساتھ خود ذکر اور درجہ کی قید مذکور ہے۔

ایک حدیث میں ہے اذا تواضع العبد رفعه الله الى السماء السابعة رواه الخرائطي في مكارم الاخلاق..... جب بندہ تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ساتویں آسمان پر اٹھا لیتے ہیں۔

”اس حدیث کو خرائطی نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق میں ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کنز العمال

ص ۱۲۵ ج ۲)

اس روایت کو مرزائی بہت خوش ہو کر بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں کہ رفع کا مفعول جسمانی شے ہے اور الی السماء کی بھی تصریح ہے۔ مگر باوجود اس کے رفع سے رفع جسمی مراد نہیں بلکہ رفع معنوی مراد ہے۔

جواب

یہ ہے کہ یہاں مجاز کے لیے قرینہ عقلیہ قطعاً موجود ہے کہ یہ زندہ کے حق میں ہے یعنی جو بندہ لوگوں کے سامنے زمین پر چلتا ہے اور تواضع کرتا ہے تو اس کا مرتبہ اور درجہ اللہ کے یہاں ساتویں آسمان کے برابر بلند اور اونچا ہے ظاہر ہے کہ یہاں رفع جسم مراد نہیں بلکہ رفع درجات مراد ہے۔ غرض یہ کہ رفع کے معنی بلندی رتبہ مجازاً ”بوجہ قرینہ عقلیہ لیے گئے اور اگر کسی کم عقل کی سمجھ میں یہ قرینہ عقلیہ نہ آئے تو اس کے لیے قرینہ لفظیہ بھی موجود ہے۔ وہ یہ کہ کنز العمال میں روایت مذکورہ کے بعد ہی علی الاتصال یہ روایت مذکور ہے من يتواضع لله درجة يرفعه الله حتى يجعله في عليين یعنی جس درجہ کی تواضع کرے گا اسی کے مناسب اللہ اس کا درجہ بلند فرمائیں گے یہاں تک کہ جب وہ تواضع کے

آخری درجہ پر پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو طین میں جگہ دیں گے جو علو اور رفعت کا آخری مقام ہے۔ اس حدیث میں صراحتاً "لفظ درجہ کا مذکور ہے اور قاعدہ مسلمہ ہے الحدیث یفسر بعضہ ببعضاً ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر اور شرح کرتی ہے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ رفع کے معنی اٹھانے اور اوپر لے جانے کے ہیں۔ لیکن وہ رفع کبھی اجسام کا ہوتا ہے اور کبھی معانی اور اعراض کا ہوتا ہے اور کبھی اقوال اور افعال کا۔ اور کبھی مرتبہ اور درجہ کا جہاں رفع اجسام کا ذکر ہو گا وہاں رفع جسمی مراد ہو گا۔ اور مثلاً جہاں رفع اعمال اور رفع درجات کا ذکر ہو گا وہاں رفع معنوی مراد ہو گا۔ رفع کے معنی تو اٹھانے اور بلند کرنے ہی کے ہیں۔ باقی جیسی شے ہو گی اس کا رفع اسی کے مناسب ہو گا۔

(۴)

یہ کہ اس آیت کا صریح مفہوم اور مدلول یہ ہے کہ جس وقت یہود نے حضرت مسیح کے قتل اور صلب کا ارادہ کیا تو اس وقت قتل اور صلب نہ ہو سکا بلکہ اس وقت حضرت مسیح کا اللہ کی طرف رفع ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ رفع جس کا بل رفع اللہ میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ کو پہلے سے حاصل نہ تھا بلکہ یہ رفع اس وقت ظہور میں آیا کہ جس وقت یہود ان کے قتل کا ارادہ کر رہے تھے اور وہ رفع جو ان کو اس وقت حاصل ہوا وہ یہ تھا کہ اس وقت بجمہ العنصری صحیح و سالم آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ رفعت شان اور بلندی مرتبہ تو ان کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین کے لقب سے پہلے ہی سرفراز ہو چکے تھے۔ لہذا اس آیت میں وہی رفع مراد ہو سکتا ہے کہ جو ان کو یہود کے ارادہ قتل کے وقت حاصل ہوا یعنی رفع جسمی اور رفع عزت و منزلت اس سے پہلے ہی ان کو حاصل تھا، اس مقام پر اس کا ذکر بالکل بے محل ہے۔

(۵)

یہ کہ رفع کا لفظ قرآن کریم میں صرف دو پیغمبروں کے لیے آیا ہے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے اور لیس علیہ السلام کے لیے کما قال تعالیٰ واذکر فی الکتب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعه مکانا علیا ○ اور اور لیس علیہ السلام کے رفع جسمانی کا مفصل تذکرہ کتب تفسیر میں مذکور ہے۔ لہذا تمام انبیاء کرام میں انہیں دو پیغمبروں کو رفع کے ساتھ کیوں خاص کیا گیا؟ رفع درجات میں تمام انبیاء شریک ہیں اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کے قتل کو اس طرح بیان فرمایا وقتلہم الانبیاء مگر ان کے ساتھ بل رفعہم اللہ الیہ نہیں فرمایا کیا معاذ اللہ ان انبیاء کے درجات بلند نہیں کیے گئے اور کیا ان حضرات کی ارواح طیبہ آسمان پر نہیں اٹھائی گئیں اور کیا معاذ اللہ یہ سب نبی ذلت کی موت مرے؟

حضرت اور لیس علیہ السلام کے رفع الی السماء کا مفصل ”تذکرہ ذیل کی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں تفسیر روح المعانی ص ۱۸۷ ج ۵۔ وخصائص کبریٰ ص ۱۶۷ ص ۱۶۸ ج ۱ ص ۱۷۳ ج ۱۔ و تفسیر کبیر ص ۵۳۵ ج ۵ و ارشاد الساری ص ۳۷۰ ج ۵ فتح الباری ص ۲۲۵ ج ۱۳ و مرقات ص ۲۲۳ ج ۵ و عالم التزیل ص ۷ ج ۳ و فی عمدة القاری ص ۳۲۷ ج ۷۔ القول الصحیح باند رفع و ہوحی دور منشور ص ۲۳۶ ج ۳ و فی التفسیر ابن جریر ص ۶۳ ج ۱۶۔ ان اللہ رفعہ و ہوحی الی السماء الرابعة و فی الفتوحات المکیہ ص ۳۳۱ ج ۳ و البیواقیت و الجواہر ص ۲۳ ج ۲ فانانا بادریس بجسمہ فانہ مات الی الان بل رفعہ اللہ مکانا علیا و فی الفتوحات ص ۵ ج ۲۔ اور لیس علیہ السلام بقى حیا بجسده و اسکنہ اللہ الی السماء الرابعة ۱۲۔

(۶)

یہ کہ و ما قتلوه و ما صلبوه اور و ما قتلوه یقینا اور بل رفعہ میں تمام حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں جن کو مسیح اور ابن مریم اور رسول اللہ کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ عیسیٰ اور مسیح اور ابن مریم اور رسول یہ

جسم معین اور جسد خاص کے نام اور لقب ہیں۔ روح کے اسماء اور القاب نہیں۔ اس لیے کہ جب تک روح کا تعلق کسی بدن اور جسم کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک وہ روح کسی اسم کے ساتھ موسوم اور کسی لقب کے ساتھ لقب نہیں ہوتی واذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورہم ذریعتہم۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود ومجندة۔ الحدیث۔

(۷)

یہ کہ یہود کی ذلت و رسوائی اور حسرت اور ناکامی اور عیسیٰ علیہ السلام کی کمال عزت و رفعت بجدہ النصری صحیح و سالم آسمان پر اٹھائے جانے ہی میں زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔

(۸)

یہ کہ رفعت شان اور علو مرتبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں۔ زندہ اہل ایمان اور زندہ اہل علم کو بھی حاصل ہے۔ کما قال تعالیٰ یرفع اللہ الذین امنوا منکم والذین لوتوا العلم درجات بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کو باعتبار درجات کے۔

(۹)

یہ کہ اگر آیت میں رفع روحانی معنی موت مراد ہو تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ رفع روحانی معنی موت یہود کے قتل اور صلب سے پہلے واقع ہوا جیسا کہ ام یقولون بہ جنۃ بل جاء ہم بالحق۔ ویقولون ائنا لتارکوا آلہتنا للشاعر مجنون ○ بل جاء بالحق میں آل حضرت ﷺ کا حق کو لے کر آنا ان کے شاعر اور مجنون کہنے سے پہلے واقع ہوا اسی طرح رفع روحانی معنی موت کو ان کے قتل اور صلب سے مقدم ماننا پڑے گا۔ حالانکہ مرزا صاحب اس کے قائل نہیں۔

مرزا صاحب تو (العیاذ باللہ) یہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہود سے خلاص ہو کر فلسطین سے کشمیر پہنچے اور عرصہ دراز تک بقید حیات رہے اور اسی عرصہ میں اپنے زخموں کا علاج کرایا اور پھر طویل مدت کے بعد یعنی ستاسی سال زندہ رہ کر وفات پائی اور سری نگر کے محلہ خان یار میں مدفون ہوئے اور وہیں آپ کا مزار ہے۔ لہذا مرزا صاحب کے زعم کے مطابق عبارت اس طرح ہونی چاہیے تھی وما قتلوه بالصلیب بل تخلص منهم وذهب الی کشمیر و اقام فیہم مدة طويلة ثم امانہ اللہ و رفع الیہ۔

(۱۰)

یہ کہ رفع روحانی معنی موت لینے سے وکان اللہ عزیزا حکیمانہ کے ساتھ مناسبت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ عزیز اور حکیم اور اس قسم کی ترکیب اس موقع پر استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں کوئی عجیب و غریب اور خارق العادات امر پیش آیا ہو۔ اور وہ عجیب و غریب امر جو اس مقام پر پیش آیا وہ رفع جسمانی ہے۔ اس مقام پر عزیزاً ”حکیم کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ جسم عنصری کا آسمان پر جانا محال ہے۔ وہ عزت والا اور غلبہ والا اور قدرت والا ہے اور نہ یہ خیال کرے کہ جسم عنصری کا آسمان پر اٹھایا جانا خلاف حکمت اور خلاف مصلحت ہے۔ وہ حکیم ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ دشمنوں نے جب حضرت مسیح پر ہجوم کیا تو اس نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلایا کہ اپنے نبی کو آسمان پر اٹھالیا اور جو دشمن قتل کے ارادہ سے آئے تھے انہی میں سے ایک کو اپنے نبی کا ہم شکل اور شبیہ بنا کر انہیں کے ہاتھ سے اس کو قتل کرا دیا اور پھر اس شبیہ کے قتل کے بعد ان سب کو شبہ اور اشباہ میں ڈال دیا۔ مرزا صاحب ازالہ اوہام میں فرماتے ہیں:

”جاننا چاہیے کہ اس جگہ رفع سے مراد وہ موت ہے جو عزت کے ساتھ

جیسا کہ دوسری آیت اس پر دلالت کرتی ہے ورفعه مکانا علیا ○
پھر تحریر فرماتے ہیں:

کہ لہذا یہ امر ثابت ہے کہ رفع سے مراد اس جگہ موت ہے۔ مگر ایسی موت جو عزت کے ساتھ ہو جیسا کہ مقررین کے لیے ہوتی ہے کہ بعد موت کے ان کی روحمیں طین تک پہنچائی جاتی ہیں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ○
انہی (ازالہ اوہام ص ۵۹۹ خورد۔ روحانی خزائن ص ۲۲۳-۲۲۴ ج ۳)

رفع کے معنی عزت کی موت نہ کسی لغت سے ثابت ہیں اور نہ کسی محاورہ سے اور نہ کسی فن کی اصطلاح ہے محض مرزا صاحب کی اختراع اور گھڑت ہے۔ البتہ رفع کا لفظ محض اعزاز کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے مگر اعزاز رفع جسمانی کے متانی نہیں اعزاز اور رفع جسمانی دونوں جمع ہو سکتے ہیں نیز اگر رفع سے عزت کی موت مراد ہو تو نزول سے ذلت کی پیدائش مراد ہونی چاہیے اس لیے کہ حدیث میں نزول کو رفع کا مقابل قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ نزول کے یہ معنی مرزا صاحب کے ہی مناسب ہیں۔

رہا یہ امر کہ آیت میں آسمان میں جانے کی کوئی تصریح نہیں۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ (اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھالیا) اس کلام کے معنی ہی یہ ہیں کہ اللہ نے آسمان پر اٹھالیا جیسا کہ تعرج الملائکتہ والروح الیہ کے معنی یہ ہیں کہ فرشتے اور روح الامین اللہ کی طرف چڑھتے ہیں یعنی آسمان پر۔ وقال تعالیٰ الیہ یصعد الکم الطیب و العمل الصالح یرفعہ اللہ ہی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عمل صالح کو اوپر اٹھاتا ہے یعنی آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ اسی طرح بل رفعہ اللہ الیہ میں آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہو گا۔ اور جس کو خدائے تعالیٰ نے ذرا بھی عقل دی ہے وہ سمجھ سکتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ کے یہ معنی کہ خدانے ان کو عزت کی موت دی ہے یہ معنی جس طرح لغت کے خلاف ہیں اسی طرح سیاق و سباق کے بھی خلاف ہیں۔

دوئم یہ کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

بناو صحیح یہ معقول ہے لما مراد اللہ ان یرفع عیسیٰ الی السماء

(تفسیر ابن کثیر ص ۹ ج ۳)

(جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھانے کا ارادہ فرمایا۔ الی آخر القصہ اس کے علاوہ متعدد احادیث میں آسمان پر جانے کی تصریح موجود ہے وہ احادیث عن قریب ہم نقل کریں گے۔

سوم یہ کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ رفع سے ایسی موت مراد ہے جو عزت کے ساتھ ہو جیسے مقررین کی موت ہوتی ہے کہ ان کی روہیں مرنے کے بعد علیین تک پہنچی جاتی ہیں۔ اس عبارت سے خود واضح ہے کہ بل رفعہ اللہ سے آسمان پر جانا مراد ہے۔ اس لیے کہ ”علیین“ اور ”مقعد صدق“ تو آسمان ہی میں ہیں۔ بہر حال آسمان پر جانا تو مرزا صاحب کو بھی تسلیم ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ آسمان پر حضرت مسیح بن مریم کی فقط روح گئی یا روح اور جسد دونوں گئے۔ سو یہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ آیت میں بجدہ العنصری رفع مراد ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دوسری دلیل

قال اللہ عز وجل وان من اهل الکتب الا لیؤمنن به قبل موتہ ویوم
القیمة یکون علیہم شہیدا ○

ربط

یہ آیت گزشتہ آیت ہی کے سلسلہ کی ہے گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کا ذکر تھا، جس سے بعداً ”یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب رفع الی السماء کے بعد کیا ہو گا؟ اس آیت میں اس کا جواب مذکور ہے کہ وہ اس وقت تو آسمان پر زندہ ہیں مگر قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور اس

وقت تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے اور چند روز دنیا میں رہ کر انتقال فرمائیں گے۔ اور روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے اور یہود بے بہبود جو ان کے قتل کے مدعی ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے زندہ دیکھ کر اپنی غلطی پر ذلیل اور نادام ہوں گے۔

بیان ربط بعض ان دیگر

گزشتہ آیات میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یہود کے کفر اور عداوت کا ذکر تھا۔ اس آیت میں ان کے ایمان کا ذکر ہے کہ رفع الی السماء سے پہلے اگرچہ یہود حضرت مسیح کی نبوت سے منکر تھے، مگر نزول من السماء کے بعد تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی نبوت کی تصدیق کریں گے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آئندہ زمانے میں کوئی شخص اہل کتاب میں سے باقی نہ رہے گا مگر عیسیٰ کے مرنے سے پہلے ان کی نبوت و رسالت پر ضرور بالضرور ایمان لے آئے گا۔ رفع الی السماء سے پہلے تکذیب اور عداوت تھی نزول کے بعد تصدیق اور محبت ہوگی۔ اور پھر اس سب کے بعد قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کی تصدیق و تکذیب اور محبت اور عداوت کی شہادت دیں گے تاکہ شہادت کے بعد فیصلہ سنا دیا جائے۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ اور ان کی وفات سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔

تفسیر آیت

اس آیت کی تفسیر میں صحابہ و تابعین و علماء مفسرین کے دو قول ہیں:

قول اول

مشہور اور جمہور کے نزدیک مقبول اور راجح یہ ہے کہ لیومنن کی ضمیر

کتابی کی طرف راجع ہے اور بہ اور قبل موتہ کی دونوں ضمیریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ نہیں رہے گا کوئی شخص اہل کتاب میں مگر البتہ ضرور ایمان لے آئے گا زمانہ آئندہ یعنی زمانہ نزول میں عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں:

”نہا شد هیچ کس از اہل کتاب الا البتہ ایمان آرد جیسی پیش از مردن و روز قیامت عیسیٰ گواہ باشد برایشان“

(ف) مترجم می گوید یعنی یہودی کہ حاضر شوند نزول عیسیٰ را البتہ ایمان آرند۔

شاہ ولی اللہ کے اس ترجمہ اور فائدہ تفسیریہ سے صاف ظاہر ہے کہ بہ اور موتہ کی دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ وما قتلوه اور وما صلبوه اور ما قتلوه یقیناً اور بل رفعہ تمام ضماائر مفعول حضرت مسیح بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہیں اور پھر آئندہ آیت ویوم القیمۃ ویکون علیہم شہیداً میں یکون کی ضمیریں بھی حضرت مسیح ہی کی طرف راجع ہوں گی تاکہ سیاق اور سباق کے خلاف نہ ہو۔

اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی باسناد صحیح یہی مفعول ہے کہ بہ اور موتہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف راجع ہیں۔ چنانچہ حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں:

وہذا جزم ابن عباس فیما رواہ ابن جریر من طریق سعید بن جبیر عنہ باسناد صحیح و من طریق ابی رجا عن الحسن قال قبل موت عیسیٰ واللہ انہ الان لعیسیٰ و لکن اذا نزل امنوا بہ

اجمعون ونقلہ اکثر اہل العلم ورجحہ ابن جریر وغیرہ۔

(فتح الباری ص ۶۳۵۷ ج ۶)

ترجمہ = اسی کا ابن عباس نے جزم اور یقین کیا، جیسا کہ ابن جریر نے بروایت سعید بن جبیر ابن عباس سے باسناد صحیح روایت کیا ہے اور بطریق ابی رجاہ حسن بصری سے اس آیت کی تفسیر قبل موت عیسیٰ کے منقول ہے حسن بصری فرماتے ہیں واللہ حضرت عیسیٰ اس آن میں بھی زندہ ہیں۔ جب نازل ہوں گے اس وقت ان پر سب ایمان لے آئیں گے اور یہی اکثر اہل علم سے منقول ہے اور اسی کو ابن جریر وغیرہ نے راجح قرار دیا ہے۔

اور قوادہ اور ابومالک سے بھی یہی منقول ہے کہ قبل موتہ کی ضمیر حضرت

عیسیٰ کی طرف راجح ہے۔ (تفسیر ابن جریر ص ۶۱۳ ج ۶)

اور حضرت ابوہریرہ کی ایک روایت میں ہے جس کو امام بخاری اور امام

مسلم نے روایت کیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اور موتہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجح ہیں:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لایقبلہ احد حتی تكون السجدة الواحدة خیر الہ من الدنیا و ما فیہا ثم یقول ابوہریرہ واقراوا ان شتمت و ان من اہل الکتاب الا لیومنن بہ قبل موتہ ویوم القیمة یکون علیہم شہیدنا ﴿بخاری ص ۳۹۰ ج ۱۔ مسلم شریف ص ۸۷ ج ۱﴾

ترجمہ = ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک عن قریب تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے وراں حایکہ وہ فیصلہ کرنے

والے اور انصاف کرنے والے ہوں گے صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور لڑائی کو ختم کر دیں گے، مال کو بہادیں گے یہاں تک کہ مال کو قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ اور ایک سجدہ دنیا اور مافیہا سے بہتر ہو گا۔ پھر ابو ہریرہؓ یہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو اس حدیث کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھو وان من اهل الكننہ الالیومنن بہ قبل موتہ و یوم القیمۃ یکون علیہم شہیداً ○

حافظ عسقلانی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں:

وهذا مصیر من ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ الی ان الضمیر فی قولہ بہ و موتہ یعود علی عیسیٰ علیہ السلام ای الیومنن بعیسیٰ قبل موت عیسیٰ۔

(بخاری ص ۶۳۵۷ ج ۶)

ترجمہ = یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اس طرح آیت کا پڑھنا اس کی دلیل ہے کہ بہ اور موتہ کی ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں یعنی ہر شخص زمانہ آئندہ میں حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ضرور ایمان لے آئے گا۔

ایک وہم کا ازالہ

مرزا اور مرزائی کہتے ہیں کہ اقروان ششم الی آخرہ یہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد نہیں بلکہ ابو ہریرہؓ کا استنباط ہے جو حجت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ حدیث مرفوعہ نہیں بلکہ صحابی کا اثر ہے۔

جواب

یہ ہے کہ حدیث کتاب اللہ کی شرح ہے۔ قرآن کریم میں جو چیز اجمالاً مذکور ہے حدیث اس کی تفصیل ہے۔ اس لیے فقہا صحابہ اس نتیجے اور تلاش میں رہتے تھے کہ احادیث نبویہ اور کلمات طیبہ کے فضا اور ماخذ کا پتہ کتاب اللہ سے

چلائیں اور ارشادات نبویہ کا کلمات ایہ سے استنباط کریں۔ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں تطبیق اور توفیق دینا اور حدیث کی تصدیق اور مزید توثیق کے لیے کتاب اللہ کی کسی آیت سے اشتہاد کرنا یہ ہر شخص کا کام نہیں جس کو خدائے تعالیٰ نے متفقہ اور استنباط کی نعمت اور دولت سے سرفراز فرمایا ہو وہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ اکثر حدیث کی روایت کر کے اشتہاداً کوئی آیت تلاوت فرمایا کرتے ہیں اور وہ اکثر اپنی رائے سے نہیں ہوتی بلکہ رسول اللہ ﷺ ہی سے منقول ہوتی ہے لیکن بعض مرتبہ اس کی تصریح فرمادیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اور بعض مرتبہ اختصاراً فقط آیت کی تلاوت پر ہی اکتفا فرماتے ہیں۔ لیکن تنج اور استقرار جب کیا جاتا ہے تو دوسری سند سے اس کے مرفوع ہونے کی تصریح مل جاتی ہے چنانچہ یہ آیت بھی اسی قبیل سے ہے اور اس کی چند نظائر یہ ناظرین کی جاتی ہیں۔

نظیر اول

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تفضل صلوة الجمیع صلوة احدکم وحده بخمس وعشرین جزا وتجتمع ملائکة اللیل والنهار فی صلوة الفجر ثم یقول ابو ہریرۃ اقران شتم ان قران الفجر کان مشہودا (اخرج البخاری ص ۹۰ و احمد بن حنبل فی مسندہ ص ۲۳۳ و ص ۲۳۶ ج ۲)

ترجمہ = ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے سنا کہ جماعت کی نماز تہما نماز سے پچیس ورجہ بڑھ کر ہے اور صبح کی جماعت میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں پھر ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر قرآن سے اس کی تصدیق و تائید چاہو تو یہ آیت پڑھ لو: ان قران الفجر کان مشہودا ○ (بخاری شریف و مسند احمد)

نظیر دوم

عن ابی ہریرۃ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی الخ واقرا ؤا ان شتم یعنی قوله تعالیٰ لایسلون الناس الحافا۔

(اخرجه البخاری ص ۶۵۱ واحمد بن حنبل فی مسنده ص ۳۹۵ ج ۲)

ترجمہ = ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں کہ جس کو ایک دو لقمہ دے کر واپس کر دیا جائے۔ اصل مسکین وہ ہے جو سوال ہی سے بچتا ہو اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو لایسلون الناس الحافا ط

نظیر سوم

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرة فابواه یهودانه وینصرانه ویمجسانه کما تنتج البہیمۃ البہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء ثم یقول فطرة اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ام۔

(اخرجه البخاری ص ۷۰۳ ج ۲)

ترجمہ = ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.... فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے بعد میں اس کے ماں باپ یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو: فطرة اللہ التی فطر الناس علیہا الایق۔

نظیر چہارم

عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقہ قالت الرحم ہذا مقام العائذ بک

من القطعية قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يارب قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم۔ (بخاری شریف ص ۸۸۵ ج ۲) و فی روایة قال ابو هريره اقرؤا ان شئتم و فی روایة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤا ان شئتم۔ (بخاری ص ۷۱۶ ج ۲)

ترجمہ = ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب فارغ ہوئے تو مثالی طور پر قرابتوں نے دست بستہ عرض کیا کہ ہم قرابت قطع کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ جو تم کو وصل کرے اس کو میں اپنے سے ملاؤں اور جو تم کو قطع کرے اس سے میں بھی قطع تعلق کروں قرابتوں نے عرض کیا کیوں نہیں اے پروردگار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تمہارے لیے یہ فیصلہ ہو چکا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم ○

(بخاری شریف ص ۷۱۶)

نظیر پنجم

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى اعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقراءوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين۔ (اخرجه البخاری ص ۳۶۰ و احمد بن حنبل)

ترجمہ = ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ

نعتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جو نہ آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں سے
سُنیں اور نہ کسی دل میں ان کا خطرہ گزرا۔ اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ
لو۔ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ط

نظیر ششم

عن ابی ہریرۃ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی
الجنة شجرة یسیر الراكب فی ظلها مائة عام لا یقطعها واقر و ان
شتم وظل مملود۔

(اخرج البخاری ص ۷۲۳ و احمد بن حنبل فی مسندہ ص ۲۸۲ ج ۲)

ترجمہ = ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ
جنت میں ایک درخت ہے جس کے سایہ میں سوار سو برس بھی چلے تو قطع
نہیں کر سکے گا۔ اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وظل مملود

نظیر ہفتم

عن ابی ہریرۃ ان النبی ﷺ قال ما من مومن الا وانا لولی بہ
فی الدنیا و الاخرة و اقرا و ان شتم النبی لولی بالمومنین من
انفسہم۔

(بخاری ص ۳۲۳ و احمد بن حنبل فی مسندہ ص ۳۳۳ د ص ۳۲۸ ج ۲)

ترجمہ = ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ہر
مومن کے ساتھ میں اس کی جان سے زیادہ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت
میں قریب ہوں۔ اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو النبی لولی
بالمومنین من انفسہم

نظیر ہشتم

عن ابی ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت وراها
الناس امن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن
امنت من قبل لو كسبت في ايمانها خيرا۔ آہ

(اخرج الامام احمد في مسنده ص ۲۳۱ ج ۲ ص ۲۳۱ ج ۲ ص ۵۳۰ ج ۲)

ترجمہ = ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک آفتاب مغرب
سے طلوع نہ کرے اور جب آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اس
کو دیکھ لیں گے تو اس وقت سب ایمان لے آئیں گے۔ مگر اس وقت یہ
ایمان نفع نہیں دے گا اور اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو لا، ینفع نفسا
ایمانہا۔ (مسند احمد)

نظیر نہم

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ما من مولود الا نحسه
الشيطان الا ابن مريم و امه ثم قال ابو ہریرۃ اقراوا ان شئتم الی
اعینہا بک و ذریئہا من الشیطن الرجیم ○

(مسند احمد ص ۳۳۳ ج ۲)

ترجمہ = ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر بچہ
کو شیطان ولادت کے وقت کوچہ دیتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی
والدہ کہ وہ اس سے محفوظ رہے پھر ابو ہریرہؓ نے کہا اگر چاہو تو یہ آیت
پڑھ لو۔ ان اعینہا بک و ذریئہا من الشیطن الرجیم ○

نظیر دہم

عن ابی ہریرۃ فی حدیث طویل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہ سئل عن الحمر الاہلیۃ فقال ما انزل اللہ علی فیہا الا ہذہ الایۃ
الجامعۃ فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ○ ومن يعمل مثقال ذرۃ

شرایرہ ○ (بخاری و مسلم و مسند امام احمد ص ۲۶۲ ج ۲)

ترجمہ = ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے گدھوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ اس بارے میں مجھ پر کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا۔ مگر یہ آیت جامع ہے۔ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ○ (بخاری و مسلم و مسند احمد)

حضرات اہل انصاف کو ان نظائر سے غالباً یہ اچھی طرح منکشف ہو گیا ہو گا کہ حضرت ابو ہریرہؓ جب کسی حدیث کے بعد کوئی آیت اشتہاداً ذکر فرماتے ہیں تو وہ مرفوع بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس حدیث کے بھی بعض رواۃ کو اس کے مرفوع ہونے کا گمان ہے جیسا کہ مسند امام احمد بن حنبل کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے:

حدثنا عبد اللہ قال حدثنی یزید انا سفیان عن الزہری عن
حنظلة عن ابی ہریرة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل
عیسیٰ بن مریم فیقتل الخنزیر و یحو الصلیب الی ان قال ثم تلا
ابو ہریرة وان من اهل الکتب الا لیومنن به قبل موته ویوم القیمہ یکون
علیہم شہیدا ○ فزعم حنظلة ان ابا ہریرة قال یومن به قبل موت عیسیٰ
فلا ادری ہذا کله حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوشی قالہ ابو ہریرة
انتہی۔

مسند ص ۲۹۰ ج ۲ خرچہ ابن کثیر ص ۲۳۵ ج ۲

یعنی حنظلہؓ کہتے ہیں کہ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ روایت از اول تا آخر سب حدیث مرفوع ہے یا آخری حصہ ابو ہریرہؓ کا قول ہے۔ واللہ اعلم۔

اور امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی کل روایتیں مرفوع ہیں گو بظاہر وہ موقوف ہوں۔

عن محمد بن سیرین انه کان اذا حدث عن ابی ہریرة فقیل له عن

النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حديث ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى (شرح معاني الآثار من ۱۱ ج ۱ باب سورة الحرة) اور شیخ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منشور کے ص ۲۴۲ ج ۲ پر اس روایت کو مرفوعاً نقل فرمایا ہے وہ یہ ہے:

اخرجه ابن مردويه عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم عدلا يقتل الدجال و يقتل الخنزير و يكسر الصليب و يضع الجزية و يفيض المال حتى يكون السجدة واحدة لله رب العلمين واقراوا ان شئتم و ان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته موت عيسى بن مريم ثم يعيدها ابو هريرة ثلث مرآة - انتهى -

اور ثم يعيدها كلفظ نهایت صاف طور سے اس کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس سے ما قبل کاسب حصہ مرفوع ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے اور اگر بالفرض یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ ابو ہریرہ ہی کا قول ہے تب بھی حجت ہے۔ ایک صحابیؓ کا صحابہ کرام کے مجمع میں کسی بات کو علی الاعلان کہنا اور صحابہ کرام کا اس پر سکوت فرمانا یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا اجماع بہ اتفاق علمائے امت حجت قاطعہ ہے اور خصوصاً "وہ بات کہ جو بار بار اور مختلف مجامع میں کسی گئی ہو اور صحابہ نے اس پر کوئی اعتراض نہ فرمایا ہو اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ یہ امر صحابہ کے نزدیک بالکل مسلم ہے اگر قابل انکار ہوتا تو ضرور صحابہ اس پر انکار فرماتے۔ صحابہ کرام سے یہ ناممکن ہے کہ ان کے سامنے کوئی قول منکر کہا جائے اور وہ اس پر انکار نہ فرمائیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہؓ کا قبل موتہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع کرنا اور صحابہ کرام سے مجامع اور مجالس میں اس کو بار بار بیان فرمانا اور کسی صحابیؓ کا اس پر انکار نہ کرنا اس امر کی قطعی اور صریح دلیل ہے کہ یہ امر تمام صحابہ کے نزدیک مسلم تھا۔ حافظ عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں:

وقد اختار كون الضمير للعیسیٰ ابن جریر و به قال جماعة من السلف و هو الظاهر لانه تقدم ذكر عیسیٰ و ذهب كثير من التابعین فمن بعد هم الى ان المراد قبل موت عیسیٰ كما روى عن ابن عباس قبل هذا۔

(بخ الباری)

ترجمہ = دونوں ضمیروں کا یعنی بہ اور موتہ کی ضمیروں کا حضرت عیسیٰ کی طرف راجع ہونا اس کو امام ابن جریر اور سلف کی ایک جماعت نے راجع قرار دیا ہیں اور قرآن کریم کا سیاق بھی اس کو متقاضی ہے۔ کیونکہ گزشتہ کلام میں حضرت عیسیٰ ہی کا ذکر ہے اور تابعین اور تبع تابعین کثرت سے اسی طرف ہیں کہ آیت کی مراد یہ ہے کہ قبل موت عیسیٰ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے سے پہلے جیسا کہ ابن عباسؓ سے مروی ہے۔

قول ثانی

آیت کی تفسیر میں دوسرا قول یہ ہے کہ بہ کی ضمیر تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور قبل موتہ کی ضمیر کتابی کی طرف راجع ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت اور ان کی عبدیت پر ایمان لے آتا ہے جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی قرأت وان من اهل الکتب الا لیومنن بہ قبل موتہم اس معنی کی صریح مؤید ہے یعنی نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور ایمان لے آئیں گے اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت پر۔ یعنی اس بات پر کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ خدا اور خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ مگر یہ ایمان چونکہ خروج روح کے وقت ہوتا ہے۔ اس لیے شرعاً معتبر نہیں اور نہ آخرت میں نجات کے لیے کافی ہے۔ اس قرأت میں بجائے قبل موتہ کے قبل موتہم بصیغہ جمع آیا ہیں جو صراحتاً اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قبل موتہم کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع ہے۔

لہذا اسی طرح دوسری قرات میں بھی قبل موتہ کی ضمیر کتابی کی طرف راجع ہونی چاہیے تاکہ دونوں قراتیں متفق ہو جائیں۔

(حافظ عسقلانی فتح الباری ص ۶۳۵ ج ۶ میں فرماتے ہیں)

ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة ابي بن كعب الا ليومنن بالضم به قبل موتهم اي اهل الكتب قال النووي معنى الكرية على هذا ليس من اهل الكتب اذ يحضره الموت الا آمن عند المعانية قبل خروج روحه بعيسى عليه السلام وانه عبدالله و لكن لا ينفعه هذا الايمان في تلك الحالة كما قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى نبت الان

ترجمہ = علماء کی ایک جماعت نے ابی بن کعب کی قرات کی بنا پر اس قول کو راجع قرار دیا ہے کہ موتہ کی ضمیر کتابی کی طرف راجع ہے اور اس قول کی بنا پر آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہر کتابی اپنی روح نکلنے سے پہلے اس بات پر ایمان لے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ مگر ایسی حالت میں ایمان اس کو نافع اور مفید نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وليست التوبة الخ یعنی جب موت آجائے تو اس وقت توبہ مقبول نہیں۔ (فتح الباری ص ۶۳۵ ج ۶)

ترجیح ارجح و تصحیح اصح

جمہور سلف اور خلف کے نزدیک آیت کی تفسیر میں راجح اور مختار قول اول ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے۔ اس لیے کہ اس قول کا دار و مدار ابی بن کعب کی قرات پر ہے اور یہ قرات شاذ ہے۔ کسی صحیح یا حسن سند سے بھی ثابت نہیں۔ سند کے راوی ضعیف اور مجروح ہیں۔ تفسیر ابن جریر میں اس قرات کی اسانید مذکور ہیں اور علی ہذا اس باب میں جس قدر روایتیں ابن عباس سے مروی

ہیں وہ بھی ضعیف ہیں امام جلیل و کبیر حافظ عماد الدین بن کثیرؒ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں:

ولولى هذه الاقوال بالصحة القول الاول وهو انه لا يبقى احد من اهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام الا امن به قبل موته اى قبل موت عيسى عليه السلام ولا شك ان هذا الذى قاله ابن جرير هو الصحيح لانه مقصود من سياق الاية وهذا القول هو الحق كما سنبينه بالدليل القاطع ان شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۳۳ ج ۳)

ترجمہ = حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحیح قول فقط یہی ہے کہ دونوں ضمیریں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور آیت کی تفسیر اس طرح کی جائے کہ آئندہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں تمام اہل کتاب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ایمان لے آئیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک رسول ہیں اور یہی ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا ہے اور کوئی شک نہیں کہ یہی صحیح اور درست ہے کیونکہ سیاق آیت سے عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر مقصود ہے اور یہی قول حق ہے جیسا کہ ہم اس کو دلیل قطعی سے ثابت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور دلیل قطعی ہے وہ احادیث متواترہ مراد ہیں کہ جن میں صراحتہً "یہ مروی ہے کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس وقت کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ایمان نہ لے آئے۔"

تطبیق و توفیق

جاننا چاہیے کہ دو قرأتیں دو مستقل آیتوں کا حکم رکھتی ہیں ابی بن کعب

کی قرأت سے ہر کتابی کا اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ کی نبوت پر ایمان لانا معلوم ہوتا ہے۔ اور قرأت متواترہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ آئندہ میں تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان دونوں قراتوں میں کوئی تعارض نہیں دونوں حق ہیں۔ ہر ایک قرأت بنزلہ مستقل آیت کے ہے جو حجت ہے۔ ہر کتابی اپنے مرنے کے وقت بھی حضرت مسیح کی نبوت پر ایمان لاتا ہے اور جب قیامت کے قریب حضرت مسیح آسمان سے نازل ہوں گے اس وقت بھی ہر کتابی حضرت مسیح علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئے گا۔ قرأت متواترہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور نزول کا ذکر ہے اور اہل کتاب کے اس ایمان کا ذکر ہے جو نزول کے بعد لائیں۔

اور ابی بن کعب کی قرأت شاذہ میں حضرت مسیح کی حیات اور نزول کا ذکر نہیں۔ نہ حیات کا ذکر ہے نہ وفات کا لفظ اہل کتاب کے اس ایمان کا ذکر ہے کہ جو اہل کتاب اپنی روح نکلتے وقت لاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر قرأت میں ایک جدا واقعہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ آلم غلبت الروم میں دو قراتیں ہیں۔ ایک معروف اور ایک مجہول اور ہر قرأت میں علیحدہ علیحدہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن حضرات صحابہؓ اور تابعینؒ سے یہ قرأت شاذہ منقول ہے وہ سب کے سب بالاتفاق حضرت مسیح علیہ السلام کے مجسدہ العنصری آسمان پر اٹھائے جانے اور قیامت کے قریب آسمان سے اترنے کے بھی قائل ہیں چنانچہ تفسیر در منشور میں ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور محمد بن الحنفیہ (۱) سے مروی ہے کہ جو لوگ حضرت مسیح کے نزول سے پہلے مریں گے وہ اپنی موت کے وقت حضرت مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو اہل کتاب حضرت مسیح کے زمانہ نزول کو پائیں گے وہ تمام حضرت مسیح پر حضرت مسیح کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ لہذا ابی بن کعبؓ کی قرأت نزول عیسیٰ سے پہلے مرنے والوں کے حق میں ہے اور قرأت متواترہ ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جو نزول کے بعد حضرت مسیح کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔

(۱) وہ روایت یہ ہے: اخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب قال قال لى الحجاج يا شهر آيت من كتاب الله ماقراتها الا اعتراض فى نفسى منها شى قال الله وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته واتى اوتى بالا سارى فاضرب اعناقهم ولا اسمع يقولون شيا فقلت رفعت اليك على غير وجهها ان النصرانى اذا خرجت روحه ضربت الملائكة من وجهه و من دبره وقالواى خبيث ان المسيح الذى زعمت انه الله و ابن الله او ثالث ثلاثة عبدالله و روحه و كلمة فيؤ من حين لا ينفعه ايمانه و ان اليهودى اذا خرجت نفسه ضربة الملائكة من قبله و دبره وقالواى خبيث ان المسيح الذى زعمت انك قتله عبدالله و روحه فيؤ من به حين لا ينفعه الايمان فاذا كان عند نزول عيسى آمنت به احياهم كما آمنت به موتاهم فقال من اين اخذتها فقلت من محمد بن على قال لقد اخذتها من معدنها قال شهر و ايم الله ما هدثنيه الا ولكنى احببت ان اغيظه (تفسير در مشور ص ۲۳۱ ج ۲)

پھر یہ کہ اہل کتاب جو اپنے مرنے سے پہلے ایمان لاتے ہیں وہ بھی یہی ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ ابھی فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ صحیح و سالم آسمان پر اٹھا لیے گئے جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

اخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن شهر بن حوشب فى قوله تعالى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته عن محمد بن على بن ابي طالب و هو ابن الحنفية قال قال ليس من اهل الكتاب احد الا اتته الملكة يضربون وجهه و دبره ثم يقال يا عدد الله ان عيسى روح الله و كلمة كذبت على الله و زعمت انه الله ان عيسى لم يمت و انه رفع الى السماء و هو نازل قبل ان تقوم الساعة فلا يقى يهودى ولا نصرانى الا امن به انتهى۔

(تفسير در مشور ص ۳۳۱ ج ۲)

ترجمہ = عبد بن حمید اور ابن منذر نے روایت شہر بن حوشب محمد بن علی بن الحنفیہ سے آیت وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به الخ کی تفسیر اس طرح روایت کی ہے کہ نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر آتے ہیں فرشتے اس کی

موت کے وقت اور خوب مارتے ہیں اس کے چہرے اور سرین پر اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے دشمن بے شک عیسیٰ اللہ کی خاص روح ہیں اس کا کلمہ ہیں۔ تو نے اللہ پر جھوٹ بولا اور گمان کیا کہ عیسیٰ اللہ ہیں تحقیق عیسیٰ ابھی نہیں مرے اور تحقیق آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اور وہ قیامت سے پہلے نازل ہوں گے پس اس وقت کوئی یہودی اور نصرانی باقی نہ رہے گا مگر حضرت مسیح پر ضرور ایمان لائے گا۔

عجب نہیں کہ جس طرح مشرکین کو مرنے کے وقت عقیدہ فاسدہ پر تو بیخ اور سرزنش کی جاتی ہے اسی طرح اہل کتاب کو بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ کی بنا پر تو بیخ کی جاتی ہو۔ کما قال تعالیٰ ان الذین توفہم الملکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کننا نعمل من سوء ط

امام ابن جریر اور ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب موت کا نزول ہوتا ہے تو حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے جب تک دین حق اور دین باطل کا امتیاز نہ ہو جائے اس وقت تک روح نہیں نکلتی۔ اسی طرح ہر کتابی اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آتا ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس پر حق واضح ہو جاتا ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی تیسری دلیل

قال اللہ عزوجل

ومکرہوا ومکرہوا واللہ خیر الماکرین ○ اذ قال اللہ یعیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی و مطہرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیمۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون ○

ترجمہ و تفسیر

یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پکڑنے اور قتل کرنے کی خفیہ تدبیریں کیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور عصمت کی ایسی تدبیر فرمائی جو ان کے وہم و گمان سے بھی بالا اور برتر تھی وہ یہ کہ ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا اور یہودی جب گھر میں داخل ہوئے تو اس ہم شکل کو پکڑ کر لے گئے اور عیسیٰ سمجھ کر اس کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والے ہیں۔ کوئی تدبیر اللہ کی تدبیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اے عیسیٰ تم گھبراؤ نہیں تحقیق میں تم کو تمہارے ان دشمنوں سے بلکہ اس جہان ہی سے پورا پورا لے لوں گا۔ اور بجائے اس کے کہ یہ ناخبر تھے کہ پکڑ کر لے جائیں اور صلیب پر چڑھائیں میں تجھ کو اپنی پناہ میں لے لوں گا اور آسمان پر اٹھاؤں گا کہ جہاں کوئی پکڑنے والا پہنچ ہی نہ سکے اور تجھ کو ان ناپاک اور گندوں سے نکال کر پاک اور صاف اور مطہر اور معطر جگہ میں پہنچا دوں گا کہ تجھ کو کفر اور عداوت کا رانچہ بھی محسوس نہ ہو اور یہ ناخبر تھے کہ بے عزت کر کے تیرے اور تیرے دین کے اتباع سے لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ اور میں اس کے بالمقابل تیرے پیروؤں کو تیرے کفر کرنے والوں پر قیامت تک غالب اور فائق رکھوں گا۔ تیرے خدام اور غلام ان پر حکمران ہوں گے اور یہ ان کے محکوم اور باج گزار ہوں گے۔ قیامت کے قریب تک یوں ہی سلسلہ رہے گا کہ نصاریٰ ہر جگہ یہود پر غالب اور حکمران رہیں گے اور اپنی ذلت و مسکنت کا اور حضرت مسیح بن مریم کے نام لیاؤں کی عزت و رفعت کا مشاہدہ کرتے رہیں گے اور اندر سے تلملاتے رہیں گے یہاں تک کہ جب قیامت قریب آجائے گی اور دجال کو جیل خانہ سے چھوڑ دیا جائے گا تاکہ یہود بے بہود اپنی عزت اور حکومت قائم کرنے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہوئیں تو یکایک عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھد جاہ و جلال آسمان سے

نازل ہوں گے اور دجال کو جو یہود کا بادشاہ بنا ہوا ہو گا اس کو تو خود اپنے دست مبارک سے قتل فرمائیں گے اور باقی یہود کا قتل و قتال اور اس جماعت کا بالکل کلبہ استیصال امام مہدی اور مسلمانوں کے سپرد ہو گا۔ دجال کے متبعین کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ نزول سے پہلے یہود اگرچہ حضرت مسیح کے غلام اور محکوم تھے مگر زندہ رہنے کی تو اجازت تھی مگر حضرت مسیح کے نزول کے بعد زندہ رہنے کی بھی اجازت نہ رہے گی ایمان لے آؤ یا اپنے وجود سے بھی دست بردار ہو جاؤ۔ اور نصاریٰ کو حکم ہو گا کہ میری الوہیت انیت کے عقیدہ سے تائب ہو جاؤ اور مسلمانوں کی طرح مجھ کو اللہ کا بندہ اور رسول سمجھو اور صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ کو ختم کریں گے اور سوائے دین اسلام کے کوئی دین قبول نہ فرمائیں گے۔

الغرض نزول کے بعد اس طرح تمام اختلافات کا فیصلہ فرمائیں گے جیسا کہ آئندہ آیت میں اس طرف اشارہ فرماتے ہیں ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون ○ پھر تم سب کا میری طرف لوٹنا ہے پس اس وقت میں تمہارے اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ وہ فیصلہ یہ ہو گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے یہود کا یہ زعم باطل ہو جائے گا کہ ہم نے حضرت مسیح کو قتل کر دیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ اور نصاریٰ کا یہ زعم باطل ہو گا کہ وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں اور حیات مسیح کے مسئلہ کا فیصلہ ہو جائے گا اور روز روشن کی طرح تمام عالم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور اسی جسم کے ساتھ آسمان سے اترے ہیں۔

لفظ تونی کی تحقیق

قبل اس کے کہ ہم ان آیات کی مفصل تفسیر کریں لفظ تونی کی تحقیق ضروری سمجھتے ہیں۔

تونی وفا سے شتق ہے جس کے معنی پورا کرنے کے ہیں۔ یہ مادہ خواہ کسی شکل اور کسی ہیئت میں ظاہر ہو مگر کمال اور تمام کے معنی کو ضرور لیے ہوئے ہوگا۔ کما قال تعالیٰ آوفوا بعهدی لوف بعهدکم تم میرے عہد کو پورا کرو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وقال تعالیٰ ولو فوالککیل اذا کلتم ماپ کو پورا کرو جب تم ماپو یوفون بالننر اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں واتماتوفون اجور کم یوم القیمۃ جزایں نیست کہ تم پورا پورا اجر قیامت کے دن دیے جاؤ گے۔ یعنی کچھ تھوڑا بہت اجر تو دنیا میں بھی مل جائے گا مگر پورا پورا اجر قیامت کے دن ہی ملے گا۔

اور لفظ تونی جو اسی مادہ یعنی وفا سے شتق ہے اس کے اصلی اور حقیقی معنی اخذ الشتی وافیا کے ہیں یعنی کسی چیز کو پورا پورا لے لینا کہ باقی کچھ نہ رہے۔ قرآن اور حدیث اور کلام عرب میں جس جگہ بھی یہ لفظ مستعمل ہوا ہے سب جگہ تونی سے استیفاء اور اکمال اور اتمام ہی کے معنی مراد لیے گئے ہیں۔ تونی سے اگر کسی جگہ موت کے معنی مراد لیے گئے ہیں تو وہ کنایہ "اور لڑو" مراد لیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ استیفاء اور اتمام عمر کے لیے موت لازم ہے۔ تونی عین موت نہیں بلکہ موت تو تونی معنی اکمال عمر اور اتمام زندگی کا ایک ثمرہ اور نتیجہ ہے چنانچہ لسان العرب ص ۲۸۰ ج ۲۰ میں ہے:

توفی المیت استیفاء مدته النی و فیت له و عدد ایامه و شهوره و اعوامه فی الدنیا یعنی میت کے تونی کے معنی یہ ہیں کہ اس کی مدت حیات کو پورا کرنا اور اس کی دنیاوی زندگی کے دنوں اور مہینوں اور سالوں کو پورا کر دینا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کا وصال یا انتقال ہو گیا۔ وصال کے اصل معنی ملنے کے ہیں اور انتقال کے اصل معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانے کے ہیں۔ بزرگوں کی موت کو موت کے لفظ سے تعبیر کرنا عرف میں خلاف ادب سمجھا جاتا ہے اس لیے بجائے موت کے لفظ وصال اور انتقال مستعمل ہوتا ہے۔ یعنی اپنے رب سے جا ملے اور دار فانی سے دار جاودانی کی طرف انتقال فرمایا، اور کبھی اس طرح

کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ رحلت فرمائے عالم آخرت ہوئے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس عالم سے رخصت ہوا یا فلاں شخص گزر گیا۔ تو کیا اس استعمال سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وصال اور انتقال اور رحلت اور رخصت وغیرہ ان الفاظ کے حقیقی اور اصلی معنی موت کے ہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اصلی اور حقیقی معنی تو اور ہیں۔ تشریف اور حکیم کی غرض سے بزرگوں کی موت کو وصال اور انتقال کے لفظ سے تعبیر کر دیا گیا۔ اسی طرح تونی کے لفظ کو سمجھئے کہ اصلی اور حقیقی معنی تو استیفاء اور اکمال کے ہیں۔ مگر بعض مرتبہ بفرض تشریف و حکیم کسی کی موت کو تونی کے لفظ سے کنایت "تعبیر کر دیا جاتا ہے جس سے قادیان اور ربوہ کے احمق اور نادان یہ سمجھ گئے کہ تونی کے حقیقی معنی ہی موت کے ہیں۔

علامہ زعفری اساس البلاغہ ص ۳۰۴ ج ۲ میں تصریح فرماتے ہیں کہ تونی کے حقیقی اور اصلی معنی استیفاء اور اکمال کے ہیں اور موت کے معنی مجازی ہیں:

وفی بالعهد ولو فی بہ وهو وفی من قوم وهم لوفیاء ووفیاء واستوفیاء ووفیاء استکملہ ومن المجاز توفی وتوفی اللہ ادرکة الوفاة

اور علی ہذا علامہ زبیدی تاج العروس شرح قاموس ۳۹۴ ج ۱۰ میں فرماتے

ہیں:

وفی الشی ووفیاءم وکثر فہو وفی وواف بمعنی واحد وکل شی بلغ الکمال فقذوفی و تم ومنہ لو فی فلانا حقہ اذا عطاہ وافیاء ووفیاء فاستوفی ووفیاء ای لم یدع شیاً فہما مطاوعان لاوفیاء ووفیاء و من المجاز ادرکة الوفاة ای المنیة والموت وتوفی فلان اذا مات وتوفی اللہ عزوجل اذا قبض نفسہ آہ۔

اب ہم چند آیتیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جس سے صاف طور پر یہ معلوم ہو جائے گا کہ تونی کی حقیقت موت نہیں بلکہ تونی موت کے علاوہ کوئی اور شے ہے:

آیت اول

اللہ یتوفی الانفس حین موتہا و التی لم تمت فی منامہا

فیمسک التی قضی علیہا الموت و یرسل الاخری الی اجل مسمی

ترجمہ = یعنی اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے روحوں کو جب وقت ہو ان کے مرنے کا اور جو نہیں مرے ان کو قبض کرتا ہے وقت نیند کے، پس روک لیتا ہے ان کو جن پر مقدر کی ہے اور واپس بھیج دیتا ہے ان کو وقت مقرر تک۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ توفیٰ بعینہ موت کا نام نہیں بلکہ توفیٰ موت کے علاوہ کوئی اور شے ہے کہ جو کبھی موت کے ساتھ جمع ہوتی ہے اور کبھی نیند کے ساتھ یعنی تمہاری جانیں خدا کے قبضہ اور تصرف میں ہیں۔ ہر روز سوتے وقت تمہاری جانیں کھینچتا ہے اور پھر واپس کر دیتا ہے۔ مرنے تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اور جب موت کا وقت ہوتا ہے تو پھر جان کھینچنے کے بعد واپس نہیں کی جاتی۔

خلاصہ یہ کہ آیت ہذا میں توفیٰ کی موت اور نیند کی طرف تقسیم اس امر کی صریح دلیل ہے کہ توفیٰ اور موت الگ الگ چیزیں ہیں اور حین موتہا کی قید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ توفیٰ موت کے وقت ہوتی ہیں عین موت نہیں ورنہ خود شے کا اپنے لیے طرف ہونا لازم آتا ہے۔ لسان العرب سے ہم ابھی نقل کر چکے ہیں کہ توفیٰ کے معنی استیفاء اور اشکال یعنی کسی شے کو پورا پورا لینے کے ہیں صاحب لسان توفیٰ کی حقیقت بیان کر دینے کے بعد آیت موصوفہ کی تفسیر فرماتے ہیں:

ومن ذلک قوله عز وجل اللہ یتوفی الانفس حین موتہا ای یستوفی فی مدد آجالہم فی الدنیا و اما توفی النائم فهو استیفاء وقت عقلہ وتمیز الی ان نام۔ (لسان العرب ص ۲۸۰ ج ۲۰)

ترجمہ = یعنی مرنے کے وقت جان اور روح پوری پوری لے لی جاتی ہے اور نیند کے وقت عقل اور ادراک اور ہوش اور تمیز کو پورا پورا لے لیا جاتا ہے۔

حاصل یہ کہ توفیٰ کے معنی تو وہی استیفاء اور اخذ الشیء و افیاء یعنی شے

کو پورا پورا لینے ہی کے رہے۔ تونی میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں صرف تونی کے متعلق میں تبدیلی ہوئی۔ ایک جگہ تونی کا متعلق موت ہے اور دوسری جگہ نوم (نیند)

آیت دوم

وهو الذى يتوفكم بالليل

ترجمہ = وہی ہے کہ جو تم کو رات میں پورا پورا کھینچ لیتا ہے۔

اس مقام پر بھی تونی موت کے معنی میں مستعمل نہیں ہوا بلکہ نیند کے موقع پر تونی کا استعمال کیا گیا۔ حالانکہ نوم میں قبض روح پورا نہیں ہوتا۔

آیت سوم

حتى يتوفهن الموت

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں

تاآں کہ عمرایشاں را تمام کند مرگ

یعنی یہاں تک کہ موت ان کی عمر تمام کر دے۔

اس آیت میں تونی کے معنی اتمام عمر اور اکمال عمر کے لیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن کریم میں جا بجا موت کے مقابلہ میں حیات کو ذکر فرمایا ہے۔ تونی کو حیات کے مقابل نہیں ذکر فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہے کہ تونی کی حقیقت موت نہیں۔ ورنہ اگر تونی کی حقیقت موت ہوتی تو جس طرح جا بجا موت کے مقابل حیات کا ذکر کیا جاتا ہے اسی طرح تونی کے مقابل بھی حیات کا ذکر کیا جاتا۔ چند آیتیں ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جن میں حق تعالیٰ نے حیات کو موت کے مقابل ذکر فرمایا ہے تونی کے مقابل ذکر نہیں فرمایا۔ قال تعالیٰ (۱) یحیی الارض بعد موتها (۲) قال تعالیٰ کفاتا احیاء و امواتا (۳) یحییکم ثم یمیتکم (۴) هو امات و احیی (۵) یخرج الحیی من المیت و یخرج المیت من الحیی (۶) اموات غیر احیاء (۷) و توکل علی الحیی الذی لایموت (۸) لایموت فیہا ولا یحیی (۹) کذلک یحیی اللہ الموتی (۱۰) یحیی و یمیت و هو

علیٰ کل شی قدیر ○

ان آیات اور آئمہ لغت کی تصریحات سے یہ بات بخوبی منکشف ہو گئی کہ تونی کی حقیقت موت نہیں بلکہ تونی ایک جنس کا درجہ ہے جس کے تحت میں کئی فرد مندرج ہیں۔ جیسے حیوان ایک جنس ہے اور انسان اور فرس اور بقر وغیرہ اس کے افراد ہیں۔ حیوانیت کبھی انسانیت میں ہو کر پائی جاتی ہے اور کبھی فرس کے ساتھ وغیر ذلک۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لفظ التوفی فی لغت العرب معناه الاستیفاء والقبض وذلک
ثلاثة انواع احدها توفی النوم والثانی توفی الموت والثالث توفی
فی الروح والبدن جميعا: (الجواب الصحیح ص ۲۷۲۸۳)

ترجمہ = لغت عرب میں تونی کے معنی استیفاء پورا پورا لینے کے ہیں اور تونی کی تین قسمیں ہیں ایک تو نوم یعنی نیند اور خواب کی تونی، اور دوسری تونی موت کے وقت روح کو پورا پورا قبض کر لینا۔ تیسری تونی الروح والبدن یعنی روح اور جسم کو پورا پورالے لینا۔

یعنی روح اور جسم دونوں کو آسمان پر اٹھا لینا۔ اور جن آئمہ لغت نے تونی کے معنی قبض روح کے لکھے ہیں انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ فقط قبض روح کو تونی کہتے ہیں اور اگر قبض روح مع البدن ہو تو اس کو تونی نہیں کہتے۔ بلکہ اگر قبض روح کے ساتھ قبض بدن بھی ہو تو بدرجہ اولیٰ تونی ہوگی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ تونی ایک جنس ہے اور نوم (نیند) اور موت اور رفع جسمانی یہ اس کے انواع اور اقسام ہیں اور یہ مسلم ہے کہ نوع اور قسم معین کرنے کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری اور لازمی ہے اس لیے جہاں لفظ تونی کے ساتھ موت اور اس کے لوازم کا ذکر ہو گا اس جگہ تونی سے موت مراد لی جائے گی جیسے

قل یتوفکم ملک الموت الذی وکل بکم

ترجمہ = اے ہمارے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ پورا پورا پکڑے گا تم کو وہ موت کا فرشتہ جو تم پر مسلط کیا گیا ہے۔

اس مقام پر ملک الموت کے قرینہ سے تونی سے موت مراد لی جائے گی اور جس جگہ تونی کے ساتھ نوم یعنی خواب اور اس کے متعلقات کا ذکر ہو گا اس جگہ تونی سے نوم کے معنی مراد لیے جائیں گے جیسے:

وهو الذی یتوفکم باللیل ترجمہ = وہی خدا تم کو رات میں پورا پورا لیتا ہے

لیل کے قرینہ سے معلوم ہوا کہ اس جگہ تونی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔ ابونواس کہتا ہے ع

فلما توفاه رسول الکرسی

یعنی نیند کے قاصد نے اس کو پورا پورا لے لیا یعنی سلا دیا۔ اس شعر میں بھی تونی سے نوم کے معنی مراد ہیں اور جس جگہ تونی کے ساتھ رفع کا ذکر ہو یا اور کوئی قرینہ ہو تو وہاں تونی سے رفع جسمانی مراد ہو گا۔ اور مرزا صاحب بھی 'دعویٰ مسیحیت سے پہلے تونی کے معنی موت کے نہیں سمجھے تھے جیسا کہ براہین احمدیہ (ص ۵۵۷ روحانی خزائن ص ۶۶۳ ج ۱) پر لکھتے ہیں کہ انہی متوفیک یعنی میں تجھ کو کار خیر بخشوں گا اور اسی کتاب کے (۳۹۹- اور ص ۵۰۰ روحانی خزائن ص ۵۹۳ ج ۱) پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ رہنا اور نہایت عظمت اور جلال کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آنا تسلیم کیا ہے۔

غرض یہ کہ یہ ثابت ہو گیا کہ تونی کے حقیقی معنی استیفاء اور انخذ الشی و افسیا یعنی کسی شے کو پورا پورا لینے کے ہیں اور یہ کسی کتاب میں نہیں کہ تونی کے حقیقی معنی موت کے ہیں۔ اگر کسی مرزائی سے ممکن ہے تو لغت کی کوئی کتاب لا دکھا دے، جس میں یہ تصریح ہو کہ تونی کے حقیقی معنی موت کے ہیں۔ بلکہ ہم دعویٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں.... جہاں کہیں بھی لفظ تونی آیا ہے سب جگہ تونی کے اصلی اور حقیقی ہی معنی مراد ہیں یعنی استیفاء اور استکمال۔ مگر چونکہ عمر کے پورا ہو جانے کے بعد موت کا تحقق لازمی ہے اس لیے مجازاً "یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں موت کے معنی مراد ہیں۔"

خلاصہ کلام

یہ کہ توفیٰ کے اصلی معنی پورا وصول کرنے اور ٹھیک لینے کے ہیں۔ قرآن کریم نے لفظ توفیٰ کو نوم اور موت کے معنی میں اس لیے استعمال کیا کہ اہل عرب پر موت اور نوم کی حقیقت واضح ہو جائے۔ جاہلیت والے اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھے کہ موت اور نوم میں حق تعالیٰ کوئی چیز بندہ سے لیتے ہیں۔ عرب کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان مر کر نیست اور نابود ہو جاتا ہے۔ موت کو فنا اور عدم کے مراد سمجھتے تھے اس لیے وہ بعث اور نشاۃ ثانیہ کے منکر تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے رو کے لیے ارشاد فرمایا قل یتوفکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون ○ آپ ان منکرین بعث سے کہہ دیجئے کہ مر کر تم فنا نہیں ہوتے بلکہ موت کا فرشتہ تم سے اللہ کا پورا پورا حق وصول کر لیتا ہے یعنی وہ ارواح کہ جو اللہ کی امانت ہیں وہ تم سے لے لی جاتی ہیں اور اللہ کے یہاں محفوظ رہتی ہیں۔ قیامت کے دن پھر یہی ارواح تمہارے اجسام کے ساتھ متعلق کر کے حساب کے لیے پیشی ہوگی۔

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو دھڑ سمجھتے ہو کہ خاک میں رل گئے تم جان ہو وہ فرشتہ لے جاتا ہے فنا نہیں ہوتے“
شاہ صاحب نے اپنے ان مختصر الفاظ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس کی ہم نے وضاحت کی۔ اس آیت میں بھی توفیٰ کے معنی موت کے نہیں بلکہ حق وصول کرنے کے ہیں۔ موت دینے والا تو صرف وہی محی اور ممیت ہے ملک الموت تو اللہ کا حق وصول کرنے والا ہے۔

آیت توفیٰ کی تفسیر

جب توفیٰ کے معنی معلوم ہو گئے تو اب آیت توفیٰ کی تفسیر سینے۔ یہود بے بہود نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی تدبیریں شروع کیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو محسوس فرمایا کما قال تعالیٰ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی فرمائی کہ

اے عیسیٰ تم گھبراؤ مت۔ یہ تو تدبیریں کر رہی رہے ہیں ہم بھی تدبیریں کر رہے ہیں
عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔

اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے ان پانچ وعدوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ
تعالیٰ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے ایک تونی، دوم رفع اور سوم تطہیر
من الکفار یعنی کافروں سے پاک کرنا۔ اور چہارم متبعین کا منکرین پر قیامت تک
غالب اور فائق رہنا۔ اور پنجم فیصلہ اختلافات، اول کے تین وعدے حضرت عیسیٰ
علیہ السلام کی ذات بابرکات کے متعلق ہیں اور چوتھا خدام کے متعلق ہے اور
پانچواں فیصلہ کے متعلق ہے جس کا تعلق سب سے ہے۔

۱۔ وعدہ تونی

جہور صحابہؓ اور تابعینؓ اور عامہ سلف و خلف اس طرف گئے ہیں کہ آیت
میں تونی سے موت کے معنی مراد نہیں بلکہ تونی کے اصلی اور حقیقی معنی مراد ہیں یعنی
پورا پورا اور ٹھیک ٹھیک لے لینا۔ کیونکہ مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلی اور
تسکین ہے کہ اے عیسیٰ تم ان دشمنوں کے جھوم اور زغہ سے گھبراؤ نہیں، میں تم
کو پورا پورا روح اور جسم سمیت ان نابکاروں سے چھین لوں گا۔ یہ نابکار اور
ناخوار اس لائق نہیں کہ تیرے وجود باوجود کو ان میں رہنے دیا جائے۔ ان کی ناقدر
دانی اور ناپاسی کی سزا یہ ہے کہ ان سے اپنی نعمت واپس لے لی جائے۔ حضرت
مولانا الشاہ سید محمد انور نور اللہ وجہ یوم القیامۃ و نضر (آمین) فرماتے ہیں۔

وجوه لم تکن اهلا لخیر

فیا خذ منهم عیسیٰ الیہ

یہ چہرے خیر کے قابل نہ تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان

سے لے کر اپنی طرف کھینچ لیا۔

ویرفعہ و لا یقیہ فیہم

کاخذ الشی لم یشکر علیہ

اور اپنی طرف اٹھالیا اور ان میں نہ چھوڑا۔ عیسیٰ السلام کو ان سے ایسا لے لیا جیسا کہ اس شے کو لے لیا جاتا ہے کہ جس کی ناقدری کی جائے۔

وحیز کما یجازا لشی حفظا

و آواہ الی ماوی لدیہ

اور ان سے چھین کر اپنے پاس محفوظ رکھا اور اپنے یہاں ان کو ٹھکانا دیا۔ اس مقام پر موت کے معنی مناسب نہیں اس لیے کہ جب ہر طرف سے خون کے پیاسے اور جان کے لیوا کھڑے ہوئے ہوں، تو اس وقت تسلی اور تسکین خاطر کے لیے موت کی خبر دینا یا موت کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ دشمنوں کا تو مقصود ہی جان لینا ہے اس وقت تو مناسب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ تم گھبراؤ نہیں ہم تم کو تمہارے دشمنوں کے نزعہ سے صبح و سالم نکال لے جائیں گے۔ تمہارا وبال بھی بیکانہ ہو گا ہم تم کو دشمنوں کے درمیان سے اس طرح اٹھالیں گے کہ تمہارے دشمنوں کو تمہارا سایہ بھی نہ ملے گا آیت میں اگر توفی سے موت کے معنی مراد ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو تسلی نہ ہوگی۔ البتہ یہود کی تسلی ہوگی اور معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ اے یہود! تم بالکل نہ گھبراؤ اور نہ مسیح کے قتل کی فکر کرو۔ میں خود ہی ان کو موت دوں گا اور تمہاری تمنا اور آرزو پوری کروں گا۔ خود بخود تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی۔ تمہیں کوئی مشقت بھی نہ ہوگی۔

(۲)

نیز یہ کہ توفی معنی الموت تو ایک عام شے ہے جس میں تمام مومن اور کافر، انسان اور حیوان سب ہی شریک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے جو خاص طور پر ان سے توفی کا وعدہ فرمایا گیا؟ قرآن کریم کے نتیجے اور استقراء سے معلوم ہوتا ہے کہ توفی کا وعدہ حق تعالیٰ نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی سے نہیں فرمایا۔

(۳)

نیز مکروا و مکر اللہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ توفی سے پورا پورا لیتا اور آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہو کیونکہ باجماع مفسرین (۱) و مکروا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور صلب کی تدبیریں مراد ہیں اور مکر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی تدبیر مراد ہے اور مکر اللہ کو مکروا کے مقابلہ میں لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ یہود کا کر اور ان کی تدبیر تو نیست اور ناکام ہوئی اور اللہ سبحانہ کا کر اور اس کی تدبیر غالب آئی۔ واللہ غالب علی امرہ جیسے:

(۱) قوله تعالى و مکروا ای بالقتل و مکر اللہ ای بالرفع الی السماء کما هو مصرح فی التفسیر الکبیر ص ۳۶۳ ج ۲۔ ابن کثیر ص ۲۲۹ ج ۲۔ در منثور ص ۳۶ ج ۲۔ کشاف ص ۳۰۶ بیضاوی ص ۱۱ ج ۲۔ بحر الیظ ص ۳۷۲ ج ۲۔ مدارک ص ۲۰۵ ج ۲۔ روح المعانی ص ۱۵۸ الجزء ۳ والراج المنیر ص ۲۱۵ ج ۱۔ تاریخ کمال ابن الاثیر ص ۱۱۰ ج ۱۔ جلالین ص ۵۰ ابوالمنصور ص ۱۳۵۔ ص ۱۔

انہم یکیدون کیدا و آکید کیدا ○

ترجمہ = وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے:

قالوا تقا سمو باللہ لنبینہ و اہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا
مہلک اہلہ و انا الصدقون ○ و مکروا مکروا و مکرنا مکروا ہم لا
یشعرون ○ فانظر کیف کان عاقبہ مکرہم انا دمرنہم و قومہم
اجمعین ○

ترجمہ = قوم ثمود نے آپس میں کہا کہ قسمیں اٹھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح (علیہ السلام) اور ان کے متعلقین کو قتل کر ڈالیں اور بعد میں ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس موقع پر حاضر نہ تھے اور ہم سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح انہوں نے صالح علیہ السلام کے قتل کے مشورے اور تدبیر کیں اور ہم نے بھی ان کے بچانے کی خفیہ تدبیر کی

کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی وہ یہ کہ پہاڑ سے ایک بھاری پتھر لڑھک کر ان پر آگرا جس سے وہ کرب مر گئے (کما فی الدر المنثور) دیکھ لو کہ ان کے مکر کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے اپنے مکر اور تدبیر سے سب کو عارت کر ڈالا۔“ اسی طرح اس آیت میں مکروا کے بعد ذکر اللہ مذکور ہے۔ جس سے حق جل شانہ کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہود نے جو قتل کی تدبیر کی وہ تو کارگر نہ ہوئی مگر ہم نے جو ان کی حفاظت کی زالی اور انوکھی تدبیر کی وہی غالب ہو کر رہی۔ پس اگر روح اور جسم کا پورا پورا ایلتا مراد نہ لیا جائے بلکہ توفی سے موت مراد لی جائے تو یہ کوئی ایسی تدبیر نہیں جو یہود کی مغلوبی اور ناکامی کا سبب بن سکے۔ بلکہ موت کی تدبیر تو یہود کی عین تمنا اور آرزو کے مطابق ہے۔ کفار مکہ نے نبی اکرم ﷺ کے قتل کی تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی حفاظت کی تدبیر کی کما قال تعالیٰ ویمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین

○ کفار مکہ آپ کے قتل کی تدبیریں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کی تدبیر کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو کفار مکہ کے منصوبوں سے آگاہ کیا اور صحیح سالم آپ ﷺ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرا دی۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین ○ یعنی یہود نے آپ کے قتل کی تدبیریں کیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی تدبیر کی کہ دشمنوں کے ہاتھ سے صحیح و سالم نکال کر آسمان کی طرف ہجرت کرا دی۔ اب اس ہجرت کے بعد نزول اور تشریف آوری زمین کے فتح کرنے کے لیے ہوگی۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ ہجرت کے کچھ عرصہ بعد مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لائے اور تمام اہل مکہ مشرف باسلام ہوئے۔ اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام زمین کو فتح کرنے کے لیے نازل ہوں گے تو تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے بر رفع الی السماء۔

وعدہ دوم

کما قال تعالیٰ ورافعک الی

یعنی اے عیسیٰ میں تم کو اپنی جانب اٹھاؤں گا جہاں کسی انسان کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی جہاں میرے فرشتے رہتے ہیں وہاں تم کو رکھوں گا۔ اس آیت میں رفع سے رفع جسمانی مراد ہے۔ اس لیے کہ:

(۱) رافعک میں خطاب جسم مع الروح کو ہے۔

(۲) رفع درجات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے حاصل تھا اور

رفع روحانی بصورت موت، یہ مرزا صاحب کے زعم کے مطابق خود... متوفیک سے معلوم ہو چکا ہے۔ لہذا دوبارہ ذکر کرنا موجب تکرار ہے۔

(۳) نیز رفع روحانی ہر موصالح اور نیک بخت کی موت کے لیے لازم ہے

اس کو خاص طور پر بصورت وعدہ بیان کرنا بے معنی ہے۔

(۴) نیز باتفاق محدثین و مفسرین و مورخین یہ آیتیں نصارائے نجران کے

مناظرہ اور ان کے عقائد کی اصلاح کے بارے میں اتری ہیں اور ان کا عقیدہ یہ تھا

کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے اور پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر

اٹھائے گئے۔ لہذا اگر رفع الی السماء کا عقیدہ غلط اور باطل تھا تو قرآن نے جس

طرح عقیدہ انیت اور عقیدہ تثلیث اور عقیدہ قتل اور صلیب کی صاف صاف

لفظوں میں تردید کی، تو اسی طرح رفع الی السماء کے عقیدہ کی بھی صاف صاف

لفظوں میں تردید ضروری تھی اور جس طرح و ماقتلوہ اور ماصلبوہ کہہ کر

عقیدہ قتل و صلب کی تردید فرمائی اسی طرح بجائے بل رفعہ اللہ کہے مارفعہ اللہ فرما

کر عقیدہ رفع الی السماء کی تردید ضروری تھی۔ سکوت اور مبہم الفاظ سے نصاریٰ

کی تو کیا اصلاح ہوتی مسلمان بھی اشبہا اور گمراہی میں پڑ گئے۔

نیز اگر تونی اور رفع سے موت اور رفع روحانی مراد ہو تو وعدہ تطہیر من

الکفار اور وعدہ کف عن بنی اسرائیل کی کوئی حقیقت اور اصلیت باقی نہیں رہتی

جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے واذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جنہم بالبینت اس آیت میں حق جل شانہ کے ان انعامات اور احسانات کا ذکر ہے کہ جو قیامت کے دن حق جل شانہ بطور امتنان عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائیں گے ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ تجھ کو نبی اسرائیل کی دست درازی سے محفوظ رکھا۔

وعدہ سوم

ومطہرک من الذین کفروا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ میں تجھ کو اپنے اور تیرے دشمنوں یعنی کافروں سے پاک کروں گا۔ اور ان کے ناپاک اور نجس پڑوس میں تجھ کو نہیں رہنے دوں گا بلکہ نہایت مطہر اور معطر جگہ میں تجھ کو بلا لوں گا۔ لفظ مطہرک، کفر اور کافروں کی نجاست کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال فرمایا۔ کما قال تعالیٰ انما المشرکون نجس یعنی یہ نجس اور گندے آپ کے جسم مطہر کے قریب بھی نہ آنے پائیں گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔ واذ کففت بنی اسرائیل عنک اور اس وقت کو یاد کر، کہ جب بنی اسرائیل کو تیرے پاس آنے سے بھی روک دیا۔ پس اگر خواستہ قتل اور صلب میں کامیاب ہو گئے تو پھر اس تطہیر اور کف کے وعدہ اور انعام کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہتی۔

چنانچہ تفسیر در منشور ص ۳۲ ج ۲ میں حسن بصریؒ سے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں مروی ہے یعنی ومخلصک من الیہود فلا یصلون الی قتلک یعنی تطہیر من الکفار سے یہ مراد ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو یہود سے چھوڑاؤں گا اور ان کو تیرے قتل تک کبھی رسائی نہ ہوگی اور اذ کففت بنی اسرائیل الایۃ کی آیت میں ایک خاص لطافت ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی محفوظیت کو اس عنوان سے بیان فرمایا کففت بنی اسرائیل عنک اور کففت بمعنی نجسیت کا مفہول بہ بنی اسرائیل کو قرار دیا اور لفظ عنک بعد میں ذکر فرمایا جس کا مطلب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو تیرے سے دور رکھا۔ ان کو تیرے قریب بھی آنے نہ دیا کہ

تھے ہاتھ بھی لگا سکیں۔ لفظ کف بھی تبعد کے معنی میں ہے اور لفظ عن بھی بعد اور مجاوزۃ کے بیان کے لیے آتا ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ اذنجینک عن بنی اسرائیل کہ تجھ کو بنی اسرائیل سے نجات دی اور ان کے ہاتھوں نے تجھ کو چھڑایا۔ جیسا کہ دوسری جگہ ہے واذا نجینکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب۔ اے بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو فرعونوں کے عذاب سے بچایا اور نجات دی، اس لیے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عنوان اختیار فرماتے تو یہ شبہ ہوتا کہ بنی اسرائیل کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دشمنوں سے ایذائیں اور تکلیفیں اٹھائیں مگر اخیر میں اللہ نے ان مصائب اور تکالیف سے نجات دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی ایذا تو کیا پہنچاتا، وہ خود بھی ان تک نہ پہنچ سکا۔ اللہ نے دشمنوں کو دور ہی رکھا اور کسی بد ذات کو پاس بھی نہ پھٹکنے دیا اور جبرئیل علیہ السلام کو بھیج کر آسمان پر اٹھالیا۔ تمام تفاسیر معتبرہ میں یہی تفسیر مذکور ہے۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے رہا ہو کر کشمیر پہنچے اور ستاسی سال کے بعد کشمیر میں وفات پائی حالانکہ کشمیر اس وقت کفر اور شرک اور بت پرستی کا گھر تھا جو ملک شام سے کسی طرح بہتر نہ تھا۔ شام حضرات انبیاء کا مسکن اور وطن تھا اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ومطہرک من الذین کفروا کہ میں تجھ کو کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے کما قال تعالیٰ ورسول الی بنی اسرائیل ان کی نبوت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ لہذا بنی اسرائیل کو چھوڑ کر کشمیر جانے کے کیا معنی؟

وعدہ چہارم

غلبہ متبعین بر منکرین

وجاعد الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیمۃ

اور اے عیسیٰ! میں تیری پیروی کرنے والوں کو تیرے کفر کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔

چنانچہ جس جگہ یہود اور نصاریٰ ہیں وہاں نصاریٰ یہود پر غالب اور حکمراں ہیں آج تک یہود کو نصاریٰ کے مقابلہ میں کبھی حکم رانی نصیب نہیں ہوئی۔

وعدہ پنجم

فیصلہ اختلاف

ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون ○
یہ پانچواں وعدہ ہے کہ جو اختلافات کے فیصلہ کے متعلق ہے تمام اختلافات کا آخری فیصلہ تو آخرت کے دن ہو گا۔ لیکن یہود اور نصاریٰ اور اہل اسلام کے اختلافات کا ایک فیصلہ قیامت قائم ہونے سے کچھ روز پہلے ہو گا اور وہ مبارک وقت وہ ہو گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور یہود کو چن چن کر ماریں گے۔ کوئی یہودی اس وقت اپنی جان نہیں بچا سکے گا۔ اس وقت شجر حجر بھی یہ کہیں گے ہذا یہودی وراثی فاقنلہ یہ یہودی میرے پیچھے چھا ہوا ہے اس کو قتل کیجئے۔ صلیب کو توڑیں گے جس سے نصاریٰ کی اصلاح مقصود ہو گی۔ یہود حضرت عیسیٰ کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں گے اور نصاریٰ ان کی الوہیت اور انیت سے تائب ہو کر ان کے عبد اللہ اور رسول اللہ ہونے کا اقرار اور اعتراف کریں گے اور اہل اسلام اس وقت اپنی آنکھوں سے ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر لیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ نکلے گا۔

ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ

ترجمہ = یہی ہے وہ کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا

تھا اور بے شک اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔

اور اہل اسلام کے ایمان اور تسلیم میں اور زیادتی ہو گی اور مازادہم الا

ایماناً و تسلیماً کے مصداق ہوں گے۔ اور اب تک تو نزول عیسیٰ بن مریم اور قتل دجال وغیرہ پر ایمان بالغیب تھا لیکن اب مشاہدہ کے بعد ایمان شہودی ہو جائے گا کہ جس میں ارتداد کا اندیشہ نہ رہے گا۔ غرض یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے اور روئے زمین پر کوئی دین سوائے دین اسلام کے باقی نہ رہے گا۔ اس طرح یہ فیصلہ کا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا۔

توفیٰ کی دوسری نوع

اور اگر اس آیت میں توفیٰ کی دوسری نوع یعنی نوم (نیند) مراد لی جائے تب بھی مرزا صاحب کے لیے مفید نہیں کیونکہ اس صورت میں متوفیک معنی میں مینمک کے ہو گا اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو سلاؤں گا اور سونے کی حالت میں تجھ کو آسمان پر اٹھاؤں گا۔ جیسا کہ تفسیر ابن جریر اور معالم التزیل میں ربیع بن انس سے معقول ہے:

قال الربیع بن انس المراد بالتوفی النوم وکان عیسیٰ علیہ السلام قد نام فرفعہ اللہ نائماً الی السماء معناه انی مینمک و لرفعک الی کما قال تعالیٰ و ہم الذی ینوفکم باللیل ای مینمکم واللہ اعلم

ترجمہ = ربیع بن انس کہتے ہیں کہ آیت میں توفیٰ سے نوم یعنی نیند مراد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں آسمان پر اٹھایا اور آیت کے یہ معنی ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھ کو سلاؤں گا اور اسی حالت میں تجھ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد... وهو الذی ینوفکم باللیل (وہی ہے کہ جو تم کو رات میں سلاتا ہے) میں توفیٰ سے نوم مراد ہے۔

لیکن توفیٰ معنی نوم سے بھی مرزا صاحب کی تمنا اور آرزو پوری نہیں ہوتی کیونکہ نیند کی حالت میں آدمی زندہ رہتا ہے مرنا نہیں۔

توفی کی تیسری نوع (یعنی موت)

اور اگر اس آیت میں توفی سے اس کی تیسری نوع مراد لی جائے جیسا کہ علی بن طلحہ حضرت ابن عباسؓ سے متوفیک کی تفسیر میتک کے ساتھ روایت کرتے ہیں تب بھی مرزا صاحب کا مدعا وقات قبل النزول حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ امام بغوی فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ کے اس قول کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو وہ ہے کہ جو وہب بن منبہ اور محمد بن اعحق سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً "حضرت عیسیٰ کو وقات دی اور پھر کچھ دیر کے بعد ان کو زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا۔ وہب یہ کہتے ہیں کہ دن کی تین ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ اور محمد بن اعحق یہ کہتے ہیں کہ دن کی سات ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے اٹھایا۔ غرض یہ کہ اگر توفی معنی موت تین ساعت یا سات ساعت کے لیے پیش بھی آئی تو اس کے بعد دوبارہ زندگی اور رفع الی السماء بھی واقع ہوا ہے اور مرزا صاحب اس کے قائل نہیں۔

دوسرا مطلب

ابن عباسؓ کے اس قول کا دوسرا مطلب ہے کہ خود ابن عباسؓ کے شاکر خاص یعنی ضحاک سے منقول ہے کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے جیسا کہ شیخ جلال الدین سیوطی تفسیر درمنثور میں فرماتے ہیں:

اخرج اسحاق بن بشر و ابن عساکر من طریق جوهر عن الضحاک عن ابن عباس فی قوله تعالیٰ انی متوفیک ورافعک الی یعنی رافعک ثم متوفیک فی اخر الزمان

(درمنثور ص ۲۷۳۶)

ترجمہ = ضحاک کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ متوفیک ورافعک کی تفسیر میں یہ فرماتے تھے کہ حضرت مسیح کا رفع مقدم ہے اور ان کی وقات اخیر زمانہ میں ہوگی۔

پس اگر ابن عباسؓ سے متوفیک کی تفسیر میتک سے مروی ہے تو ان سے تقدیم و تاخیر بھی مروی ہے۔ لہذا ابن عباسؓ کے نصف قول کو جو اپنی ہوائے نفسانی اور غرض کے موافق ہو، اسے لینا اور حجت قرار دینا اور دوسرے نصف کو جو ان کی غرض کے مخالف ہو اس سے گریز کرنا یہ ایسا ہی ہیں جیسے تارک نماز کا لا تقربوا للصلوٰۃ سے حجت پکڑنا اور انتم سکاری سے آنکھیں بند کر لینا، نصف قول کو ماننا اور نصف قول سے قطع نظر کر لینا یہ نصف الاعمی اور نصف البصیر ہی کام ہے۔

علاوہ ازیں ابن عباسؓ سے متوفیک کی تفسیر جو میتک مروی ہے اس کا راوی علی بن طلحہ ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ راوی ضعیف اور منکر الحدیث ہے۔ علی بن طلحہ نے ابن عباسؓ سے نہ کچھ سنا ہے اور نہ ان کو دیکھا ہے۔ لہذا علی بن طلحہ کی روایت ضعیف بھی ہے اور منقطع بھی ہے جو حجت نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے برعکس ابن عباسؓ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح و سالم زندہ آسمان پر اٹھایا جانا باسانیہ صحیح اور جیدہ منقول ہے۔ تعجب اور سخت تعجب ہے کہ ابن عباسؓ کی وہ تفسیر کہ جس کی سند ضعیف اور منکر اور غیر معتبر ہو وہ تو مرزائیوں کے نزدیک معتبر ہو جائے اور ابن عباسؓ کی وہ تفسیر جو اسانید صحیحہ اور جیدہ اور روایات معتبرہ سے منقول ہے وہ مرزا صاحب کے نزدیک قابل قبول نہ ہو۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت

عبداللہ بن عباسؓ کی تصریحات

(۱) تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر اور فتح الباری کے حوالہ سے گزر چکا ہے کہ ابن عباسؓ کے نزدیک وان من اهل الکتب الالیومنن بہ قبل موتہ میں قبل موتہ کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے یعنی قبل موت عیسیٰ اور اسی پر ابن عباسؓ کو جزم اور یقین تھا علامہ آلوسی روح المعانی میں لکھتے ہیں:

والصحيح كما قال القرطبي ان الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو الرواية الصحيحين عن ابن عباس - روح المعانی

ترجمہ = امام قرطبی فرماتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر موت اور بغیر نیند کے زندہ آسمان پر اٹھالیا اور ابن عباسؓ کا صحیح قول یہی ہے۔

امام قرطبی کے کلام کا صاف مطلب یہی ہے کہ ابن عباسؓ سے صحیح روایت یہی ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھالیے گئے اور اس کے خلاف جو روایت ہے وہ ضعیف ہے قابل اعتبار نہیں۔

قال الحافظ عماد الدین بن کثیر عن ابن عباس قال لما اراد الله ان يرفع عيسى الى السماء الى ان قال ورفع عيسى من روزنة في البيت الى السماء قال وجاء الطلب من اليهود فاخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه وهذا اسناد صحيح الى ابن عباس۔

(تفسیر ابن کثیر ص ۲ ج ۱)

ترجمہ = حافظ عماد الدین بن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کا ارادہ فرمایا تو ایک شخص پر ان کی شبہت ڈال دی گئی اور وہ قتل کر دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام مکان کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لئے گئے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ کے اس اثر کی سند صحیح ہے۔

(۳) اور تفسیر فتح البیان ص ۳۴۲ ج ۲ پر ہے کہ حافظ ابن کثیر نے صحیح کہا

کہ اس کی سند صحیح ہے، بے شک اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں۔

علامہ آلوسی نے ومکروا و مکر اللہ کی تفسیر میں ابن عباسؓ کا قول نقل کیا کہ مکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبہت ڈال دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھالیا گیا۔

(روح المعانی ص ۱۵۷ ج ۳)

(۴) تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ واہ

للعلم للساعة سے نزول عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے۔

(۵) محمد بن سعد نے طبقات کبریٰ ص ۲۶ ج ۱ پر ابن عباسؓ کا ایک اثر نقل کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور رفع الی السماء کے بارے میں نص صریح ہے ہم اس کو ہدیہ ناظرین کرتے ہیں وہ ہو ہذا:

اخبرناہشام بن محمد بن السائب عن ابیہ من ابی صالح عن ابن عباس قال کان بین موسی بن عمران و عیسی بن مریم الف سننہ و تسعمائة الی ان قال و ان عیسی صلی اللہ علیہ وسلم حین رفع کان ابن اثنتین و ثلاثین سنة و ستة اشهر و كانت نبوتہ ثلاثین شہرا و ان اللہ رفعہ بجسده و انہ حی الی الان و سیرجع الی الدنیا فیكون ملکاً ثم یموت كما یموت الناس الخ

(طبقات کبریٰ ص ۲۶ ج ۱ مطبوعہ یمن (جرمنی))

ترجمہ = ابن عباس فرماتے ہیں کہ موسی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی زمانہ انیس سو سال ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جس وقت اٹھائے گئے تو ان کی عمر شریف ۳۲ سال اور چھ ماہ کی تھی اور زمانہ نبوت تیس ماہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم سمیت اٹھایا اور آنحضرتؐ کی وہ زندہ تھے اور آئندہ زمانہ میں پھر وہ دنیا کی طرف واپس آئیں گے اور بادشاہ ہوں گے۔ اور پھر چند روز بعد وفات پائیں گے۔ جیسے اور لوگ وفات پاتے ہیں۔

حضرت عباسؓ کے اس قول سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء اور دوبارہ نزول صراحتاً "معلوم ہو گیا اس روایت میں ابن عباسؓ نے سیر جمع الی الدنیا کا لفظ استعمال فرمایا جو رجوع سے مشتق ہے جس کے معنی واپسی کے ہیں یعنی جس طرح جسم غضری کے ساتھ آسمان پر گئے تھے اسی جسم کے ساتھ اسی طرح دوبارہ واپسی اور تشریف آوری ہوگی۔ خود بہ نفس نفیس وہ دنیا میں واپس تشریف لائیں گے کوئی ان کا مثل اور شبیہ نہیں آئے گا۔

خلاصہ کلام

یہ کہ اگر ابن عباسؓ سے متونیک کی تفسیر میتک کے ساتھ منقول ہے تو ان سے تقدیم و تاخیر بھی منقول ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نازل ہونا یہ بھی ابن عباسؓ سے مروی ہے۔

مرزا صاحب کو چاہیے کہ ابن عباسؓ کے ان اقوال صریحہ کو بھی تسلیم کریں۔ حالانکہ ان اقوال کی اسانید نہایت صحیح اور قوی ہیں اور متونیک کی تفسیر جو میتک سے مروی ہے اس کی سند ضعیف ہے۔

جواب دیگر

اور اگر بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ متونیک کی تفسیر میتک کے ساتھ صحیح ہے تو یہ کہیں گے کہ مرزا صاحب ازالتہ الاوہام کے (ص ۹۳۳ روحانی خزائن ص ۶۲۱ ج ۳) پر لکھتے ہیں کہ امانت کے حقیقی معنی صرف مارنا اور موت دینا نہیں بلکہ سلاتا اور بیہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی کلامہ

مرزا صاحب اس عبارت میں فقط اس امر کے مدعی نہیں کہ امانت کے معنی کبھی سلانے کے بھی آجاتے ہیں بلکہ اس کے مدعی ہیں کہ جس طرح مارنا اور موت دینا امانت کے حقیقی معنی ہیں اسی طرح سلاتا اور بے ہوش کرنا بھی امانت کے حقیقی معنی ہیں۔ لہذا جب مرزا صاحب کے نزدیک امانت کے حقیقی معنی سلانے کے بھی ہیں تو ابن عباسؓ کی تفسیر میتک میں اگر امانت سے سلانے کے معنی مراد لیے جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لیے کہ مرزا صاحب کے نزدیک یہ معنی بھی حقیقی ہیں اور آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ نیند کی حالت میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ جیسا کہ ربیع سے منقول ہے اور حدیث میں بھی امانت معنی امانت یعنی سلانے کے معنی میں آیا ہے

الحمد لله الذي احيانا بعد ما امانتنا واليه النشور

اقوال مفسرین

گزشتہ تفصیل کے بعد اب کسی مزید توضیح کی ضرورت نہیں۔ مگر چونکہ توفی

کے استعمالات مختلف ہیں اس لیے حضرات مفسرین سے اس آیت کی جو توجیہات
 محقول ہیں ہم ان توجیہات کو نقل کر کے یہ بتانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ تمام مفسرین
 سلف اور خلف اس پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مجدہ العنصری زندہ آسمان پر
 اٹھائے گئے۔ آیت شریفہ کی توجیہات اور تفسیری تعبیرات میں اگرچہ بظاہر اختلاف
 ہے لیکن رفع الی السماء پر سب متفق ہیں اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔

عبارا تنا شتی و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال یشیر

ہماری تعبیرات مختلف ہیں اور تیرا حسن ایک ہے سب کا اشارہ اسی ایک

حسن کی طرف ہے۔

قول اول

توئی سے استیفاء اور اسکمال کے معنی مراد ہیں اور استیفاء اور اسکمال سے
 عمر کا اتمام مراد ہے۔ اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے عیسیٰ تم دشمنوں سے گھبراؤ
 نہیں یہ قتل اور صلب سے تمہاری عمر ختم کرنا چاہتے ہیں یہ سب ناکام رہیں گے۔
 میں تمہاری عمر پوری کروں گا اور اس وقت میں تم کو آسمان پر اٹھاؤں گا چنانچہ امام
 رازی فرماتے ہیں:

الاول معنی قوله انی متوفیک ای انی متم عمرک فحینئذ اتوفاک

فلا اترکھم حتی یقتلوک بل انا رافعک الی السماء و مقربک

بملائکتی و اصونک عن ان ینمکنوا من قتلک و هذا تاویل

حسن

(تفسیر کبیر ص ۲۸۱ ج ۲)

ترجمہ = انی متوفیک کے معنی یہ ہیں کہ اے عیسیٰ میں تیری عمر پوری

کروں گا۔ کوئی شخص تجھ کو قتل کر کے تیری عمر قطع نہیں کر سکتا۔ میں

تجھ کو تیرے دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا کہ وہ تجھ کو قتل کر

سکیں۔ بلکہ میں تجھ کو آسمان پر اٹھاؤں گا اور اپنے فرشتوں میں رکھوں گا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ معنی نہایت عمدہ ہیں۔

اور اسی معنی کو علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں ذکر کیا ہے اور اس معنی کا کلام اپنے حال پر ہے۔ کلام میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ توفی کے معنی اتمام عمر کے ہیں جو ابتدائے عمر سے لے کر اخیر عمر تک صادق ہیں اسی درمیان میں رفع الی السماء ہوا اور اسی درمیان میں نزول ہو گا اور وقت پر وفات ہوگی۔ اس طرح عمر شریف پوری ہوگی۔

قال الزمخشری انی متوفیک ای مستوفی اجلک و معناه انی عاصمک من ان یقتلک الکفار و موخرک الی اجل کتبتہ لک و ممیتک حتف انفک لاقتیلا بایدیہم... ففسرہ بمادۃ من باب الاستفعال و قوله و معناه الخ یرید حاصل المقام و ماجری فی سلسلۃ الواقعة لانفسیر لفظیا فاتہ مرض فیما بعد و لم یرضہ ان یکون تفسیرہ ابتداء حیث قال و ممیتک فی وقتک بعد النزول من السماء و رافعک الان۔ وقد عدل اللہ عن لفظ الاماتۃ لثلا بیادہ و یواجه عیسیٰ بہ فی مقابله الیہود علی ذکر التناول و الاستیفاء ثم لیجری ما یجری کل یحییٰ مستکمل مدۃ العمر۔ مشکات القرآن ص ۱۳۲

قول دوم

توفی سے قبض من الارض کے معنی مراد ہیں۔ یعنی اے عیسیٰ میں تم کو ان کافروں سے چھین کر پورا پورا اپنے قبضہ میں لے لوں گا جیسا کہ امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

ان التوفی ہوا القبض یقال وفانی فلان دراہمی ولو فیتہا کما یقال سلم فلان الی دراہمی و تسلمتہا (تفسیر کبیر ص ۲۷۳۸۱)
ترجمہ = یعنی توفی کے معنی کسی شے پر پوری طرح قبضہ کر لینے کے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے میرے پورے روپے دیدیے۔ اور میں نے اپنے پورے روپے اس سے وصول کر لیے۔

آیت کے یہ معنی حسن بصری اور مطروزاق اور ابن جریج اور محمد بن جعفر بن زبیر سے منقول ہیں۔ اور امام ابن جریر طبری نے اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ اس معنی کو بھی آیت میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔ قول اول اور قول ثانی دونوں قولوں میں توفی کے معنی استیفاء اور اسکمال ہی کے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے قول میں استیفاء سے اجل اور عمر کا اتمام اور اکمال مراد لیا گیا۔ اور دوسرے قول میں ایک شخص اور ایک ذات کا پورا پورا قبضہ میں لینا مراد لیا گیا ہے۔ ایک جگہ استیفاء اجل ہے اور ایک جگہ استیفاء شخص اور استیفاء قبضہ ہے۔

قول سوم

توفی کے معنی اخذ الشی و افیاء کے ہیں یعنی کسی شی کو پورا پورا لے لیتا۔ اور اس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ لے لیتا مراد ہے۔ جیسا کہ امام رازی فرماتے ہیں:

ان التوفی اخذ الشی و افیاء ولما علم اللہ تعالیٰ ان من الناس من یخطر بیالہ ان الذی رفعہ اللہ ہو روحہ لاجسدہ ذکر ہذا الکلام لیدل علی انه علیہ الصلوٰۃ والسلام رفع بتمامہ الی السماء بروحہ و بجسدہ و بدل علی صیحة ہذا التاویل قولہ تعالیٰ و ما یضرونک من شیء (تفسیر کبیر ص ۲۸۱ ج ۲)

ترجمہ = توفی کے معنی کسی شے کو پورا پورا اور بھیج اجزاء لے لینے کے ہیں۔ چونکہ حق تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں وسوسہ گزرے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صرف روح کو اٹھایا اس لیے متوفیک کا لفظ فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اور جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے و ما یضرونک من شیء تم کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکیں گے نہ روح کو نہ جسم کو۔

قول چہارم

توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔ یعنی سلا کر تم کو اپنی طرف اٹھاؤں گا کہ تم کو خبر بھی نہ ہو کہ کیا ہوا اور آسمان اور فرشتوں ہی میں جا کر آنکھ کھلے گی۔ یہ قول ربیع بن انس سے مروی ہے:

قال الربیع بن انس المراد بالتوفی النوم وکان عیسیٰ علیہ السلام قد نام فرفعه اللہ نائماً الی السماء معناه منیمک ورافعک الی کما قال تعالیٰ و هو الذی یتوفکم باللیل

(تفسیر درمنثور ص ۳۶ ج ۲ و معالم التزیل و تفسیر کبیر وغیرہ وغیرہ)

ترجمہ = ربیع بن انس کہتے ہیں کہ توفی سے نوم یعنی نیند کے معنی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سونے کی حالت میں آسمان پر اٹھایا جیسا کہ و هو الذی یتوفکم باللیل اس آیت میں توفی سے نوم کے معنی مراد ہیں۔

قول پنجم

توفی سے موت کے معنی مراد ہیں جیسا کہ علی بن ابی طلحہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متوفیک کے معنی میتک روایت کرتے ہیں۔

امام بغوی معالم التزیل میں فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی اس روایت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چند ساعت مردہ رکھا اور پھر زندہ کر کے آسمان پر اٹھایا۔ جیسا کہ محمد بن اسحق اور وہب سے منقول ہے۔ اس قول پر آیت میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں۔

دوسرا مطلب وہ ہے جو ضحاک سے مروی ہے وہ یہ کہ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ:

انہی متوفیک بعد انزلک من السماء

ترجمہ = میں تجھ کو آسمان سے اترنے کے بعد موت دوں گا۔

کیا تقدیم و تاخیر تحریف ہے؟

مرزا صاحب از اللہ الا وہام ص ۹۳۵ ج ۲ روحانی خزائن ص ۶۰۸ ج ۳ میں

لکھتے ہیں:

اگر کوئی کہے کہ رافعک مقدم اور متوفیک مؤخر ہے سو ان یہودیوں کی طرح تحریف ہے کہ جن پر بوجہ تحریف کے لعنت ہو چکی ہے۔ اتنی

جواب

تقدیم و تاخیر نہ قواعد عربیت کے خلاف ہے اور نہ فصاحت و بلاغت میں نقل ہے بلکہ با اوقات عین فصاحت اور عین بلاغت ہے۔ فصحاء اور بلغاء کے کلام میں شائع اور ذرائع ہے۔ امام رازی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

ومثله من التقديم والتأخير كثير في القرآن-

(تفسیر کبیر ص ۳۸۱ ج ۲)

ترجمہ = ابن عباس کی تفسیر میں جو تقدیم و تاخیر آئی ہے اس قسم کی تقدیم و تاخیر قرآن کریم میں کثیر ہے

امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

قال جماعة من اهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى انى متوفيك و رافعك الى على التقديم والتأخير لان الولولا توجب الرتبة والمعنى انى رافعك الى و مطهرك من الذين كفروا متوفيك بعد ان تنزل من السماء كقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى والتقدير ولولا كلمة سبقت من ربك واجل مسمى لكان لزاما قال الشاعر
الا يانخلة من ذات عرق --- عليك ورحمة الله السلام

(تفسیر قرطبی ص ۹۹ ج ۳)

ترجمہ = اہل علم کی ایک جماعت جن میں ضحاک اور فراء بھی ہیں یہ کہتے

ہیں کہ حق تعالیٰ کے اس قول انی منوفیک ورافعک الی میں تقدیم و تاخیر ہے اور اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں۔ اس لیے کہ واؤ ترتیب کو مقتضی نہیں اور معنی آیت کے اس طرح ہیں کہ اس وقت رفع ہو گا اور تونی یعنی وفات بعد نزول کے ہو گی۔ اور تقدیم و تاخیر کے نظائر قرآن کریم میں موجود ہیں جیسا کہ ولولا کلمة سبقت من ربک لکان لزاما واجل مسمى اس آیت میں بھی تقدیم و تاخیر ہے۔ اصل تقدیر عبارت اس طرح ہے ولولا کلمة سبقت من ربک واجل مسمى یعنی واجل مسمى کا عطف کلمہ پر ہے اور لکان لزاما دونوں ہی کی خبر ہے۔ شاعر کہتا ہے اے مقام غلہ تجھ پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو اس شعر میں تقدیم و تاخیر ہے کہ السلام موخر ہے کہ جو معطوف علیہ ہے اور رحمت اللہ مقدم ہے جو معطوف ہے۔ قاعدہ کا مقتضی یہ ہیں کہ معطوف علیہ مقدم ہو اور معطوف موخر ہو اور شعر میں معطوف یعنی رحمت اللہ مقدم ہے اور معطوف علیہ یعنی السلام موخر ہیں (تفسیر قرطبی)

وقال تعالى ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحیی فقالت طائفة هو مقدم و موخر و معناه نحیی و نموت الخ

(لسان العرب ص ۱۳۲ ج ۱۸)

ترجمہ = اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس قول ماہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیی میں تقدیم و تاخیر ہے اصل کلام نحیی و نموت ہے اس لیے کہ حیات مقدم ہے اور موت اس کے بعد ہے۔ مگر آیت میں نموت مقدم ہے اور نحیی موخر ہے۔

وقال تعالى حتى تستانسوا و تسلموا قال الفراء هنا مقدم و موخر انما هي حتى تسلموا و تستانسوا السلام علیکم ادخل

(لسان العرب ص ۱۱۲ ج ۷)

ترجمہ = اور حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے

پہلے اجازت چاہو اور سلام کرو۔ فراء کہتے ہیں کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے پہلے سلام ہے اور بعد استیذان اجازت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کہنا چاہیے السلام علیکم اُوخل۔ سلام ہو تم پر کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟

بنی اسرائیل میں جو قتل کا واقعہ پیش آیا، قرآن کریم میں اس واقعہ کو واذ قتلتم نفسا فادراء تم سے بعد میں بیان فرمایا اور اس کے متعلق جو احکام صادر ہوئے ان کو پہلے بیان فرمایا۔ کما قال تعالیٰ ان اللہ یامرکم ان تذبخوا بقرۃ الایات۔ اور قرآن کریم میں واقعات کو بکثرت مقدم و موخر بیان کیا گیا ہے۔

کما قال ابو حیان و قال بعض الناس التقدیم و الناخیر حسن لان ذلك موجود فی القرآن فی الجمل و فی الکلمات و فی کلام العرب و لورد من ذلك جملا من ذلك قصة نوح علیه السلام فی اهلاک قومہ و قوله و قال اربکبوا و فی حکم من مات عنها زوجها بالنربص بالاربعة الشهر بمتاع الی الحول اذا لنا سخ مقدم و منسوخ و متاخر۔

(کذافی البحر المیط ص ۲۵۹ ج ۱)

بطور نمونہ چند آیات پر اکتفا کیا ورنہ قرآن کریم ہی میں تقدیم و تاخیر کے صدہا نظائر موجود ہیں اور حدیث میں تو کوئی شمار نہیں۔ غرض یہ کہ تقدیم و تاخیر تحریف تو کیا ہوتی فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف نہیں اور آیت تونی میں تقدیم و تاخیر خود ابن عباسؓ سے مروی ہے جیسا کہ تفسیر در مشور میں مذکور ہے۔

مرزا صاحب بھی تقدیم و تاخیر کے قائل ہیں

مرزا صاحب ”مسح ہندوستان“ کے (ص ۵۳ روحانی خزائن ص ۵۳ ج ۱۵) پر لکھتے ہیں ”اور مطہرک کی عیثن گوئی میں یہ اشارہ ہے کہ ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان الزاموں سے مسح کو پاک کرے گا اور وہ زمانہ یہی ہے“ (یعنی مرزا کا

زمانہ) اہ۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت مسیح سے جو تطہیر کا وعدہ تھا وہ مرزا کے زمانہ میں پورا ہوا اور جاعل الذین اتبعوک یعنی مشعین کے غالب کرنے کا وعدہ اس وعدہ سے بہت پہلے پورا ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ واقعہ صلیب کے تین سو سال بعد عیسائیوں کی سلطنت قائم ہو گئی تھی اور مشعین کے غلبہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ لہذا مرزا کے قول پر آیت میں تقدیم و تاخیر لازم آئی۔ اس لیے کہ مشعین کے غالب کرنے کا وعدہ جو آیت میں وعدہ تطہیر کے بعد مذکور ہے وہ تو پہلے پورا ہوا اور وعدہ تطہیر جو پہلے مذکور ہے وہ مرزا کے زمانہ میں انیس سو سال کے بعد پورا ہوا۔

فائدہ (متعلقہ ہدایت مائدہ)

جب یہ ثابت ہو گیا کہ تونی کے حقیقی معنی استیفاء اور اشکال اور اخذ الشی وانفا (یعنی کسی شے کو پورا پورا لینے کے ہیں) اور انی متوفیک ورافعک الی میں تونی سے موت کے معنی مراد نہیں بلکہ تونی سے رفع آسمانی مراد ہے۔ تو اس طرح سورہ مائدہ کی آیت تونی کو سمجھئے کہ وہاں بھی تونی سے رفع الی السماء ہی مراد ہے اور فلما توفیتنی کے معنی فلما رفعتنی الی السماء کے ہیں۔ چنانچہ تمام معتبر تفاسیر میں توفیتنی کی تفسیر رفعتنی کے ساتھ مذکور ہے چند تفاسیر کے حوالہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

جیسا کہ تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر اور در منشور میں ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر ص ۷۰۰ ج ۳ میں لکھتے ہیں فلما توفیتنی المراد بہ وفاة الرفع الی السماء الخ اور تفسیر ابوالسعود ص ۷۱ ج ۳ ورافعک الی فان التوفی اخذ الشی واقیا اور اس طرح (تفسیر بیضاوی اور معالم التزیل ص ۳۰۸ ج ۱۔ اور مدارک التزیل ص ۲۴۲ ج ۱۔ اور تفسیر خازن ص ۳۰۸ ج ۱ تفسیر روح المعانی ص ۱۵۸ ج ۳)

الغرض ان تمام تفاسیر میں صراحت "اس کی تصریح ہے کہ تونی سے رفع الی السماء مراد ہے۔ اور بالفرض اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آیت مائدہ میں تونی سو

کنایتہ ”موت مراد لی گئی ہے تب بھی مرزا صاحب کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس آیت میں اس وفات کا ذکر ہے جو بعد از نزول قیامت سے پہلے ہو گی۔ کیونکہ آیت کا تمام سیاق و سباق اس بات پر شاہد ہے کہ یہ تمام واقعہ کوئی گزشتہ واقعہ نہیں بلکہ مستقبل یعنی قیامت کا واقعہ ہے اور قیامت سے پہلے ہم بھی وفات صحیح کے قائل ہیں جیسا کہ یوم یجمع اللہ الرسل الخ اور ہذا یوم ینفع الصدقین صدقہم اور و یوم للقیمۃ یکون علیہم شہیداً ○ سے صاف ظاہر ہے۔

(تفسیر در مشور ص ۳۳۹ ج ۲ میں ہے:)

اخرج عبدالرزاق و ابن ابی حاتم عن قتادة فی قوله انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ متی یکون ذلک قال یوم القیمۃ الا تری انه یقول یوم ینفع الصدقین۔

ترجمہ = عبدالرزاق اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ قتادہ سے ءانت قلت للناس اتخذونی الخ کے متعلق دریافت کیا گیا کہ یہ واقعہ کب ہو گا؟ تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہو گا، جیسا کہ ہذا یوم ینفع الصدقین سے صاف معلوم ہوتا ہے۔

بلکہ بعض مرفوع احادیث میں بھی اس کی تصریح موجود ہے کہ یہ واقعہ

قیامت کا ہے:

روی ابن عساکر عن ابی موسیٰ الأشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیمۃ یدعی بالانبیاء واممہم ثم یدعی بعیسیٰ فیذکرہ نعمۃ علیہ فیقربہا فیقول بعیسیٰ اذکر نعمتی علیک و علی والداتک الایۃ ثم یقول انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ فینکران یکون قال ذلک الحدیث

(تفسیر ابن کثیر ص ۲۸۱ ج ۳)

ترجمہ = ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انبیاء اور ان کی امتوں کو بلایا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ کو بلایا جائے گا۔ حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اپنے قریب بلا کر یہ فرمائیں گے کہ تم ہی نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا بناؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام انکار فرمائیں گے کہ معاذ اللہ میں نے ہرگز نہیں کہا۔

واخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيمة جمعت الامم ودعا كل اناس باما مهم قال ويدعى عيسى فيقول بعيسى يعيسى انت قلت الناس اتخذوني وامى الهين من دون الله فيقول سبحك ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق الى قوله يوم ينفع الصديقين- (تفسیر درمنثور ص ۳۳۹ ج ۲)

ترجمہ = اس حدیث شریف کا ترجمہ تقریباً وہی ہے جو کہ پہلی حدیث کا ہے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث کی طرح جابر بن عبد اللہ کی اس روایت میں بھی اس امر کی تصریح موجود ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے یہ دریافت کیا جائے گا۔

مرزا جس موت کے مدعی ہیں وہ کسی لفظ سے بھی ثابت نہیں ہوتی مرزا کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حضرت مسیح واقعہ صلیب کے بعد کشمیر تشریف لے گئے اور ستاسی سال زندہ رہ کر شہر سری نگر کے محلہ خان یار میں مدفون ہوئے یہ نہ کسی آیت سے ثابت ہے نہ کسی حدیث سے اور نہ کسی صحابی اور تابعی بلکہ کسی معتبر عالم کے قول سے بھی ثابت نہیں۔ ممکن ہے کہ یہ بھی اسی کنیا لال اور مراری لال اور ردشلال سے منقول ہو کہ جنہوں نے کریم بخش کے صادق ہونے کی گواہی دی ہے۔

مرزا ازالہ الاوہام (ص ۷۰۸ روحانی خزائن ص ۳۸۲ ج ۳ میں لکھتے ہیں) کہ کریم بخش روایت کرتے ہیں کہ گلاب شاہ مجذوب نے بیس برس پہلے مجھ کو کہا کہ اب عیسیٰ جوان ہو گیا ہے اور لدھیانہ میں آکر قرآن کی غلطیاں نکالے گا۔ پھر کریم بخش

کی تعدیل بہت سے گواہوں سے کی گئی جن میں خیراتی بوٹا، کنہیا لال، مراری لال، روشنال، گیشال وغیرہ ہیں۔ اور گواہی یہ ہے کہ کریم بخش کا جھوٹ کبھی ثابت نہیں ہوا۔ احسن الکلام المرزا نظام

ائمہ حدیث جب کسی راوی کی توثیق اور تعدیل نقل کرتے ہیں تو احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین کا نام مبارک پیش کر دیتے ہیں۔ مرزا کو جب کریم بخش کی روایت کی تعدیل کی ضرورت پیش آئی تو کنہیا لال اور مراری لال کی تعدیل پیش کی۔ ناظرین کرام تعجب نہ فرمائیں۔ نبی کاذب کے سلسلہ روایت کے لیے کنہیا لال اور مراری لال ہی جیسے راوی مناسب اور ضروری ہیں۔ مرزا معذور ہے اپنی مسیحیت کی گواہی میں آخر کس کو پیش کریں؟ حضرات محدثین کے نزدیک مالک عن نافع عن ابن عمر یہ مسند سلسلہ الذہب کے نام سے موسوم ہے۔ یہ سلسلہ الذہب تو حضرات محدثین کا ہے۔ اور مرزا صاحب کا سلسلہ الذہب یہ ہے کہ جو حضرات ناظرین نے پڑھا۔ یعنی کنہیا لال اور مراری لال اور روشن لال۔

اے مرزائیو! تمہیں کیا ہوا؟ مالک اور نافع اور ابن عمر کی روایت تو تمہاری نظر میں غیر معتبر ہو گئی اور مرزا اور مراری لال اور کنہیا لال اور روشن لال کی اور اس قسم کے پاگل داس لوگوں کی بکواس معتبر ہو گئی۔
ع بریں عقل و دانش نباید گریست

ایک وہم اور اس کا ازالہ

مرزا صاحب ازالۃ الاوهام (ص ۶۰۲ روحانی خزائن ص ۲۲۵ ج ۳) پر لکھتے ہیں:
”تعجب ہے کہ اس قدر تاویلات رکبیکہ کرنے سے ذرا بھی نہیں شرم کرتے وہ نہیں سوچتے کہ آیت فلما توفیننی سے پہلے یہ آیت ہے واذ قال اللہ یعیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس الخ اور ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اول از موجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قصہ وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا نہ زمانہ استقبال کا۔

اور پھر ایسا ہی جو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہے یعنی فلما توفیتنی وہ بھی سینہ ماضی ہے۔ ”اتقی کلام انعام۔“

جواب

یہ ہے کہ مرزا اس کے بعد (الحکم ۲۲ مورخہ ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۳ھ ملفوظات احمدیہ ج ۷ ص ۲۳۵) طاعون کی پیشین گوئی کی نسبت لکھتے ہیں کہ ”مجھے خدا کی طرف سے وحی ہوئی:

عفت الدیار محلها و مقاما

یعنی اس کا ایک حصہ مٹ جائے گا جو عمارتیں ہیں تاہم وہ ہو جائیں گی۔ اس پر اعتراض ہوا کہ یہ مصرع لیبید کا ہے اس نے گزشتہ زمانہ کی خبر دی ہے کہ خاص خاص مقام ویران ہو گئے۔

اس کا جواب خود یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کافہ یا ہدایۃ النحو بھی پڑھی ہوگی وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنی پر بھی آجاتی ہے بلکہ ایسے مقامات میں جب کہ آنے والا واقعہ متکلم کی نگاہ میں یقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے سینہ پر لاتے ہیں تاکہ اس امر کا یقینی الوقوع ہونا ظاہر ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و نفض فی الصور۔ و اذ قال اللہ یعیسیٰ بن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ ولوتری اذوقوا علی ربہم وغیرہ اب معترض صاحب فرمائیں کہ کیا قرآنی آیات ماضی کے صنفے ہیں یا مضارع کے اور اگر ماضی کے صنفے ہیں تو ان کے معنی اس جگہ مضارع کے ہیں یا ماضی کے، جھوٹ بولنے کی سزا تو اس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پر نہیں بلکہ یہ تو قرآن پر بھی ہو گیا۔ گویا صرف و نحو آپ کو معلوم ہے خدا کو معلوم نہیں اس وجہ سے خدا نے جا بجا غلطیاں کھائیں اور مضارع کی جگہ ماضی کو لکھ دیا۔ اتقی الکلام المرزا انعام۔

تاہم انصاف فرمائیں کہ جس آیت پر یعنی اذ قال اللہ پر شہود سے یہ

دعویٰ تھا کہ یہ قصہ ماضی ہے پھر اسی کی نسبت یہ دعویٰ کر دیا کہ مضارع کے معنی میں ہے تاکہ عیسیٰ کوئی غلط نہ ہونے پائے۔

اور عفت الدیار محلہا و مقامہا پر جو اعتراض تھا اس سے سبک دوش ہو جائیں۔ حالانکہ مرزا اول ہی بار ذرا بھی قرآن عزیز میں غور کر لیتے تو یہ ہرگز نہ کہتے جیسا کہ بعد میں ہوش میں آئی گئی کہ از ہمیشہ ماضی کے لیے نہیں ہوتا۔ کیونکہ قرآن عزیز میں ولوتری اذینتوفی الذین کفرو والملئکتہ ولوتری اذالظلمون موفون عند ربکم ان آیات میں ہر جگہ لفظ اذ موجود ہے۔ حالانکہ واقعہ سب جگہ مستقبل یعنی قیامت ہی کا ہے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھی دلیل

قال اللہ عزوجل

وانہ لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم ○ و

لا یصلنکم الشیطن انہ لکم عدو مبین ○

ترجمہ = اور تحقیق وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ علامت ہیں قیامت کی پس اس بارے میں تم ذرہ برابر شک اور تردد نہ کرو اور اے محمد ﷺ آپ کہہ دیجئے کہ اس بارے میں صرف میری پیروی کرو یہی سیدھا راستہ ہے کہیں شیطان تم کو اس راہ راست سے نہ روک دے۔ تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ماننا یہی سیدھا راستہ ہے

اور جو اس سے روکے وہ شیطان ہے۔

امام جلیل و کبیر حافظ عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں کہ انہ لعلم للساعة

سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونا مراد ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عباس اور ابو ہریرہ اور مجاہد اور ابو العالیہ اور ابومالک اور عکرمہ اور حسن بصری اور قتادہ اور ضحاک و غیر ہم سے منقول ہے۔ جیسا کہ وان من اهل

الکتاب الالیومنن بہ قبل موتہ اور احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول قبل از قیامت ثابت اور محقق ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ص ۱۳۶ ج ۹)

معلوم ہوا کہ جو شخص حضرت مسیح بن مریم کے آسمان سے نازل ہونے کو قیامت کی علامت نہ سمجھے وہ شیطان ہے۔ تم کو سیدھے راستہ سے روکنا چاہتا ہے اور تمہارا اکلاد ٹھن ہے۔ اس کے کہنے میں ہرگز نہ آتا۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی پانچویں دلیل

قال الامام احمد حدثنا صفان ثنا همام ابنائنا قتادة عن عبد الرحمن عن ابی هريرة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الانبیاء اخوة لعلات امهاتهم شنی ودينهم واحدوانی اولی الناس بعیسی بن مریم لانه لم یکن نبی بینی و بینہ و انه نازل فاذا رایتموه فاعرفوه رجل مربع الی الحمرة والبیاض علیہ ثوبان ممصران کان رأسه یقطر وان لم یصبه بلل فیدق الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیة ویدعو الناس الی الاسلام ویهلک اللہ فی زمانہ الملل کلها الا الاسلام ویهلک اللہ فی زمانہ المسیح الدجال ثم تقع الامانة علی الارض حتی ترتع الاسود مع الابل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ویلعب الصبیان بالحیات لاتضرهم فی مکث اربعین سنة ثم یتوفی ویصلی علیہ المسلمون

”و کذا رواه ابو داود و کذا فی تفسیر ابن کثیر ص ۱۶ ج ۳ وقال الحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ

علیہ رواه ابو داود احمد باسناد صحیح۔ فتح الباری ص ۲۵۷ ج ۶

ترجمہ = امام احمد بن حنبلؒ اپنی سند میں ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علاقی بھائی ہیں۔ ہمیں مختلف یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور دین یعنی اصول شریعت کا سب کا ایک ہے، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہوں

اس لیے کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ نازل ہوں گے جب ان کو دیکھو تو پہچان لینا۔ وہ میانہ قد ہوں گے، رنگ ان کا سرخ اور سفیدی کے درمیان ہو گا۔ ان پر دو رنگے ہوئے کپڑے ہوں گے سر کی یہ شان ہو گی کہ گویا اس سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اگرچہ اس کو کسی قسم کی تری نہیں پہنچی ہو گی، صلیب کو توڑیں گے جزیہ کو اٹھائیں گے۔ سب کو اسلام کی طرف بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں سوائے اسلام کے تمام مذاہب کو نیست و نابود کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسیح دجال کو قتل کرائے گا۔ پھر تمام روئے زمین پر ایسا امن ہو جائے گا کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتے گائے کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں گے اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلنے لگیں گے۔ سانپ ان کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر چالیس سال ٹھہریں گے پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہیں۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابھی وفات نہیں ہوئی۔ آسمان سے نازل ہونے کے بعد قیامت سے پندرہ روز قبل تمام باتیں ظہور میں آجائیں گی تب وفات ہو گی۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی چھٹی دلیل

عن الحسن مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لليهود ان عيسى لم يممت وانه راجع اليكم قبل يوم القيمة

(اخرجه ابن كثير في تفسيره ج ۲ ص ۲۲۰ ج ۲)

ترجمہ = امام حسن بھری سے مرسلا روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے یہود سے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی نہیں مرے وہ قیامت کے قریب ضرور لوٹ کر آئیں گے۔

اس حدیث میں راجع کا لفظ صراحتہ "موجود ہے۔ جس کے معنی واپس آنے والے کے ہیں۔ محاورہ" یہ لفظ اسی وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرنی جگہ گیا ہو اور پھر وہاں سے واپس آئے۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی ساتویں دلیل

امام بیہقی کتاب الاسماء والصفات ص ۳۰۱ میں فرماتے ہیں:

اخبرنا ابو عبد اللہ الحافظ انا ابو بکر بن اسحاق انا احمد بن ابراہیم ثنا ابن بکیر ثنی اللیث عن یونس عن ابن شہاب عن نافع مولیٰ ابی قتادۃ الانصاری قال ان اباہرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم۔ انتہی

ترجمہ = ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہو گا تمہارا کہ جب عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہو گا۔ اور اسناد اس روایت کی صحیح ہیں۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی آٹھویں دلیل

وعن ابن عباس فی حدیث طویل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعند ذلک ینزل عیسیٰ بن مریم من السماء

(اسحاق بن بشر کنز العمال ص ۲۶۸ ج ۷)

ترجمہ = ابن عباسؓ ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پس اس وقت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے۔

ان دونوں حدیثوں میں من السماء کا لفظ صراحتاً "موجود ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔"

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی نویں دلیل

عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ینزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد ویمکت
خمساً واربعین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبر فاقوم انا
وعیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر۔

(رواہ الجوزی فی کتاب الوفا کتاب الاذاح ص ۷۷)

ترجمہ = عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے (اس سے صاف ہے کہ حضرت عیسیٰ اس سے پیشتر زمین پر نہ تھے بلکہ زمین کے بالقابل آسمان پر تھے) اور میرے قریب مدفون ہوں گے۔ قیامت کے دن میں مسیح بن مریم کے ساتھ اور ابو بکر و عمر کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔

حیات عیسیٰ علیہ السلام کی دسویں دلیل

حدثنی المنشی ثنا اسحاق ثنا ابن ابی جعفر عن ابیہ عن الربیع
فی قوله تعالیٰ الم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال ان النصرانی اتوا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخاصموہ فی عیسیٰ بن مریم
وقالوا لہ من ابوہ وقالوا علی اللہ الکذب والبهتان لا الہ الا هو لم
یتخذ صاحبة ولا ولدا فقال لہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الستم
تعلمون انه لا یكون ولدا لا ہو شبہ اباء قالوا بلی قال الستم
تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ یاتی علیہ الفناء۔ قالوا
بلی قال الستم تعلمون ان ربنا قیم علی کل شیء یکلوه ویحفظہ

ویرزقہ قالوا بلی قال فهل یملک عیسیٰ من ذلك شیئا قالوا لا قال
افلستم تعلمون ان الله عزوجل لا یخفی علیہ شی فی الارض ولا
فی السماء قالوا بلی۔ قال فهل یعلم عیسیٰ من ذلك شیئا الا ما
اعلم قالوا لا۔ قال فان ربنا صور عیسیٰ فی الرحم کیف شاء فهل
تعلمون ذلك قالوا بلی قال الستم تعلمون ان ربنا لا یأکل الطعام
ولا یشرب الشراب ولا یحدث الحدث قالوا بلی قال الستم
تعلمون ان عیسیٰ حملته امرأۃ کما تحمل المرأة ثم وضعته کما
تضع المرأة ولدها ثم غدی کما یغدی الصبی ثم کان یطعم و
یشرب الشراب ویحدث الحدث قالوا بلی قال فکیف یکون هذا
کما زعمتم قال فعرفوا ثم ابوا فانزل الله عزوجل الم الله لا اله الا

هو الحی القيوم۔ (تفسیر ابن جریر ص ۱۰۸ ج ۳)

ترجمہ = ریج سے الم الله لا اله الا هو الحی القيوم کی تفسیر میں منقول ہے کہ
جب نصاریٰ نجران نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
حضرت مسیح علیہ السلام کی الوہیت کے بارے میں آپ ﷺ نے
مناظرہ اور مکالمہ شروع کیا اور یہ کہا کہ اگر حضرت مسیح ابن اللہ نہیں تو
پھر ان کا باپ کون ہے حالانکہ وہ خدا ہے لاشریک بیوی اور اولاد سے
پاک اور منزہ ہے تو آں حضرت ﷺ نے ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ
تم کو خوب معلوم ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں
نہیں بے شک ایسا ہی ہوتا ہے (یعنی جب یہ تسلیم ہو گیا کہ بیٹا باپ کے
مشابہ ہوتا ہے تو اس قاعدہ سے حضرت مسیح بھی خدا کے مماثل اور مشابہ
ہونے چاہیں حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ خدا بے مثل ہے اور بے چون
و چگون ہے لیس کمثلہ شی ولم یکن له کفو الحد

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار حیسی
لایموت ہے یعنی زندہ ہے کبھی نہ مرے گا اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت اور فنا آنے

والی ہے (اس جواب سے صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں مرے نہیں۔ بلکہ زمانہ آئندہ میں ان پر موت آئے گی) نصارائے نجران نے کہا بے شک صحیح ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ ہمارا پروردگار ہر چیز کا قائم رکھنے والا تمام عالم کا نگہبان اور محافظ اور سب کا رازق ہے۔ نصاریٰ نے کہا بے شک آپ نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ان چیزوں کے مالک ہیں؟ نصاریٰ نے کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تم کو معلوم ہے کہ اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ نصاریٰ نے کہا نہیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا عیسیٰ کی بھی یہی شان ہے؟ نصاریٰ نے کہا نہیں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو رحم مادر میں جس طرح چاہا بنایا۔ نصاریٰ نے کہا ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو خوب معلوم ہے کہ اللہ نہ کھانا کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے اور نہ بول و براز کرتا ہے۔ نصاریٰ نے کہا بے شک۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اور عورتوں کی طرح ان کی والدہ مطہرہ حاملہ ہوئیں اور پھر مریم صدیقہ نے ان کو جتنا جس طرح عورتیں بچوں کو جنارتی ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بچوں کی طرح غذا بھی دی گئی۔ حضرت مسیح کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے اور بول و براز بھی کرتے تھے۔ نصاریٰ نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کس طرح خدا کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟

نصارائے نجران نے حق کو خوب پہچان لیا مگر دیدہ و دانستہ اتباع حق سے انکار کیا۔ اللہ عزوجل نے اس بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں **الم اللہ لا الہ الا هو الحیی القيوم۔**

ایک ضروری تنبیہ

ان تمام احادیث اور روایات سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ احادیث میں جس مسیح کے نزول کی خبر دی گئی اس سے وہی مسیح مراد ہے جس کا ذکر قرآن کریم

میں ہے یعنی وہی مسیح مراد ہیں کہ جو حضرت مریم کے بطن سے بلا باپ کے نفعہ جبرئیل سے پیدا ہوئے اور جن پر اللہ نے انجیل اتاری۔ معاذ اللہ نزول سے امت محمدیہ میں سے کسی دوسرے شخص کا پیدا ہونا مراد نہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مثل ہو۔ ورنہ اگر احادیث نزول مسیح سے کسی مثل مسیح کا پیدا ہونا مراد ہوتا تو بیان نزول کے وقت آن حضرت ﷺ اور ابو ہریرہؓ کا آیت کو بطور استشہاد تلاوت کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ معاذ اللہ اگر احادیث سے نزول میں مثل مسیح اور مرزا کا قادیان میں پیدا ہونا مراد ہے، تو لازم آئے گا کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں مسیح کا ذکر آیا ہے سب جگہ مثل مسیح اور مرزا صاحب ہی مراد ہوں۔ اس لیے کہ آن حضرت ﷺ کا نزول مسیح کو ذکر فرما کر بطور استشہاد آیت کو تلاوت کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ حضور ﷺ کا مقصود انہیں مسیح بن مریم کے نزول کو بیان کرنا ہے جن کے بارے میں یہ آیت اتری، کوئی دوسرا مسیح مراد نہیں۔ اور علی ہذا امام بخاریؒ اور دیگر ائمہ احادیث کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم اور آل عمران اور سورہ نساء کی آیات کو ذکر کرنا اس امر کی صریح دلیل ہے کہ احادیث میں ان ہی مسیح بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جن کی توفی (اٹھائے جانے) اور رفع الی السماء کا قرآن میں ذکر ہے۔ حاشا وکلا قرآن کریم کے علاوہ احادیث میں کوئی دوسرا مسیح مراد نہیں، دونوں جگہ ایک ہی ذات مراد ہے اور اگر بالفرض و التقدير مرزا کے زعم فاسد کی بنا پر ان احادیث میں مثل مسیح کی ولادت مراد ہے اور اس کا مصداق مرزا ہے تو مرزا صاحب اپنے اندر وہ علامتیں بتلائیں کہ جو احادیث میں نزول مسیح کی ذکر کی گئی ہیں۔

(۱) تمام ملتوں کا ختم ہو کر فقط ایک ملت اسلام بن جانا کہ روئے زمین پر سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہ رہے۔

(۲) خنزیر کو قتل کرنا اور صلیب کو توڑ دینا۔ یعنی یہودیت اور نصرانیت کو

مٹا دینا۔

(۳) مال کو پانی کی طرح بہا دینا کہ کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ رہے۔

(۴) اور جزیہ کو اٹھا دینا۔

(۵) اور زمین پر اتنا امن ہو جانا کہ بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں اور بچے سانپوں سے کھیلنے لگیں ان علامتوں میں سے کوئی علامت بھی مرزا کے زمانے میں نہیں پائی گئی۔ بلکہ اس کے برعکس اسلام کو تنزل اور صلیبی مذہب کو ترقی اور اسلامی حکومت کا زوال اور نصاریٰ کا غلبہ جس قدر مرزا کے زمانہ میں ہوا اس کی نظیر نہ گزشتہ میں ہے اور نہ آئندہ میں، ترکی حکومت پر جس قدر بھی زوال آیا وہ تمام کا تمام مرزا کے ہی دور مسیحیت میں آیا۔ مرزا کے زمانہ میں کسر صلیب اور قتل خنزیر کے بجائے خاک بدہن کسر اسلام اور قتل مسلمانان خوب ہوا۔ مرزا کے زمانہ میں عیسائی تو کیا مسلمان ہوتے اٹلے مسلمان عیسائی بنائے گئے۔ مرزا جزیہ کو کیا موقوف کرتے خود ہی نصاریٰ کے باج گزار ہو گئے اور اپنی زمینوں کا ٹیکس اور محصول انگریزوں کو دیتے رہے۔ مسیح موعود کی علامتوں میں سے ایک علامت ”بیض المال حتی لا یقبل احد تھی یعنی اتنا مال بہائیں گے کہ کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ رہے گا۔ مگر مرزا صاحب مال تو کیا بہاتے خود ہی ساری عمر چندہ مانگنے میں گزری۔ کبھی مکان کے لیے چندہ مانگا اور کبھی مدرسہ کے نام سے اور کبھی منارۃ المسیح کے نام سے اور کبھی لنگر خانہ کے نام سے اور کبھی بیعت کی فیس کے نام سے اور کبھی کتابوں کی اشاعت کے نام سے۔

غرض یہ کہ ہر حیلہ سے مال جمع کرنے کی تدبیریں کرتے رہے اور تحصیل دنیا کے وہ نئے نئے طریقے نکالے کہ جو کسی بڑے سے بڑے مکار اور خیال کے وہم و خیال میں بھی نہیں آسکتے۔

اس حقیقت کے واضح اور آشکار ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بد عقل اور بد نصیب ایسے مکار پر اپنی ایمان کی دولت کو قربان اور نثار کرنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار ہے ہمارا کام تو حق اور باطل اور تجی اور مبطل کے فرق کو واضح کر دینا ہے۔ سو الحمد للہ وہ کر چکے دوا کر چکے اور دعا بھی کرتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور اس سے رشد و ہدایت کی دعا کریں،

اور دوا کا استعمال کریں۔

وما علینا الا البلاغ

حیات عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اجماع امت

حافظ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تلخیص المیر ص ۳۱۹ میں فرماتے ہیں:

امارفع عیسیٰ فاتفق اصحاب الاخبار والتفسیر علی رفعہ ببذنه

معیا وانما اختلفوا هل مات قبل ان یرفع لوناہ۔ اسی

یعنی تمام محدثین اور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

اسی بدن کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اختلاف صرف اس بارے میں ہے کہ

رفع الی السماء سے پہلے کچھ دیر کے لیے موت طاری ہوئی یا نہیں۔ یا حالت نوم میں

اٹھائے گئے۔

(اور تفسیر بحر المحیط کے ص ۴۷۳ ج ۲ پر ہے)

قال ابن عطیة واجمعت الامة علی ماتضمنہ الحدیث المتواتر من

ان عیسیٰ فی السماء حیوی وانہ ینزل فی اخر الزمان آم۔

ترجمہ = یعنی تمام امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ

السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں اور اخیر زمانہ میں نازل ہوں گے جیسا کہ

احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔

(اور تفسیر النہر الماء کے ص ۴۷۳ ج ۲ پر ہے)

واجتمعت الامة علی ان عیسیٰ حیوی فی السماء وینزل الی

الارض۔ (اور تفسیر جامع البیان کے ص ۵۲ پر ہے)۔

والاجماع علی انہ حیوی فی السماء وینزل ویقتل الدجال ویؤید

الدین۔ اہ

امام ابوالحسن اشعری قدس اللہ سرہ کتاب الابادۃ عن اصول الدیادۃ کے

ص ۴۶ پر فرماتے ہیں

قال اللہ عزوجل یعیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ وقال اللہ تعالیٰ وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیم۔ واجمعت الامۃ علی ان اللہ عزوجل رفع عیسیٰ الی السماء۔

شیخ اکبر قدس اللہ سرہ فتوحات یکہ کے باب (۷۳) میں فرماتے ہیں

لاخلاف فی انہ ینزل فی اخر الزمان

علامہ سفارینی شرح عقیدۃ سفارینیہ ص ۹۰ ج ۲ پر فرماتے ہیں:

کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول من السماء کتاب اور سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اول آیت وان من اهل الکتب الایۃ نقل کی اور ابوہریرہ کی حدیث نقل کی اب اس کے بعد فرماتے ہیں:

واما الاجماع فقد اجتمعت الامۃ علی نزولہ ولم یخالف فیہ احد من اهل الشریعۃ وانما انکر ذلک الفلاسفۃ والملاحدۃ ممن لایعتد بخلافہ وقد انعقد اجماع الامۃ علی انہ ینزل ویحکم بہذہ الشریعۃ المحمدیۃ ولیس ینزل بشریعۃ مستقلۃ عندہ نزولہ من السماء وان کانت النبوة قائمۃ بہ وهو متصف بہا۔

ترجمہ = یعنی رہا اجماع! سو تمام امت محمدیہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور نازل ہوں گے اور اہل اسلام میں سے اس کا کوئی مخالف نہیں۔ صرف فلاسفہ اور لٹھ اور بے دین لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے جن کا اختلاف قابل اعتبار نہیں اور نیز تمام امت کا اجماع اس پر ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق حکم کریں گے مستقل شریعت لے کر آسمان پر نازل نہ ہوں گے، اگرچہ وصف نبوت ان کے ساتھ قائم ہو گا۔

رفع الی السماء اور نزول من السماء الی الارض

کی حکمت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ کمال قال و قولہم انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ اور وصال جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہو گا وہ بھی قوم یہود سے ہو گا۔ اور یہود اس کے قہج اور پیرو ہوں گے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے اور وصال کو قتل کریں گے تاکہ خوب واضح ہو جائے کہ جس ذات کی نسبت یہودیہ کہتے تھے کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا وہ سب غلط ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے زندہ آسمان پر اٹھایا اور اتنے زمانہ تک ان کو زندہ رکھا اور پھر تمہارے قتل اور بربادی کے لیے اتارا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ تم جن کے قتل کے مدعی تھے ان کو قتل نہیں کر سکے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قتل کے لیے نازل کیا اور یہ حکمت فتح الباری کے باب نزول عیسیٰ ص ۳۵۷ ج ۱۰ پر مذکور ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے اور ملک شام ہی میں نزول ہو گا تاکہ اس ملک کو فتح فرمائیں۔ جیسا کہ نبی اکرم ﷺ ہجرت کے چند سال بعد فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے شام سے آسمان کی طرف ہجرت فرمائی اور وفات سے کچھ روز پہلے شام کو فتح کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے اور یہود کا استیصال فرمائیں گے اور نازل ہونے کے بعد صلیب کا توڑنا بھی اسی طرف مشر ہو گا کہ یہود اور نصاریٰ کا یہ اعتقاد کہ مسیح بن مریم صلیب پر چڑھائے گئے بالکل غلط ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے۔ اس لیے نازل ہونے کے بعد صلیب کا نام و نشان بھی نہ چھوڑیں گے۔

اور بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حق تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تم نبی کریم کا زمانہ پاؤ تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ کما قال تعالیٰ لتؤمنن بہ ولتنصرنہ اور انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ

حضرت عیسیٰ السلام پر ختم ہوتا تھا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا تاکہ جس وقت دجال ظاہر ہو اس وقت آپ آسمان سے نازل ہوں اور رسول اللہ ﷺ کی امت کی مدد فرمائیں۔

کیونکہ جس وقت دجال ظاہر ہو گا وہ وقت امت محمدیہ پر سخت مصیبت کا وقت ہو گا اور امت شدید امداد کی محتاج ہوگی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نازل ہوں گے تاکہ امت محمدیہ کی نصرت و اعانت کا جو وعدہ تمام انبیاء کر چکے ہیں وہ وعدہ اپنی طرف سے اصالۃ اور باقی انبیاء کی طرف سے دکالتاً ایضا فرمائیں فافہم ذلک فانہ لطیف۔

اور بعض علماء نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کی امت کے اوصاف دیکھے تو حق تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ مجھے بھی امت محمدیہ میں سے کر دیجئے۔ حق تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور ان کو آخر زمانہ تک باقی رکھا اور قیامت کے قریب دین اسلام کے لیے ایک مجدد کی حیثیت سے تشریف لائیں گے تاکہ قیامت کے نزدیک ان کا حشر امت محمدیہ ﷺ کے زمرہ میں ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں

حافظ شمس الدین ذہبی تجرید میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی اصابہ میں اور علامہ ذرقانی شرح مواہب میں تحریر فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم جس طرح نبی اللہ اور رسول اللہ ہیں اسی طرح صحابی بھی ہیں۔ اس لیے کہ مسیح بن مریم علیہما السلام نے نبی اکرم ﷺ کو لیلۃ المعراج میں بحالت حیات وفات سے پہنچا اسی جسد غضری کے ساتھ دیکھا ہے اور دوسرے حضرات انبیاء علیہم السلام نے نبی اکرم ﷺ کو لیلۃ المعراج میں اپنی اپنی وفات کے بعد دیکھا ہے:

روی ابن عساکر عن انس قلنا یا رسول اللہ راينا صافحت شیوا ولا نرله قال ذلك لحنی عیسیٰ بن مریم انتظرته حتى قضی طوافه فسلمت علیه (ذرقانی شرح مواہب ص ۳۴۷ ج ۵)

ترجمہ = ابن عساکر نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو کسی سے مصافحہ کرتے دیکھا مگر اس شخص کو نہ دیکھا جس سے آپ نے مصافحہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ وہ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم تھے میں ان کا شہر رہا یہاں تک کہ وہ اپنے طواف سے فارغ ہوئے تب میں نے ان کو سلام کیا۔

وروی ابن عدی عن انس بینا نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم انرا ینا بر داویدا فقلنا یا رسول اللہ ما هذا الذی راينا والید قال قدر ایتموه قلنا نعم قال ذاک عیسیٰ بن مریم سلم علی۔

ترجمہ = ابن عدی نے انسؓ سے روایت کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے اچانک ایک چادر اور ایک ہاتھ نظر آیا۔ ہم نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ میرے بھائی عیسیٰ بن مریم تھے۔ جنہوں نے اس وقت مجھ کو سلام کیا۔

عیسیٰ علیہ السلام کا نبی اکرم ﷺ کے معاصر ہونا تو دلائل حیات سے معلوم ہو چکا تھا، مگر احادیث معراج اور ابن عساکر اور ابن عدی کی روایت سے ملاقات بھی ثابت ہو گئی۔ اس لیے اگر بالفرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم ﷺ سے کوئی روایت فرمائیں تو اس روایت کو علی شرط البخاری حدیث متصل سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ امام بخاریؒ کے نزدیک اتصال روایت کے لیے ثبوت لقا شرط ہے اور امام مسلم کے نزدیک محض معاشرت کافی ہے۔

علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابی ہونے کو بطور انجامز اور معتمد اپنے ایک قصیدہ میں ذکر کیا ہے۔

من باتفاق جمعی الاخلق افضل من
خیر الصحاب ابی بکر و من عمر
وہ کون شخص ہے کہ جو بالاتفاق ابو بکرؓ اور عمرؓ سے بھی افضل ہے کہ جو
تمام صحابہ سے افضل و بہتر ہیں۔

ومن علی و من عثمان و هو فتی
من امة المصطفیٰ المختار من مضر
اور جو شخص علیؓ اور عثمانؓ سے بھی افضل ہے حالانکہ وہ شخص محمد مصطفیٰ
کی امت کا ایک فرد ہے

الشی بالشی یدکر ایک شے کے ذکر سے دوسری شے یاد آتی ہے
حافظ عسقلانی اسبابہ میں فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام جمہور محدثین کے نزدیک نبی
ہیں مگر صحابی بھی ہیں جیسا کہ بعض روایات سے خضر علیہ السلام کی ملاقات نبی اکرم
ﷺ سے معلوم ہوتی ہے تفصیل اگر درکار ہو تو اسبابہ کی مراجعت فرمائیں۔
عبد ضعیف کتا ہے (عفا اللہ عنہ) کہ اس روایت میں انس بن مالک رضی
اللہ عنہ کی بھی خضر علیہ السلام سے ملاقات مذکور ہے۔ اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ
انس بن مالکؓ دو پیغمبروں کے صحابی ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلمہ شاید خلاف
حق نہ ہو گا۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم و علمہ اتم و احکم سبحان رب
العزۃ عما یصفون ○ وسلم علی المرسلین والحمد لله رب العلمین ○
فاطر السموت والارض انت ولی فنی الدنیا والاخرۃ توفی مسلما و
الحقنی بالصلحین
اللہم انی اعوذ بک من غلب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال و
اعوذ بک من فتنۃ المحیا و المماتہ آمین برحمتک یا راحم الراحمین
یا ذا الجلال والاکرام

وانا العبد الضعیف المدعو

محمد اور لیس الکاندھلوی

لجاره اللہ تعالیٰ من خزی الدنيا وعذب الاخرة - امین

تقریظ

از آیۃ اللف و حجتہ الخلف حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب

سابق صدر الدرسین دارالعلوم دیوبند

الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على

رسوله محمد واله واصحابه اجمعين

اما بعد! رسالہ کلمتہ اللہ فی حیات روح اللہ مصنفہ علامہ فہامہ جناب مولوی

محمد اور لیس صاحب کاندھلوی مدرس دارالعلوم دیوبند کا احقر نے کہیں سے دیکھا اور

بعض مضامین کو جناب مولف ممدوح کی زبان سے سنا۔ رسالہ مذکورہ حیات عیسیٰ علیہ

السلام میں کافی و شافی اور مباحث متعلقہ کا حاوی اور جامع ہے۔ نقول معتمد اور

مستند کتابوں سے لی گئی ہیں اور عمدہ سے عمدہ قول سامنے رکھ دیا ہے علماء اور طلباء

کو تلاش اور تتبع سے بے نیاز کر دیا ہے۔ امید ہے کہ طلباء اس کی قدر کریں گے

خلوق کو جو دجال کے فتنہ میں مبتلا ہے ہدایت اور ارشاد کا ذریعہ ہو گا۔ حق تعالیٰ

جناب مولف کی سعی مشکور اور عمل مبرور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

احقر محمد انور عفا اللہ عنہ

مدرس دارالعلوم

تقریظ

از فخر المتکلمین مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلم على عباده الذين اصطفى

تقریباً دو سال ہوئے کہ بمقام فیروزپور (پنجاب) قادیانی مرزائیوں سے متنازع فیہ مسائل میں علماء دیوبند کی گفتگو ہوئی تھی۔ سب سے پہلی بحث حضرت مسیح بن مریم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیات اور رفع الی السماء اور دوبارہ تشریف آوری کے متعلق تھی، جس میں دیوبند کی طرف سے برادر محرم جناب مولوی محمد ادریس صاحب کاندھلوی مدرس دارالعلوم وکیل تھے مولوی صاحب نے جو عالمانہ اور محققانہ تقریر فرمائی بجز اللہ تعالیٰ نہ صرف عام پبلک ہی اس سے محفوظ اور مطمئن ہوئی بلکہ بندہ کے روبرو بعض ممتاز مرزائیوں نے بھی اس کی معقولیت اور سنجیدہ روش کی داد دی اور اس طرح مولوی صاحب کے عالمانہ طرز استدلال نے منکرین سے بھی خراج تحسین وصول کیا۔

والفضل ماشہدت بہ الاعلاء

میں نے اسی وقت مولانا موصوف سے درخواست کی تھی کہ آپ اس مسئلہ کے تمام اطراف و جوانب کی توضیح و تحقیق ایک کتاب کے ذریعہ سے اس طرح کر دیجئے کہ غائب و حاضر کے لیے اس میں بصیرت ہو اور مسئلہ کا تمام مادہ بیک نظر سامنے آجائے اور کسی باطل پرست کو گنجائش نہ رہے کہ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد وہ ایک حق پرست کے قدم ڈگمگاسکے۔ حق تعالیٰ شانہ مولوی صاحب موصوف کے علم و عمل میں ترقی عطا فرمائے کہ انہوں نے میری اس ناچیز گزارش کو رائیگاں نہیں جانے دیا اور بڑی محنت و عرق ریزی کے بعد ایک ایسی تالیف برادران اسلام کے سامنے پیش کر دی جس میں اس اہم مسئلہ کا کافی و شافی حل موجود ہے اور شاید یہ کہتا مبالغہ نہ ہو گا کہ اس باب میں اس وقت تک کوئی کتاب اس قدر جامع اور حاوی ایسے ساوہ اور بے تکلف طرز میں نہیں لکھی گئی۔ ناظرین مطالعہ کے بعد خود اندازہ لگا سکیں گے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ از سر تپا واقعہ ہے اور ان کو ممنون ہونا چاہیے مولف محترم کا اور ان اکابر دارالعلوم کا جن کی توجہ اور سعی سے یہ پیش بہار سالہ نور افزائے دیدہ شائقین ہوا۔

شیر احمد عثمانی

دیوبند۔ ۱۷ جمادی الاخر ۱۳۴۲ھ

الْقَوْلُ لِلَّهِ حَكِيمٌ

فِي

نَزُولِ ابْنِ مَرْكَمٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين و العاقبة للمتقين و الصلوة والسلام
 على سيدنا و مولانا محمد خاتم الانبياء و المرسلين و على اله و اصحابه و
 نزواجه و ذرياته اجمعين و علينا معهم يا رحمن الرحمين
 اما بعد۔ عند نبوت سے لے کر اس وقت تک تمام روئے زمین کے
 مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلا آیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم
 جو بنی اسرائیل میں مریم عذرا کے بطن سے بغیر باپ کے نفضہ جبرئیل سے
 پیدا ہوئے اور پھر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اور یہود بے بہود نے
 جب ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان کو زندہ آسمان پر لے
 گئے۔ اور جب قیامت کے قریب دجال ظاہر ہو گا جو قوم یہود سے ہو گا اس وقت
 یہی عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے جو اس وقت
 یہود کا بادشاہ اور سردار ہو گا۔

نکتہ (۱)

یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم رسول اللہ کو قتل کیا اور ان کو
 ذلیل اور رسوا کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب ان کو آسمان سے اس طرح اتارے
 گا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں گے کہ یہود جھوٹ بولتے تھے کہ ہم نے

ان کو قتل کیا ہے۔ وہ زندہ تھے آسمان سے نازل ہو کر تمہارے سردار کو قتل کریں گے اور تم سب کو ذلیل اور خوار کریں گے۔

نکتہ (۲)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنس بشر سے ہیں۔ کفار کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مدت معینہ کے لیے آسمان پر اٹھایا اور طویل عمر عطا فرمائی۔ جب عمر شریف اختتام کے قریب ہو گی اور زمانہ وفات کا نزدیک ہو گا تو آسمان سے زمین پر اتارے جائیں گے تاکہ زمین پر وفات ہو۔ کیونکہ کوئی انسان آسمان پر فوت نہ ہو گا۔ منہا خلقنکم و فیہا نعیدکم و منہا نخر حکم نارۃ اخری۔

ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹا دیں گے اور پھر اسی سے نکالیں گے۔

نکتہ (۳)

دجال اولاً "نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ عیسیٰ بن مریم اس مدعی نبوت اور الوہیت کے قتل کے لیے آسمان سے نزول جلال فرمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا مستحق قتل ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ اور متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے اور انجیل بھی اس کی شاہد ہے۔ جیسا کہ ہم عن قریب اس کو ثابت کریں گے۔

دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ احادیث میں جس مسیح موعود کے نزول کی خبر دے گئی ہے اس سے اس کے شیل اور شبیہ کا آنا مراد ہے اور وہ میں (یعنی خود مرزا) ہوں اور وہ مسیح بن مریم جو نبی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ محتول اور مصلوب ہوئے اور واقعہ صلیب کے بعد دشمنوں سے چھوٹ کر کشمیر تشریف لائے اور ستاسی سال زندہ

رہ کر شہر سری نگر کے محلہ خان یار میں مدفون ہوئے۔

افسوس اور صد افسوس!

کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سفید جھوٹ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں مگر قرآن کریم کی آیات بینات اور احادیث نبویہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔

یہ ناچیز اہل اسلام کی ہدایت اور نصیحت کے لیے یہ مختصر رسالہ لکھ کر پیش کر رہا ہے۔ جس میں آنے والے مسیح موعود کی علامتوں اور نشانیوں کو قرآن اور حدیث سے بیان کیا ہے تاکہ مسلمان کسی دھوکے اور اشتباہ میں نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ رسول خدا ﷺ نے جو آنے والے مسیح کی علامتیں بیان فرمائی ہیں مرزا صاحب میں ان کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔

مرزائیوں سے مخلصانہ اور ہمدردانہ استدعا

اہل اسلام سے عموماً اور مرزائیوں سے خصوصاً "نیاز مندانہ اور ہمدردانہ استدعا کرتا ہوں کہ اس رسالہ کو خوب غور سے پڑھیں اور سوچیں کہ مسیح موعود کی جو علامتیں احادیث میں آئی ہیں ان کا کوئی شہ بھی مرزا صاحب میں پایا جاتا ہے یا نہیں۔ دنیا فانی اور آنی جانی ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے خوب غور اور فکر کریں اور حق جل شانہ کی طرف رجوع کریں اور دعا کریں کہ اے اللہ ہم کو صحیح علم اور صحیح فہم عطا فرما اور گمراہی سے بچا اور قبول حق کی توفیق عطا فرما اور استقامت کی لازوال دولت سے مالا مال فرما۔ آمین ثم آمین۔

اب میں دلائل شروع کرتا ہوں اور حق جل شانہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی رحمت اور حمایت کا طلب گار اور امیدوار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم ونب علینا انک انت التواب الرحيم فاقول وباللہ التوفیق وبیدہ لزمۃ التحقيق وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ

انیب

قرآن کریم

اولاً ہم قرآن کریم کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول کا اجمالاً ذکر ہے۔ بعد میں احادیث نبویہ کو ذکر کریں گے جن میں اس کی پوری تفصیل ہے اور اس درجہ تفصیل ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی تاویل کی گنجائش نہیں اور بعد ازاں اجماع امت نقل کریں گے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے۔

(۱) قال تعالیٰ وان من اهل الکتاب الا لیومنن به قبل موتہ ویوم

القیمة یکون علیہم شہیدا ○

ترجمہ = اور نہیں باقی رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی شخص مگر حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ضرور ایمان لائے گا اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔

جمہور اہل علم کا قول ہے کہ اس آیت میں بہ اور قبل موتہ کی دونوں ضمیریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ ”نہیں رہے گا کوئی شخص اہل کتاب میں مگر البتہ ضرور ایمان لے آئے گا زمانہ آئندہ یعنی زمانہ نزول میں“ عیسیٰ علیہ السلام پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے“ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ اس آیت کا ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں:

”باشد ہیچ کس از اہل کتاب الا البتہ ایمان آرد جیسی پیش از مردن او و روز

قیامت عیسیٰ گواہ شد برایشان۔ (فائدہ) مترجم می گوید یعنی یہودی کہ حاضر شوند

نزول عیسیٰ را البتہ ایمان آرنند۔“ افسی۔

امام ابن جریر طبری اور حافظ کثیر اپنی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں زمانہ نزول کے اس واقعہ کا ذکر ہے جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ تفصیل

کے لیے تفسیر ابن کثیر کی مراجعت فرمائیں اور یہی تفسیر ابن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے منقول ہے۔ حافظ عسقلانی فتح الباری ص ۳۵۶ ج ۶ میں فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم سے یہی تفسیر منقول ہے۔ اس آیت میں ایک اور قرأت بھی ہے جس کا ذکر ہم نے اپنے رسالہ کلمتہ اللہ فی حیات روح اللہ میں ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام اس کی مراجعت کریں۔

(۲) قال اللہ عزوجل وانہ لعلم للساعۃ فلا تمترن بہا واتبعون ہذا

صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطن انہ لکم عدو مبین ○
ترجمہ = اور تحقیق وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ علامت ہیں قیامت کی پس اس بارے میں تم ذرہ برابر شک اور تردد نہ کرو اور (اے محمدؐ آپ کہہ دیجئے کہ) اس بارے میں میرے پیروی کرو یہی سیدھا راستہ ہے کہیں شیطان تم کو اس راہ سے نہ روک دے تحقیق وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو علامت قیامت ماننا یہی سیدھا راستہ ہے اور جو اس سے روکے وہ شیطان ہے۔ امام حافظ عماد الدین بن کثیر فرماتے ہیں کہ انہ لعلم لساعۃ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونا مراد ہے جیسا کہ عبد اللہ بن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ اور مجاہدؓ اور ابو العالیہؓ اور ابو مالکؓ اور عکرمہؓ اور حسن بصریؓ اور قتادہؓ اور ضحاکؓ وغیرہم سے منقول ہے جیسا کہ وان من اہل الکتب الایہ اور احادیث متواترہ سے حضرت عیسیٰ کا نزول قبل از قیامت ثابت اور محقق ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ۱۳۶ ج ۹)

حضرت مسیح مریم کی حوالہ ریسین کو اپنے نزول کی بشارت اور جھوٹے مسیحوں اور جھوٹے نبیوں کی خبر اور ان سے خبردار رہنے کی ہدایت ”خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ میں مسیح ہوں۔“ (انجیل متی ب ۲۳)

اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹے مدعیان مسیحیت اور جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق حضرت عیسیٰ کی ہدایت اور اپنے نزول کے متعلق حوالہ رسین کو بشارت ہدیہ ناظرین کریں تاکہ موجب بصیرت اور باعث طمانیت ہو۔

انجیل متی باب ۲۴، درس اول

(۱) اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا۔ (۳) اور جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا اس کے شاگردوں نے الگ اس کے پاس آکر کہا ہم کو بتا کہ باتیں کب ہوں گی اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر (۴) ہونے کا کیا نشان ہو گا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار! (۵) کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے ○ کیونکہ بہترے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے ○ (۱۱) اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتروں کو گمراہ کریں گے ○ (۱۲) اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی ○ (۱۳) مگر جو آخر تک برواشت کرے گا وہ نجات پائے گا ○ اور بادشاہی (۱۴) کی اس خوش خبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو تب خاتمہ ہو گا۔ ○ (۲۱) کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے اب تک (۲۲) ہوئی نہ کبھی ہوگی ○ اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ چچتا مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے ○ اس وقت (۲۳) اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا ○ (۲۴) کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی (۲۵) گمراہ کر لیں ○ دیکھو میں نے پہلے ہی تم سے کہہ دیا ہے ○ (۲۶) پس اگر وہ تم سے کہیں کہ دیکھو وہ بیابان میں ہے تو باہر نہ جانا دیکھو وہ کوٹھریوں میں ہے تو یقین نہ کرنا ○ کیونکہ جیسے بجلی (۲۷) پورپ سے کوند کر پچھتم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا (۲۸) آنا ہو گا ○ جہاں مردار ہے وہاں گدھ جمع ہو جائیں گے ○ (۲۹) اور فوراً ان دونوں کی

مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور ستارے آسمان سے گریں گے اور (۳۰) آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی ○ اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا اور اس وقت زمین کی سب قوتیں چھاتی ٹھٹھیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ (۳۱) آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی ○ اور زلزلے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اپنے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے ○

اجماع امت

علامہ سفارینی شرح عقیدۃ سفارینیہ ص ۹۰ ج ۲ پر لکھتے ہیں:

امالاجماع فقد اجتمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من اهل الشريعة وانما انكر ذلك الفلاسفة والملاحدة مما لا يعتد بخلافه وقد انعقد اجماع الامة على انه ينزل ويحكم بهذه الشريعة المحمدية وليس ينزل بشرية مستقلة عند نزوله من السماء وان كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها وينسلم الامر من المهدي ويكون المهدي من اصحابه واتباعه كسائر اصحاب المهدي حتى اصحاب الكهف الذين هم من اتباع المهدي كما مر-

شیخ اکبر قدس اللہ سرہ فتوحات کیہ کے باب (۷۳) میں فرماتے ہیں:

لا خلاف فی انه ينزل فی اخر الزمان-

اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ (عیسیٰ بن مریم) آخر زمانہ میں نازل ہوں گے۔

ابن حیان تفسیر بحر محیط اور النہر الماویں لکھتے ہیں:

”اجتمعت الامة على ان عيسى حيا في السماء وانه ينزل في

اخر الزمان على ما تضمنه الحديث المتواتر (ص ۷۳ ج ۲)

مرزا اظلام احمد کا اقرار و اعتراف

”اس بات پر تمام سلف اور خلف کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عیسیٰ جب نازل ہو گا تو امت محمدیہ میں داخل کیا جائے گا۔“

(ازالہ الادہام ص ۵۶۹ حصہ دوم، روحانی خزائن ص ۳۰۷ ج ۳)

دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب کا یہ عقیدہ تھا کہ آنے والا مسیح وہی عیسیٰ بن مریم رسول اللہ ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے چھ سو برس پہلے گزرے ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب اپنی الہامی کتاب میں لکھتے ہیں:

”اور جب مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار پھیل جاوے گا۔“

(براین احمدیہ ص ۳۹۸ د ص ۳۹۹ روحانی خزائن ص ۵۹۳ ج ۱)

احادیث نزول عیسیٰ بن مریم صلی اللہ علیہ وسلم

اس بارہ میں سب سے زیادہ جامع اور مکمل اور مفصل رسالہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندیؒ سابق مفتی دارالعلوم دیوبند کا ہے جس میں نہایت تفصیل کے ساتھ مع حوالہ کتب احادیث نزول کو جمع فرمایا ہے میرے علم میں اب تک اس موضوع پر اس کتاب سے زیادہ جامع کوئی کتاب نہیں لکھی گئی یہ کتاب درحقیقت زہری وقت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب قدس اللہ سرہ سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کا الماء ہے جس کو مولانا المحترم مفتی محمد شفیع صاحب نے مرتب فرما کر اہل اسلام کے لیے ایک گراں قدر علمی اور دینی تحفہ پیش کیا۔ جزاء اللہ عن الاسلام و المسلمین خیرا۔ (اس کا نام التصریح بما نواتر فی نزول المسیح ہے) اب ہم چند منتخب احادیث ہدیہ ناظرین کرتے ہیں:

حدیث اول

عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الحرب و یفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تكون السجدة الواحدة خیرا من الدنیا و ما فیہا ثم یقول ابو ہریرۃ و اقرؤا ان شتم و ان من اهل الکتب الا لیومنن بہ قبل موته و یوم القیمة ینزل علیہم شہیدا ○

(رواہ البخاری و مسلم ص ۸۷ ج ۱)

ترجمہ = حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بے شک قریب ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ یعنی شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلہ کریں گے اور وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جنگ کو ختم کر دیں گے اور مال کی انتہی بہتات کر دیں گے کہ کوئی اس کو قبول نہ کرے گا اور (اس وقت) ایک سجدہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہو جائے گا۔ یعنی عبادت کا ذوق اور شوق دلوں میں اس درجہ پیدا ہو جائے گا کہ ایک سجدہ روئے زمین کی دولت سے زیادہ بہتر معلوم ہو گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہؓ کہتے تھے کہ (اس کی تائید کے لیے) چاہو تو یہ آیت پڑھ لو وان من اهل الکتب (الایۃ) یعنی کوئی شخص اہل کتاب میں سے نہ ہو گا مگر یہ کہ وہ ضرور بالضرور عیسیٰ پر عیسیٰ کی وفات سے پہلے ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ (عیسیٰ) ان پر شاہد ہوں گے۔

حدیث دوم

عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیف انتم

اذنزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم
(رواہ البخاری و مسلم ص ۸۷ ج ۱) و فی لفظہ لمسلم فامکم فی لفظہ
اخری فامکم منکم و اخرجه احمد فی مسندہ ص ۳۳۰ و لفظہ
کیف بکم اذا نزل الخ۔

ترجمہ = رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہاری خوشی کا اس وقت کیا
حال ہو گا جب کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ اور تمہارا امام
تم میں سے ہو گا یعنی امام مدنی تمہارے امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ
علیہ السلام باوجود نبی اور رسول ہونے کے امام مدنی کا (پہلی نماز میں)
اقتداء کریں گے۔

ف

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مدنی دو شخص
الگ الگ ہیں۔ امام مدنی امامت کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی اقتداء کریں
گے۔

حدیث سوم

عن النواس بن سمران قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الدجال۔ الی ان قال فبینما هو كذلك اذ بعث اللہ المسیح بن
مریم فینزل عند المنارة البیضا شرقی دمشق بین مہر و ذئین و
اضعا کفیه علی اجنحة ملکین اذا طاطا راسه قطر و اذا رفعه
تحدر منه جمان کاللولوء فلا یحل لکافر یجد ریح نفسه الامات
و نفسه منتمی الی حیث ینتمی طرفہ فیطلبہ حتی یدرک بباب
لذی قتلہ الحدیث بطولہ۔

(رواہ مسلم ص ۳۰۲ ج ۲ و ابوداؤد ص ۱۳۵ ج ۲ و الترمذی ص ۴۷ ج ۲ و احمدی

مسندہ ص ۱۸۱ ج ۳ و ص ۱۸۲ ج ۳)۔

ترجمہ = نواس بن سمانؓ سے مروی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ نے دجال کا ذکر فرمایا اور دیر تک اس کا حال بیان فرمایا اور آیت کافج کا حصہ ہم نے چھوڑ دیا اور پھر اخیر میں یہ فرمایا کہ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ یکایک عیسیٰ بن مریم دمشق کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر آسمان سے اس شان سے نازل ہوں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے جب اپنے سر کو جھکائیں گے تو اس میں سے بوندیں ٹپکیں گی اور جب سر کو اٹھائیں گے تو اس سے موتی کے سے قطرے ڈھلیں گے اور جس کافر کو ان کے سانس کی ہوا لگے گی وہ مرجائے گا اور ان کا سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی یہاں تک کہ وہ دجال کو (دمشق کے) باب لد مقام پر پائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔

(اس حدیث کو مسلم نے ص ۴۰۲ ج ۲ اور ابوداؤد نے ص ۱۳۵ ج ۲ اور ترمذی نے

ص ۴۷ ج ۲ اور امام احمد نے مسند میں ص ۱۸۱ و ص ۱۸۲ ج ۴ پر روایت کیا ہے)

حدیث چہارم

و عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس بینی و بین عیسیٰ نبی و انہ نازل فانزل ایتموہ فاعرفوہ رجل مربع الی الحمرة و البیاض بین مصرتین کان راسہ یقطر و ان لم یصبہ بلل فیقاتل الناس علی الاسلام فیدق الصلیب و یقتل الخنزیر و یضع الجزیة و یهلك اللہ فی زمانہ الملل کلہا الا الاسلام و یهلك المسیح الدجال فیمکث فی الارض لربعمین سنة ثم یتوفی فیصلی علیہ المسلمون (راہہ ابوداؤد ص ۱۳۵ ج ۲) و اخرجہ احمد فی مسندہ و زاد فیہ و یهلك اللہ فی زمانہ المسیح الدجال ثم تقع الامانة علی الارض حتی ترتع الاسود مع الابل و النمار

مع البقر و الذناب مع الغنم و يلعب الصبيان و الغلمان بالحيات
 لانصرهم فيمكث ماشاء الله ان يمكث ثم يتوفى فيصلى عليه
 المسلمون و يدفنونه وقال الحافظ العسقلاني رواه ابو لؤد و احمد
 باسناد صحيح- (بخ الباری ص ۳۵۷ ج ۶ باب نزول عیسیٰ بن مریم)۔

ترجمہ = حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 ﷺ نے فرمایا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں اور وہ
 (عیسیٰ بن مریم) نازل ہونے والے ہیں پس جب تم ان کو دیکھو تو (ان
 علامتوں سے) ان کو پہچان لینا وہ ایسے شخص ہو گے جن کا رنگ سرخی اور
 سفیدی کے درمیان ہو گا دو رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے (ان کا
 جسم ایسا شفاف ہو گا) گویا ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے اگرچہ اس میں
 تری نہ پہنچی ہو، پھر اسلام کے لیے لوگوں سے قتال کریں گے صلیب توڑ
 ڈالیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ ان
 کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ سب مذہبوں کو مٹا دے گا سوائے اسلام کے، اور
 اللہ تعالیٰ ان کے زمانہ میں مسیح و جال کو ہلاک کر دے گا۔ پھر وہ عیسیٰ بن
 مریم زمین پر چالیس سال رہیں گے اس کے بعد وفات پائیں گے اور
 مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے (یہ روایت ابو داؤد کی ہے) اور امام
 احمد کی مسند میں اس کے ساتھ یہ اضافہ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے
 زمانہ میں مسیح و جال کو ہلاک کر دے گا اور امانت داری تمام روئے زمین
 پر قائم ہو جائے گی۔ یہاں تک شیر اونٹوں کے ساتھ اور چیتے گائے کے
 ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چرنے لگیں گے اور بچے سانپوں کے
 ساتھ کھیلیں گے اور وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں گے۔ پھر جب تک اللہ
 چاہے گا وہ زمین پر رہیں گے پھر وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز
 جنازہ پڑھیں گے (حافظ عسقلانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو ابو داؤد اور
 امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے)

(فتح الباری ص ۳۵۷ ج ۶ باب نزول عیسیٰ بن مریم)

حدیث پنجم

عن ابن مسعود قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم لقيت ليلة اسرى بى ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فذكروا امر الساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لى بها فردوا امرهم الى موسى فقال لا علم لى بها فردوا امرهم الى عيسى فقال اما وجبتها فلا يعلم بها احدا لا الله فيما عهد الى ربي ان الدجال خارج و معي قضيبان فاذا راتى ذاب كما يذوب الرصاص - (مسند امام احمد معتق ابن ابى شيبة سنن نعمتي)

ترجمہ = حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا میں شب معراج میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملا پھر انہوں نے قیامت کا تذکرہ کیا اور سب نے اپنے اس امر کی تحقیق کے لیے حضرت ابراہیم کی طرف رجوع کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے قیامت کے وقت کا کوئی علم نہیں پھر سب نے حضرت موسیٰ کی طرف رجوع کیا۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھ کو قیامت کے وقت کا علم نہیں پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے وقوع کا علم تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں، مگر جو احکام مجھے دیے گئے ہیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ دجال نکلے گا اور اس وقت میرے ہاتھ میں دو لکڑیاں ہوں گی جب وہ مجھ کو دیکھے گا تو اس طرح پھل جائے گا جیسے سیرہ پھلتا ہے۔

حدیث ششم

اخبرنا ابو عبد الله الحافظ انا ابو بكر بن اسحاق انا احمد بن ابراهيم ثنا ابى بكر بن رثي الليث عن يونس عن ابن شهاب عن نافع مولى

ابی قتادة الانصاری قال ان اباهريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فيكم و امامكم منكم انتمى۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہو گا تمہارا جب کہ عیسیٰ بن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہو گا۔ (اسناد اس روایت کی صحیح ہے) (اور امام بیہقی نے کتاب الایمان و الصفات ص ۲۰۱ میں اس کو لکھا ہے)

تنبیہ

اس روایت میں نزل کے ساتھ من السماء کا لفظ صراحت "موجود ہے۔"

حدیث ہفتم

عن ابن عباس مرفوعا قال الدجال لول من يتبعه سبعون الفامن اليهود عليهم التيجان (الی قولہ) قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعند ذلك ينزل اخى عيسى بن مریم من السماء على جبل افیق اماما هاديا حکما عادلا عليه برنس له مربع الخلق اصلمت سبط الشعر بيده حربة يقتل الدجال فاذا قتل الدجال تضع الحرب اوزارها فكان السلم فيلقى الرجل الاسد فلا يهيجه و ياخذ الحية فلا تضره تنبت الارض كنباتها على عهد آدم و يومن به اهل الارض و يكون الناس اهل ملة واحدة (اسحق بن بشير۔ كنز العمال ص ۲۶۸ ج ۷)

ترجمہ = حضرت ابن عباسؓ سے یہ مرفوع روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ دجال کے اولین اتباع کرنے والے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو سبز اونٹنی چادریں پہنیں ہوں گے (آگے چل کر) حضرت ابن عباسؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت میرے بھائی عیسیٰ بن مریم

آسمان سے افق پہاڑ پر امام اور ہادی اور حاکم اور عادل ہو کر نازل ہوں گے اور ان پر انکا برنس ہو گا۔ وہ متوسط القامت اور کھلے ہوئے بال والے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہو گا جس سے دجال کا قتل کر دیں گے اور جب دجال کو قتل کر ڈالیں گے تو لڑائی (بالکل) ختم ہو جائے گی اور اس درجہ امن اور سکون ہو جائے گا کہ آدمی شیر کے سامنے آئے گا تو اس سے شیر غصہ میں نہ بھرے گا اور سانپ کو آدمی اٹھائے گا تو وہ اس کو نہ کاٹے گا اور زمین سے پیداوار حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ جیسی ہونے لگے گی اور روئے زمین کے تمام لوگ ان پر (عیسیٰ بن مریم) ایمان لے آئیں گے اور تمام لوگ ایک ملت (اسلامی) بن جائیں گے۔

حدیث ہشتم

عن ابی ہریرۃ مرفوعاً لیہیطن عیسیٰ بن مریم حکماً و اماماً مقسطاً و لیسلمکن فجا حاجا اور معتمر الیاتین قبری حتی یسلم علی ولاردن علیہ۔ (متدرک حاکم)

ترجمہ = حضرت ابی ہریرۃ رسول اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم ضرور ضرور اتریں گے حاکم ہو کر اور سردار منصف ہو کر اور ضرور وہ سفر کریں گے حج یا عمرہ کے لیے اور وہ ضرور آئیں گے میری قبر کے پاس اور ضرور وہ مجھے سلام کریں گے اور ان کے سلام کا ان کو جواب دوں گا۔

حدیث نہم

عن مجمع بن جاریۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقتل ابن مریم الدجال بیاب لد

هذا حدیث صحیح و فی الباب عن عمران بن حصین و نافع بن

عیسینہ و ابی برزہ و حذیفہ بن اسید و ابی ہریرہ و کیسان و عثمان بن ابی العاص و جبیر و ابی امامہ و ابن مسعود عبداللہ بن عمرو و سمرة ابن جندب و النولس بن سمعان و عمرو بن عوف و حذیفہ بن الیمان (ترذی ص ۵۲ ج ۲ کتاب السنن)

ترجمہ = حضرت مجمع بن جاریہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ابن مریم و جال کو باب لد (دمشق میں ایک جگہ) میں قتل کریں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس باب میں عمران بن حصین اور نافع بن عینہ اور ابو ہریرہ اور حذیفہ بن اسید اور ابو ہریرہ اور کیسان اور عثمان بن ابی العاص اور جابر اور ابو امامہ اور ابن مسعود اور عبداللہ بن عمرو اور سمرة بن جندب اور نولس بن سمعان اور عمرو بن عوف اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم سے حدیثیں منقول ہیں۔

حدیث دہم

عن عبد اللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عیسیٰ بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد له ویمکت خمساً واربعمین سنة ثم یموت فیدفن معی فی قبر فاقوم انا و عیسیٰ بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر و عمر

(رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفا کتاب الاذناء ص ۷۷)

ترجمہ = عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر اتریں گے (اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ اس سے پہلے زمین پر نہ تھے بلکہ زمین کے بالمقابل آسمان پر تھے۔) اور نکاح کریں گے اور ان کے اولاد ہوگی اور چینالیس برس (زمین پر) ٹھہریں گے پھر وقات پائیں گے اور میرے ساتھ قبر میں مدفون ہوں گے اور قیامت

کو میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ابو بکر و عمر کے درمیان قبر سے اٹھوں گا۔
اس حدیث کو ابن جوزی نے کتاب الوفاء میں روایت کیا ہے۔
فتلک عشرۃ کاملۃ

احادیث نبویہ

سرور عالم خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ نے قیامت کے قریب پیش آنے والے بہت سے واقعات کی خبر دی ہے جن میں نزول مسیح اور خروج دجال اور ظہور مہدی کی بھی خبر ہے۔
چونکہ حضرت مسیح کا نزول اور قتل دجال اور ظہور مہدی یہ واقعات نہایت اہم تھے اس لیے حضور پر نورؐ نے جس صراحت اور وضاحت کے ساتھ ان ہر سہ امور کو بیان فرمایا شاید ہی کسی اور علامت قیامت کو اس تفصیل اور صراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہو۔ نزول مسیح کے بارے میں جو احادیث منقول ہوئیں علاوہ غیر معمولی تواتر اور کثرت کے ان میں حقیقت نزول کی اس درجہ صراحت اور وضاحت کر دی گئی کہ کسی طغ و زندق کے لیے ذرہ برابر تاویل کی گنجائش نہیں رہی مثلاً احادیث میں حضرت مسیح کا نام اور لقب اور کنیت اور کیفیت ولادت اور والدہ مطہرہ کا نام اور ان کی طہارت و نزاہت اور حضرت زکریا کی کفالت میں ان کی تربیت اور پھر حضرت مسیح کی صورت اور شکل اور قد و قامت اور ان کی نبوت و رسالت اور ان کے معجزات اور یہود بے یهود کی دشمنی اور عداوت اور رفع الی السماء اور قیامت کے قریب ملک شام میں آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا اور نزول کے بعد چالیس پینتالیس سال دنیا میں رہنا اور نزول کے بعد نکاح کرنا اور اولاد کا ہونا۔ اور تمام روئے زمین پر اسلام کی حکومت قائم کرنا اور سوائے دین اسلام کے کسی مذہب کو قبول نہ کرنا، یہودیت اور نصرانیت کو یک لخت صفحہ ہستی سے مٹا دینا اور لوگوں کے دلوں سے بغض اور کینہ کا نکل جانا اور مال پانی کی طرح بہا دینا اور

صلیب کو توڑنا اور خنزیر کو قتل کرنا اور ہندوستان پر فوج کشی کے لیے لشکر روانہ کرنا اور حج بیت اللہ کرنا اور پھر مدینہ منورہ میں وفات پانا اور روضہ اقدس میں نبی اکرم ﷺ کے قریب مدفون ہونا اور اس کے سوا اور بھی علامتیں ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں بغرض اختصار صرف اس پر اکتفا کیا گیا۔

ناظرین ذرا انصاف تو فرمائیں

کہ کیا ان تصریحات کے بعد بھی کوئی ابہام اور اشباہ باقی رہ گیا ہے اور کیا مرزائے قادیان میں ان میں سے کوئی ایک صفت بھی پائی جاتی ہے۔ اور دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا جو تمام مسلمانوں کا ہے۔ جیسا کہ براہین احمدیہ میں اس کی تصریح ہے۔

مرزائیوں کی تحریف

اور کیا ان تصریحات کے بعد اب بھی مرزائیوں کی اس تحریف کی کوئی گنجائش ہے کہ احادیث میں نزول مسیح سے مثل مسیح مراد ہے۔ سبحان اللہ نزول سے تو ولادت کے معنی مراد ہو گئے اور مسیح سے مثل مسیح مراد ہو گیا اور مریم سے مرزا صاحب کی ماں، چراغ بی بی مراد ہو گئی اور دمشق اور بیت المقدس اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا جو لفظ احادیث میں آیا ہے ان سب سے قادیان مراد ہو گیا کیونکہ قادیان ان سب کی سمت میں واقع ہے اور باب لد جو کہ ملک شام میں ایک جگہ ہے اور جہاں حضرت مسیح دجال کو قتل کریں گے اس سے مرزا صاحب کے نزدیک لدھیانہ مراد ہو گیا اور قتل دجال سے مناظرہ میں کسی عیسائی کو شکست دینا مراد ہو گیا۔ سبحان اللہ کیا دیوانہ اس سے بڑھ کر کچھ اور کہہ سکتا ہے؟

نیز مرزا صاحب کو کرشن مہاراج ہونے کا بھی دعویٰ ہے اور کرشن مہاراج کافروں اور بت پرستوں کا اوتار ہے ظاہر ہے وہ مسیح بن مریم کے عین اور مثل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مسیح کی صفات اور کرشن مہاراج کی صفات کا ایک ہونا

قطعاً محال ہے۔

عدالت کی ایک نظیر

اگر عدالت سے کسی شخص کے نام کوئی ڈگری ہو جائے اور کوئی دوسرا شخص عدالت میں یہ دعویٰ دائر کرے کہ وہ ڈگری جس شخص کے نام ہوئی ہے اس سے وہ شخص حقیقتاً "مراد نہیں بلکہ اس کا مثل اور شبیہ مراد ہے وہ مثل اور شبیہ میں ہوں اور اس کی جائے سکونت سے میری جائے سکونت مراد ہے کیونکہ میری جائے سکونت اس کی جائے سکونت کی سمت اور محاذات میں واقع ہے تو کیا عدالت اس دعویٰ کی سماعت کی اجازت دے سکتی ہے؟ مقام حیرت ہے کہ مکاتبات اور سرکاری مراسلات میں صرف نام اور معمولی پتہ کافی ہو جاتا ہے اور کسی کو اشتباہ نہیں ہوتا لیکن حضرت مسیح بن مریم کے بارے میں باوجود ان بے شمار تصریحات کے اشتباہ کی گنجائش لوگوں کو نظر آتی ہے اور قادیان کے ایک دہقان کی ہرزہ سرائی اور جھوٹانہ بکو اس کے سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کسی نے خوب کہا دیوانہ گفت ابلہ باور کرو۔ کوئی شخص کسی کے نام کا خط یا رجسٹری یہ کہہ کر وصول نہیں کر سکتا کہ میں مکتوب الیہ کا شبیہ اور مثل ہوں اور میرا مکان اسی سمت میں واقع ہے۔ مرزا صاحب اگر ڈاکیہ سے کسی کے نام کی رجسٹری یہ کہہ کر وصول کر لیتے کہ میں اس مکتوب الیہ کا مثل اور شبیہ ہوں اسی وقت مسئلہ مماثلت کی حقیقت منکشف ہو جاتی یا مثلاً کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں پاکستان کا گورنر جنرل ہوں اس لیے کہ قائد اعظم تو مرچکے ہیں اور میں ان کا ظل اور بروز ہو کر آیا ہوں لہذا میرا حکم ماننا ضروری ہے۔ حق تو یہ ہے کہ مرزا صاحب اگر کسی کا بروز ہو سکتے ہیں تو میلہ کذاب اور اسود حسی کا بروز ہو سکتے ہیں۔ اگر مرزا صاحب دعوائے نبوت اور مسیحیت اور مہدویت میں صادق ہو سکتے ہیں تو دوسرے مدعیان نبوت اور مسیحیت اور مہدویت جو مرزا صاحب سے پہلے گزر چکے یا آئندہ آئے یا آئیں گے ان کے کاذب ہونے کی کیا دلیل ہے اس کو بتلایا جائے۔

احادیث نزول کا تواتر

نزول عیسیٰ بن مریم کی حدیث باجماع محدثین درجہ تواتر کو پہنچی ہے اب ہم بطور نمونہ چند ائمہ حدیث و تفسیر کی شادتیں اس بارہ میں پیش کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھے ہیں۔ ”وقد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اخبر بنزول عیسیٰ علیہ السلام قبل يوم القيامة اماما عادلا وحكما مقسطا۔“

اور علامہ آلوسی روح المعانی ص ۷۰۶ میں لکھتے ہیں:

ولا لقدح فی ذلك رای ختم النبوة ما اجتمعت علیہ الامة واشتهرت فیہ الاخبار و نطق به الكتاب علی قول و وجوب الايمان به و کفر منکره کالفلاسفة من نزول علیہ السلام فی اخر الزمان لانه کان نبیا قبل تحلی نبینا صلے اللہ علیہ وسلم بالنبوة فی هذه النشأة۔“

اور حافظ عسقلانی نے فتح الباری اور تلخیص الجبیر میں تصریح کی ہے کہ حدیث نزول کی متواتر ہے۔ کذانی عقیدہ الاسلام ص ۳۔

علامہ شوکانی اپنی کتاب توضح میں لکھتے ہیں: وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع فتقرر يجمع ما سقناه فی هذا الجواب ان الاحاديث الواردة فی المهلى المنتظر متواترة والاحاديث الواردة فی الدجال متواترة والاحاديث الواردة نزول عیسیٰ متواترة۔

مرزائے قادیان کی جسارت

مرزائے قادیانی نے اول تو یہ کوشش کی کہ نزول مسیح کی روایتوں پر کوئی جرح کرے مگر جب گنجائش نہ ملی تو صحابہ کرامؓ پر زبان طعن دراز کی اور بے تحاشیہ کہہ دیا کہ وہ (یعنی ابوہریرہ رضی اللہ عنہ) ایک غبی شخص تھا۔ (دیکھو اعجاز احمدی ص ۱۸ روحانی خزائن ص ۱۲۷ ج ۱۹) اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق یہ

کہہ دیا کہ وہ ایک کہ وہ ایک معمولی انسان تھا۔ (دیکھو ازالہ ص ۵۹۷ روحانی خزائن ص ۴۲۲ ج ۳) سبحان اللہ مرزا صاحب اور ان کے صحابہ تو بڑے ذکی اور سمجھ دار ہیں اور بڑے غیر معمولی انسان ہیں۔ بھلا رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام مرزا صاحب کے برابر کہاں سمجھ سکتے ہیں۔

مگر جب علماء اسلام نے احادیث نزول کا ایک بے پایاں دفتر پیش کر دیا تو مرزا صاحب جھنجھلا کر کہنے لگے کہ۔ آں حضرت ﷺ پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ منکشف نہ ہوئی تھی۔

”ازالہ الادہام ص ۶۹۱ روحانی خزائن ص ۴۷۳ ج ۳“

مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ مسیح موعود اور دجال کی صحیح حقیقت کو مرزا صاحب تو سمجھ گئے مگر معاذ اللہ رسول اللہ ﷺ صحیح نہ سمجھے کہ بجائے مرزا غلام احمد کی ولادت کے عیسیٰ بن مریم کا نزول سمجھ گئے اور کسی حدیث میں یہ نہ فرمایا کہ نزول مسیح سے قادیان ضلع گورداسپور میں مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ کا آنا مراد ہے بلکہ ساری عمر یہی فرماتے رہے کہ عیسیٰ بن مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی وہ قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے منارہ شرقی پر آسمان سے اتریں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور ﷺ کے اس بیان سے ساری امت گمراہی میں مبتلا ہو گئی اور ابن چراغ بی بی کو چھوڑ کر ابن مریم کے خیال میں محو ہو گئی حتیٰ کہ چراغ بی بی کے بیٹے کو بھد حسرت یہ شعر کہنے کی نوبت آئی۔

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع البلاء ص ۲۰ روحانی خزائن ج ۲۴۰ ص ۱۸)

اور مسلمان یہ پڑھتے ہیں

چہ نسبت خاک رابا عالم پاک کجا عیسیٰ کجا دجال ناپاک

ایک طرفہ

طرفہ یہ ہے کہ مرزا صاحب جن مسیح بن مریم کے مثل اور شبیہ ہونے

کے مدعی ہیں دل کھول کر ان کو ایک مغلظ گالیاں بھی دیتے ہیں اور ایسی تہمتیں لگاتے ہیں کہ جو آج تک کسی یہودی نے بھی نہیں لگائیں ہم میں تو ان گالیوں کے نقل کی بھی ہمت نہیں ان کے تصور سے بھی دل کانپتا ہے، کسی کا دل چاہے تو مرزائیوں سے اور مرزا صاحب کی کتابوں سے اس کی تصدیق کرے سب کو معلوم ہیں۔

مسیح موعود کی صفات اور علامات

حق جل شانہ کے فضل اور رحمت اور اس کی توفیق اور عنایت سے امید واثق ہے کہ آیات شریفہ اور احادیث مذکورہ بالا سے ناظرین اور قارئین پر مسیح موعود کی حقیقت اور اس کے نزول کی کیفیت پوری طرح واضح ہو گئی ہوگی لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسیح موعود کی صفات اور علامات کو ایسی خاص ترتیب کے ساتھ پیش کریں کہ جس سے ناظرین کرام کو مسیح آسمانی اور مرزائے آنجمانی کا فرق آنکھوں سے نظر آجائے۔

مرزا صاحب کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مسیح بن مریم دقات پاگئے اس لیے میں غلام احمد باشندہ قادیان مسیح ہو سکتا ہوں یہ دلیل بعینہ ایسی دلیل ہے کہ کوئی شخص دعویٰ کرے کہ شہنشاہ انگلستان کا انتقال ہو گیا اس لیے میں ان کے قائم مقام ہو سکتا ہوں۔ بے شک عقلاً ”سب کچھ ممکن ہے لیکن مدعی کے لیے بادشاہ کی صفات اور خصوصیات کا حامل ہونا بھی ضروری ہے محض کسی بادشاہ کے مرجانے کو اپنی بادشاہت کے لیے دلیل بنانا معملکہ خیز ہے اور جو ایسے دلائل سننے پر آمادہ ہو، وہ بھی اسی حکم میں ہے۔

احادیث مذکورہ بالا سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ آنے والے مسیح سے وہی عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ مراد ہیں جن کی ولادت اور نبوت اور معجزات کے واقعات قرآن کریم میں مذکور ہیں ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مراد نہیں کہ جو ان کا مثل اور شبیہ ہو۔

عہد صحابہؓ اور تابعینؒ سے لے کر اس وقت تک پوری امت کے علماء اور صلحاءؒ اور مجددینؒ نے یہی سمجھا اور یہی عقیدہ رکھا کہ نزول مسیح سے اسی مسیح بن مریم کا نزول مراد ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے چھ سو برس پہلے نبی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے گئے اور جن پر انجیل نازل ہوئی اور مریم عذراء کے بطن سے بغیر باپ کے نفخہ جبریلی سے پیدا ہوئے جن کا مفصل قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔

مرزائیوں سے ایک سوال

کیا کوئی مرزائی کسی حدیث یا صحابیؓ یا تابعیؒ یا امت محمدیہؓ میں سے کسی عالم کا کوئی قول پیش کر سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جس مسیح بن مریم کے نزول کی خبر دی گئی ہے اس سے مراد مرزا غلام مرتضیٰ کا بیٹا غلام احمد ہے جو چراغ بی بی کے پیٹ سے قادیان میں پیدا ہوا۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور مرزا غلام احمد کا باپ غلام مرتضیٰ موجود تھا۔ آل حضرت ﷺ کا اور پھر ابو ہریرہؓ کا حدیث نزول کو روایت کر کے بطور استشاد آیت کا پڑھنا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا مقصود انہیں مسیح بن مریم کے نزول کو بیان کرنا ہے جن کے بارے میں یہ آیت اتری کوئی دوسرا مسیح مراد نہیں۔ امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث و تفسیر کا احادیث نزول کے ساتھ سورہ مریم اور ال عمران اور سورہ نساء کی آیات کو ذکر کرتا یہ بھی اس امر کی صریح دلیل ہے کہ احادیث میں انہی عیسیٰ بن مریم کا نزول مراد ہے جن کی توفی اور رفع الی السماء کا قرآن کریم میں ذکر ہے قرآن اور حدیث میں جہاں مسیح بن مریم کا ذکر آیا ہے دونوں جگہ ایک ہی ذات مراد ہے۔

بے مثال جھوٹ

مرزا اور مرزائیوں کا یہ دعویٰ کہ آنے والے مسیح بن مریم سے مرزا غلام احمد پنجابی مراد ہے ایسا سفید جھوٹ ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں۔

مرزائی جماعت سے ایک اور سوال

جب آپ کے نزدیک حقیقتہً "مسح کا آنا مراد نہیں بلکہ مثل اور شبیہ کا آنا مراد ہے تو خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کے وقت سے جن جن لوگوں نے نبوت اور مسیحیت کا دعویٰ کیا ان کے کاذب ہونے کی کیا دلیل ہے۔ آپ کے نزدیک مرزا سے پہلے جن لوگوں نے نبوت اور مسیحیت کے دعوے کیے وہ بھی جھوٹے تھے اور جنہوں نے مرزا کے بعد نبوت اور مسیحیت کے دعوے کیے وہ بھی جھوٹے۔ ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل بیان کیجئے۔ جس دلیل سے یہ سب مدعی جھوٹے ہیں اسی دلیل سے آپ بھی جھوٹے ہیں اور جس دلیل سے آپ سچے ہیں اسی دلیل سے یہ بھی سچے ہیں بلکہ مرزا صاحب کا مثل مسح ہونے کا دعویٰ اور اقرار اس امر کی واضح دلیل ہے کہ مرزا صاحب اپنے احتساب میں بھی اصلی مسح نہیں بلکہ نقلی اور جعلی مسح ہیں اور نقلی اور جعلی چیز جھوٹی اور کھوٹی ہوتی ہے اور جعلی سکہ کو قبول کرنا، دانشمند کا کام نہیں۔

مرزا صاحب کو یقین کمال تھا کہ میں اصلی مسح نہیں اس لیے اپنے کو مثل مسح بتلاتے تھے اور پھر طرہاً یہ کہ اس نقل اور جعل کو اصل سے افضل اور اکمل بتلاتے تھے۔

اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند صفات اور علامات کو ہدیہ نامہ میں کرتے ہیں تاکہ نامہ میں بخوبی یہ معلوم کر سکیں کہ مرزائے قادیان کا یہ دعویٰ کہ میں مثل مسح ہوں اگر صحیح ہے تو مرزا صاحب اپنے میں ان صفات اور علامات کا ہونا ثابت کریں جو آنے والے مسح کی احادیث میں مذکور ہیں۔

الفاظ حدیث اور ان کا مطلب

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلاً۔
ترجمہ = رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے عن قریب تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں

گے در آنجا ایک کہ وہ حاکم اور عادل ہوں گے۔ شریعت محمدیہ کے موافق فیصلہ کریں گے۔

فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر

ترجمہ = یعنی وہ مسیح نازل ہو کر صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ یعنی آپ کے دور حکومت میں عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی صلیب پرست اور خنزیر خور باقی نہ رہے۔ خنزیر کے قتل کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ تمام جانوروں میں خنزیر بے حیائی اور بے غیرتی میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں وہی بے حیائی اور بے غیرتی میں مشہور ہیں۔ حضرت مسیح کی آمد کی برکت سے زمین سے بے غیرتی اور بے حیائی نیست اور نابود ہو جائے گی۔ بے غیرتی اور بے حیائی اور اس قسم کے عیث و عشرت کے سامان سب ختم فرمادیں گے۔

مرزائے آل جہانی پر ان کا انطباق

آں حضرت ﷺ نے اس حدیث میں آنے والے مسیح کے اوصاف بیان فرمائے۔ پہلا وصف یہ کہ وہ ابن مریم ہو گا۔ یعنی اس مریم کا بیٹا ہو گا۔ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ اور مرزائے آنجہانی غلام مرتضیٰ کا بیٹا تھا جو چراغ بی بی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ ابن مریم کے نزول سے ابن غلام مرتضیٰ قادیانی کی پیدائش مراد ہے حدیث کے ساتھ متسخر ہے۔ دوسرا اور تیسرا وصف اس آنے والے مسیح کا یہ بیان فرمایا کہ وہ دنیا کا حاکم اور عادل ہو گا۔ مرزا صاحب کو قادیان جیسے گاؤں کی بھی حکومت حاصل نہ تھی۔ اہل صلیب کے محکوم اور دعاگو تھے (اور علی ہذا) عدل اور انصاف پر قادر بھی نہ تھے۔ جب کبھی مرزا صاحب پر کہیں کوئی ظلم ہوتا تو اس کے عدل و انصاف کے لیے انگریزی عدالت

میں عدل و انصاف کی درخواست پیش کرتے اور گورداسپور کے حکام سے ملتے اور پکھری میں جا کر اوب سے ان کو سلام کرتے اور صلیب پر ستوں کا ٹکٹ اور ان کا سکہ استعمال کرتے۔

مرزا صاحب کی آمد سے صلیب اور ستوں کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں تثلیث پرستی کے ستون کو توڑنے آیا ہوں۔ مگر وہ ستون مرزا صاحب کی آمد سے ٹوٹا تو کیا اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا اور مرزا صاحب مع تمام امت کے اس کی مضبوطی کے لیے دعا کرتے رہے۔

تنبیہ

جاننا چاہیے کہ بے غیرت آدمی کبھی بہادر نہیں ہوتا۔ جب بے غیرتی آتی ہے دل سے شجاعت نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس جنگ عظیم میں گوروں کی فوج اس شجاعت کے ساتھ نہ لڑ سکی، جو مسلمانوں کی فوجوں نے جاپان اور جرمن کے مقابلہ میں بہادری دکھلائی۔ بہادر تو مسلمان ہی ہے۔ صاحب بہادر، بہادر نہیں اس کے پاس سامان بہت ہے۔ ایک کمزور لڑکی جس کے پاس راتفل ہو ایک نئے فوجی جرنیل پر گولی چلا سکتی ہے مگر بہادر نہیں کہلا سکتی۔

وضع الحرب

اور وہ مسیح آکر لڑائی کو اٹھا دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے وضع الجزیة یعنی جزیہ کو اٹھا دے گا۔ یعنی سب مسلمان ہو جائیں گے اور کوئی کافر اور ذی باقی نہ رہے گا جس پر جزیہ اور خراج لگایا جائے۔

مرزا صاحب دوسروں کا جزیہ تو کیا اٹھاتے وہ اپنا ہی جزیہ نہ اٹھا سکے۔ ساری عمر نصاریٰ کے باج گزار رہے اور اپنا افلاس ظاہر کر کے انکم ٹیکس کی معافی کی التجا کرتے رہے۔

فائدہ

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاد اور جزیہ کو منسوخ نہیں فرمائیں گے بلکہ اس وقت جہاد اور جزیہ کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی۔ کیوں کہ اس وقت کوئی کافر ہی نہ رہے گا جس سے جہاد کیا جائے اور جزیہ لیا جائے۔ منسوخ تو جب ہوتا کہ کافر باقی رہتے اور پھر ان سے جہاد اور جزیہ اٹھایا جاتا۔

نیز اس وقت جہاد اور جزیہ کا ختم ہو جانا نبی اکرم ﷺ ہی کا حکم ہے۔ حضرت عیسیٰ کا حکم نہیں۔ حضرت مسیح نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کے اس حکم کو جاری اور نافذ فرمادیں گے۔

ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد

اور مال کو پانی کی طرح بہادیں گے۔ یعنی حضرت مسیح کے زمانہ میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ سب غنی ہو جائیں گے اور کوئی صدقہ اور خیرات کا قبول کرنے والا نہ ملے گا۔

حتی تکون السجدة الواحدة خیر امن الدنيا وما فیہا
یعنی حضرت مسیح کے زمانہ میں عبادت ایسی لذیذ ہو جائے گی کہ ایک سجدہ کی لذت کے مقابلہ میں دنیا اور ما فیہا کی دولت حقیر معلوم ہوگی۔ یا یہ معنی ہیں اس زمانہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ صرف سجدہ اور عبادت رہ جائے گا۔ صدقہ اور زکوٰۃ کا ذریعہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ سب غنی ہو جائیں گے صدقہ لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔

مرزا صاحب کے زمانہ میں اس کے برعکس ہوا۔ مرزا صاحب قادیان میں پیدا ہوئے ہندوستان سے اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مسلمان غریب اور فقیر ہوئے حتیٰ کہ مرزا صاحب بھی لوگوں سے اپنے مکان اور لنگر خانہ اور پریس اور کتب خانہ کے لیے چندہ مانگنے پر مجبور ہوئے۔

مرزا صاحب کے زمانہ میں خدا پرستی کے بجائے دنیا پرستی اور زر پرستی کا غلبہ ہوا حتیٰ کہ مرزا صاحب کا گھرانہ عشرت کدہ بنا۔ اور ابھی

مرزا صاحب کے خلیفہ راشد مرزا محمود زندہ ہیں ان کے گھرانہ کو جا کر دیکھ لو۔ فرنگی کی معاشرت اور ان کی معاشرت اور سامان عیش و عشرت ہیں کوئی فرق نہ پاؤ گے اور خداوند ذوالجلال سے غفلت کے جملہ سامان تم کو نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس شر اور فتنہ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔

گرچہ درویشی بود سخت اے پر
ہم ز درویشی نباشد خوب تر

خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت مسیح کے زمانہ میں تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ مرزا صاحب کے زمانہ میں اس کے برعکس ہوا۔ یہود اور نصاریٰ تو کیا اسلام میں داخل ہوتے جو پچاس کروڑ مسلمان دنیا میں موجود تھے مرزا صاحب کے آنے بعد وہ بھی اسلام سے خارج ہو گئے اور سوائے چند ہزار قادیانیوں کے روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی نہ رہا۔

مرزا صاحب کے ہاتھ پر اتنے لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے جتنا کہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور خواجہ معین الدین اجمیریؒ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ہندوستان تو سارا کفرستان تھا اولیاء اللہ اور علماء اور صلحاء کے مواعظ سے کروڑوں ہندو مسلمان ہوئے مگر مرزا صاحب کی ذات سے اسلام کو کوئی فائدہ نہ پہنچا مرزا صاحب کی وجہ سے ہندو اور عیسائی تو مسلمان نہ ہوئے البتہ بہت سے مسلمان مرتد ہو گئے انا للہ وانا الیہ راجعون

ثم یقول ابوہریرۃ واقراوان شتم وان من اهل الکتب الالیومنن
به قبل موته ویوم القیمة یکون علیہم شہیدۃ۔

ترجمہ = ابوہریرہؓ حضرت مسیح بن مریم کے نزول کی حدیث بیان کرنے کے بعد حاضرین مجلس سے فرماتے کہ اگر تم نزول مسیح کے بارے میں

قرآن کریم سے شہادت چاہتے ہو تو یہ آیت پڑھ لو وان من اهل الكتب
النج یعنی حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہود اور نصاریٰ میں سے کوئی
فحش ایسا باقی نہ رہے گا کہ جو حضرت مسیح پر حضرت مسیح کی وفات سے
پہلے ایمان نہ لے آئے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی تھی ختم ہوئی۔

خلاصہ یہ کہ حضرت مسیح کے زمانہ میں تمام یہود اور نصاریٰ اسلام میں
داخل ہو جائیں گے۔

مرزا صاحب کا اپنے اقرار کے بموجب کاذب ہونا

اس متفق علیہ حدیث کی بناء پر تو آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب مسیح
موعود نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ مرزا صاحب اپنے صریح اقرار اور قول کے
بموجب بھی مسیح موعود نہیں ہو سکتے۔ مرزا صاحب کا مقولہ ہے کہ ”میں عیسیٰ پرستی
کے ستون کو توڑنے کے لیے آیا ہوں اور اس لیے کہ بجائے تثلیث پرستی کے
توحید کو پھیلاؤں اور آنحضرت ﷺ کی جلالت شان کو ظاہر کروں پس اگر مجھے
سے کروڑوں نشان بھی ظاہر ہوں اور یہ علت عائی ظہور میں نہ آئے تو میں جھوٹا
ہوں اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو مسیح موعود کو کرنا چاہیے تھا
تو میں سچا ہوں اور اگر کچھ نہ ہوا اور مر گیا تو سب گواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔“

(یہ مضمون اخبار البدور مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۰۶ء میں ہے اور اس کی مزید تائید اسی اعلان کے حاشہ
ص ۱۶ و ۱۷ سے ہوتی ہے جو حقیقتہ الوجد ۳۲۸-۳۲۷ روحانی خزائن ص ۳۲۸-۳۲۷ ج ۲۲)۔
کے آخر اور تتمہ سے پہلے ہے۔ اس کی عبارت یہ ہے ”میں کامل یقین کے ساتھ کہتا
ہوں کہ جب تک وہ خدمت جو اس عاجز کے حصہ میں مقرر ہے پوری نہ ہو اس دنیا
سے اٹھایا نہ جاؤں گا کیوں کہ خدا تعالیٰ کے وعدے ٹل نہیں جاتے اور اس کا ارادہ
نہیں رک سکتا۔“ پھر اس حاشیہ کے شروع میں یہ بھی ہے کہ ”میرا یہ اعلان میری
طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔“

بے شک

یہ اعلان من جانب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر آپ کی حقیقت واضح کرنے کے لیے واضح اور صریح اعلان آپ کی زبان اور قلم سے کرایا ہے تاکہ مسلمان عموماً اور مرزائی خصوصاً مرزا صاحب کے صدق اور کذب کو مرزا صاحب کے قول کے بموجب بھی جانچ لیں۔

الحمد للہ۔ مرزا صاحب دنیا سے چلے گئے اور دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ تثلیث پرستی کا ستون ٹوٹا تو کیا اپنی جگہ سے بھی نہ ہلا۔ اسلام کو کوئی غلبہ نہ ہوا بلکہ اس کے برعکس عیسائیوں کو ترقی اور عروج ہوا اور اسلامی حکومتیں ختم ہوئیں اور جہاں جہاں مسلمان تھے وہ نصاریٰ کے محکوم اور تختہ جور و جغابے اور مرزائی امت تو نصاریٰ کی زر خرید غلام ہی بن گئی جس کا فریضہ دینی اور دنیوی نصاریٰ کی شکرگزاری اور دعاگوئی رہ گیا۔

غور تو کیجئے کہ تیرہ سو سال سے جس مسیح کی آمد کی خوش خبری مسلمانوں کے کانوں میں گونج رہی ہے معاذ اللہ کیا وہ ایسا ہی مسیح ہے کہ جو صلیب پرستوں اور اسلامی حکومتوں کے دشمنوں کا مداح اور ثنا خواں ہو اور ان کے شکر اور دعا میں مع اپنی تمام امت کے رطب اللسان ہو اور اسلامی حکومتوں کے زوال پر چراغاں کرنے والا ہو، اور مسلمانوں کے قانکوں کو مبارک باد کے تار دینے والا ہو۔ مسیح کا کام تو کفر کی حکومت کو ختم کرنا ہے، نہ کہ دشمنان اسلام کی تائید اور حمایت کرنا اور ان کی بقاء اور ترقی کے لیے دل و جان سے دعا کرنا اور ان کے سایہ کو سایہ رحمت سمجھنا۔

مرزائیو! خدا را غور کرو اور اپنے اوپر رحم کرو

اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور ایک جھوٹے کے پیچھے اپنی عاقبت نہ خراب کرو، اور ان احادیث کو پڑھو اور آل حضرت ﷺ نے جو آنے والے مسیح کے نشانات اور علامات بتلائی ہیں ان میں غور کرو کہ ان کا کوئی شائبہ اور شبابہ بھی

مرزا صاحب میں پایا جاتا ہے حاشا و کلا۔ بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ حضور پر نور ﷺ نے جو بھی مسیح موعود کی علامت اور نشانی بتلائی ہے مرزا صاحب میں وہ نشانی صرف مفقود ہی نہیں بلکہ اس کی ضد اور صریح نقیض ان میں موجود ہے۔

حضرت مسیح بن مریم کی صفات

اور مسیح مسلم کی روایت میں ہے

ولتذهب الشحناء والتباغض والتحاسد

ترجمہ = یعنی مسیح کی آمد کے بعد مسلمانوں کے دل کینہ اور عداوت اور حسد سے پاک ہو جائیں گے۔

یہ حضرت مسیح کی آمد کی دسویں نشانی ہے۔ اور یہ حدیث مسند احمد اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں بھی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گیارہویں نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق شام کی جامع مسجد کے شرقی منارہ پر آسمان سے نازل ہوں گے جیسا کہ پہلے حدیث سوم میں گزر چکا۔

حدیث میں ہے کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہونے کے بعد دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔

لد ملک شام (کا وہ حصہ جو اسرائیل کے پاس ہے) میں ایک جگہ کا نام ہے۔ حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ آئیں گے اور پھر مدینہ آئیں گے اور میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر سلام کریں گے۔

حدیث میں ہے کہ نزول کے بعد چالیس سال زندہ رہیں گے۔

مدینہ منورہ میں وفات پائیں گے اور روضہ اقدس میں حضور پر نور ﷺ کے قریب مدفون ہوں گے۔

مرزائے آل جہانی کی جانچ پڑتال

مرزا صاحب کی آمد کے بعد مسلمانوں میں جس قدر اخلاقِ رذیلہ کی زیادتی ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے، عیاںِ راجح پیاں

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ نزولِ مسیح بن مریم سے مجازاً "مرزا غلام احمد ولد غلام مرتضیٰ کی قادیان میں ولادت مراد ہے۔ مگر منارہ سے حقیقی معنی مراد ہیں اس لیے مرزا صاحب نے نازل ہونے کے بعد چندہ کر کے قادیان میں ایک منارہ تعمیر کرایا جس کا نام منارۃ المسیح رکھا۔ سبحان اللہ نزول تو پہلے ہو گیا اور منارہ بعد میں چندہ کر کے تعمیر کرایا گیا۔ جیسا کہ کسی کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص قضاء حاجت کرنے کے لیے پانی کا برتن لیکر چلا، برتن کی تلی میں سوراخ تھا اس لیے طہارت تو پہلے کر لی اور قضاء حاجت بعد میں کی، اسی طرح مسیح قادیان نازل تو پہلے ہو گئے اور منارہ بعد میں بنوایا کہ آخر کہاں تک حدِ شوں میں تاویل کروں اور ساری باتوں کو مجاز پر محمول کروں۔ سوائے منارہ بنانے کے اور کوئی شے قدرت میں نظر نہ آئی۔ اس لیے حدیث میں صرف منارہ کا لفظ حقیقی معنی میں رہ گیا اور باقی سب مجاز اور استعارہ۔ مرزا صاحب کے نزدیک بابِ لد پر قتل کرنے سے لدھیانہ میں کسی کافر کو مناظرہ میں شکست دینا مراد ہے۔

مرزا صاحب نے نہ حج کیا اور نہ عمرہ اور نہ مدینہ منورہ میں حاضری نصیب ہوئی۔

مرزا صاحب دعوائے نبوت کے بعد چند سال زندہ رہے۔

مرزا صاحب قادیان میں مرے اور وہیں دفن ہوئے۔

اے مسلمانو! مسیح موعود کی یہ علامتیں ہیں جو احادیث میں تم نے پڑھ لی ہیں اور یہ بھی دیکھ لیا کہ ان میں سے مرزا صاحب میں کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اور ان صریح احادیث میں مرزائی جو تاویلیں اور تحریفیں کر کے ان احادیث کو مرزا صاحب پر منطبق کرنا چاہتے ہیں تو ایسی تاویلوں سے جس کا جی چاہے مسیحیت کا

دعوئی کرے اور اس سے بھی بڑھ کر آیات اور احادیث کو اپنے اوپر منطبق کرے اور جس کا جی چاہے ایسے ہوا پرستوں پر ایمان لائے نواب بے ملک اور فرعون بے سامان ایسے ہی لوگوں کی مثال ہے۔ وما علینا الا البلاغ

ضمیمہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمدیہ کا تابع کریں گے

تمام امت محمدیہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت کا اتباع ان کے رفع الی السماء تک محدود تھا۔ خاتم الانبیاء ﷺ کی بعثت کے بعد تمام جن و انس پر شریعت محمدیہ کا اتباع واجب ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اور رسول ہوں گے مگر ان کا نزول نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے نہ ہو گا بلکہ شریعت اسلامیہ اور امت محمدیہ کے ایک مجدد ہونے کی حیثیت سے ہو گا۔ نزول کے بعد انجیل کا اتباع نہیں فرمائیں گے بلکہ کتاب و سنت کا اتباع فرمائیں گے۔

حافظ عسقلانی یمنزل عیسیٰ بن مریم حکما عدلا کی شرح میں لکھتے ہیں:

ای حاکما و المعنی انه یمنزل حاکما بهذه الشریعة فان هذه الشریعة باقیة لا ینسخ بل یکون عیسیٰ حاکما من حکام هذه الامم

(تح الباری ص ۳۵۶ ج ۶)

وقال النووی فی شرح مسلم لیس المراد بنزول عیسیٰ انه ینزل بشرع ینسخ شرعنا ولا فی الاحادیث شی من هذا بل صحت الاحادیث بانہ ینزل حکما مقسطا یحکم بشرعنا ویحیی من امور شرعنا ما ہجرہ الناس و من الاحادیث الولدۃ فی ذلک ما اخرجہ احمد والبخاری والطبرانی من حدیث سمرة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل عیسیٰ بن

مریم مصدقا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملته فیقتل الدجال ثم و
انما هو قیام الساعة و اخرج الطبرانی فی الکبیر و البیہقی فی البعث
بسند جید عن عبداللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یلبث الدجال فیکم ماشاء اللہ ثم ینزل عیسیٰ بن مریم مصدقا بمحمد و
علی ملة اماما مهديا و حکما عدلا فیقتل الدجال و اخرج ابن حبان فی
صحیحہ عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یقول ینزل عیسیٰ بن مریم فیومہم فاذا رفع راسہ من الركعة
قال سمع اللہ من حملہ قتل اللہ الدجال و اظهر المومنین

و وجه الاستدلال من هذا الحديث ان عیسیٰ یقول فی صلوتہ
یومئذ سمع اللہ لمن حملہ و هذا الذکر فی الاعتدال من صلوة هذه الامة
كما ورد فی حدیث ذکرته فی کتاب المعجزات و الخصائص و اخرج ابن
عساکر عن ابی ہریرة قال یهبط المسیح بن مریم فیصلی الصلوات و
یجمع الجمع فہنا صریح فی انه ینزل بشر عنا لان مجموع الصلوات
الخمس و صلوة الجمعة لم یكونا فی غیر هذه الملة و اخرج ابن عساکر
من حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کیف تہلک امة انا لولہا و عیسیٰ بن مریم اخرها کذا فی الاعلام
بحکم عیسیٰ علیہ السلام (الخانہ الیومی ص ۱۵۵ ج ۲ من الحاوی)۔

یہ شیخ جلال الدین سیوطی کی عبارت ہے جس میں ان روایات کو ذکر فرمایا
ہے جن میں اس امر کی تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شریعت
محمدیہ کے متبع ہوں گے اور آپ ﷺ ہی کی شریعت کے مطابق نماز اور جمعہ
اور دیگر عبادات ادا فرمائیں گے۔

شیخ محی الدین بن عربی نے فتوحات مکہ کے باب ۱۴ میں لکھا ہے کہ نبوت
کا دروازہ بعد رسول اللہ ﷺ کے بند کر دیا گیا اب کسی کو یہ بات میسر نہیں
کہ کسی شریعت منسوخہ سے خدا کی عبادت کرے اور عیسیٰ علیہ السلام جس وقت

اتریں گے تو اسی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے۔

اور امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں ”حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام آسمان سے نزول فرمائیں گے تو حضرت خاتم الرسل ﷺ کی شریعت کی متابعت کریں گے۔ (مکتوبات ص ۳۶ دفتر سوم مکتوب ۱۷)۔

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو احکام شریعت کا علم کس طرح ہو گا؟

شیخ جلال الدین سیوطی نے اسی سوال کے جواب میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”آلایام بحکم عیسیٰ علیہ السلام“ ہے جو مصر میں طبع ہوا ہے حضرات اہل علم اصل رسالہ کی مراجعت فرمائیں۔ ہم بطور خلاصہ کچھ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں:

شیخ سیوطی فرماتے ہیں کہ بروز پنج شنبہ ۶ جمادی الاولیٰ ۸۸۸ھ میں مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے کے بعد کس شریعت کے مطابق حکم کریں گے۔ آیا اپنی شریعت کے مطابق حکم کریں گے یا شریعت محمدیہ کے مطابق اور اگر شریعت محمدیہ کے مطابق حکم دیں گے تو آپ کو شریعت محمدیہ کے احکام کا علم کیسے ہو گا، اور کیا ان پر وحی نازل ہوگی یا نہیں اور اگر وحی نازل ہوگی تو وحی الہام ہوگی یا وحی ملکی ہوگی یعنی بذریعہ فرشتہ کے وحی نازل ہوگی۔ یہ تین سوال ہوئے اب ہم بالترتیب جواب ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

سوال اول اور اس کا جواب

پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے تفصیل اس جواب کی گزر گئی۔

سوال دوم اور اس کا جواب

دوسرا سوال یہ تھا کہ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریعت

محمدیہ کے احکام کا علم کس طرح ہو گا؟ شیخ جلال الدین سیوطی نے اس کے چار طریقے ذکر فرمائے ہیں جن کو ہم اختصار اور وضاحت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

طریقہ اول (۱)

جس طرح ہرنی اور رسول کو بذریعہ وحی اپنی شریعت کا علم ہوتا ہے اس طرح ہرنی کو بذریعہ وحی کے انبیاء سابقین اور لاحقین یعنی گزشتہ اور آئندہ انبیاء کی شریعتوں کا علم بھی ہوتا ہے جبریل علیہ السلام کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں پیغمبر پر فلاں کتاب نازل ہوئی اور فلاں نبی پر فلاں کتاب نازل ہوئی اور توریت اور انجیل اور زبور میں تو خاص طور پر آں حضرت ﷺ کا ذکر اور آپ ﷺ کی کتاب اور آپ ﷺ کی شریعت اور آپ ﷺ کے صحابہ کے اوصاف مذکور ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے اہم مقاصد میں یہ تھا۔ مبشر ابر رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد یعنی اپنی امت کو اس کی بشارت سنا دیں کہ جس نبی آخر الزمان ﷺ کی تمام انبیاء خبر دیتے آئے اب اس کا زمانہ قریب آگیا ہے۔

(۱) قال السيوطى الطريق الاول ان جميع الانبياء قد كانوا يعلمون فى زمانهم بجميع شرائع من قبلهم ومن بعدهم بالوحى من الله على لسان جبريل وبالتنبية على بعض ذلك فى الكتاب الذى انزل عليهم والدليل على ذلك انه ورد فى الاحاديث والاثار ان عيسى عليه السلام بشرامة بمجيبى النبى صلى الله عليه وسلم واخبرهم بجملة من شريعة ياتى بها تخالف شريعة عيسى وكنلك وقع لموسى دواؤد عليهما السلام لى انحر ماقاله كذافى الاعلام ص ۱۵۷ ج ۲ من الحاوى۔ بعد ازاں شیخ سیوطی نے توریت اور انجیل اور زبور میں جو بشارتیں حضور پر نور ﷺ کی آمد اور آپ ﷺ کی شریعت اور صحابہ کرام کے متعلق ہیں ان کو نقل کیا ہے۔ اہل علم اصل کی مراجعت کریں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بار بار اپنی امت کو اس کی تاکید اکید کی کہ اگر اس نبی آخر الزماں کا زمانہ پاؤ تو ضرور ان پر ایمان لانا اور آپ ﷺ کے صحابہ

کرام کے اوصاف بتائے۔ صحابہ کے اوصاف میں یہ بھی ارشاد فرمایا:
 اناجیلہم فی صدورہم رہبان باللیل لیوث بالنہار
 ترجمہ = ان کی انجیل ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی یعنی وہ اپنی کتاب
 یعنی قرآن کے حافظ ہوں گے رات کے راہب اور دن کے شیر ہوں
 گے۔

طریقہ دوم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کو دیکھ کر شریعت کے تمام احکام سمجھ
 جائیں گے نبی اور رسول کا فہم اور اوراک تمام امت کے فہم اور اوراک سے بالا
 اور برتر ہوتا ہے۔ امت کے تمام فقہاء اور مجتہدین نے مل کر جو شریعت کے احکام
 کو سمجھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا فہم و اوراک ہزاراں ہزار درجہ اس سے
 بلند اور برتر ہو گا۔ نبی کی قوت قدسیہ بنزلہ آفتاب کے ہے اور فقہاء اور ائمہ
 اجتہاد کی قوت اور اکیہ بنزلہ ستاروں کے ہے۔

طریقہ سوم

حافظ ذہبی اور حافظ سبکی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باوجود نبی
 ہونے کے صحابی بھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی وفات سے پہلے نبی اکرم ﷺ
 کو دیکھا۔ علاوہ شب معراج کے بار بار نبی اکرم ﷺ سے ملاقات کرنا روایات
 سے ثابت ہے۔ پس جس طرح صحابہ کرام کو حضور ﷺ سے بلا واسطہ آپ کی
 شریعت کا علم حاصل ہوا اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور پر نور کی
 شریعت کا علم حضور سے بلا واسطہ ہوا ہو تو کوئی مستبعد نہیں۔ خصوصاً جب کہ
 احادیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے اور ابن مریم کے درمیان کوئی نبی اور
 کوئی رسول نہیں وہ میرے بعد میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے
 جب عیسیٰ علیہ السلام حضور پر نور ﷺ کے خلیفہ ہوں گے تو ضرور آپ
 ﷺ کی شریعت سے واقف ہوں گے۔

(۱) روی۔ ابن عساکر عن ابی ہریرۃ قال قال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی ولا رسول الا انه خلیفتی فی امتی بعدی۔ (کنزانی الاعلام ص ۱۶۱ ج ۱ من الحدی ۱۲)

حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور صحابی بھی۔ اور حضور ﷺ کے آخری صحابی ہیں یعنی سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ کی وفات ہوگی۔ باقی تمام صحابہ حضرت عیسیٰ سے پہلے گزر گئے۔
(کنزانی الاعلام ص ۱۶۱ ج ۲ من الحدی)

طریقہ چہارم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد روحانی طور پر آں حضرت ﷺ سے بحالت بیداری بار بار ملاقات فرمائیں گے اور جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ براہ راست بالمشافہ حضور ﷺ سے دریافت فرمائیں گے۔

احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی اکرم ﷺ اپنی حیات مبارکہ میں حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام کی ارواح طیبہ سے ملاقات فرماتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے جب معراج کے لیے براق پر روانہ ہوئے تو راستہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان حضرات نے حضور ﷺ کو سلام کیا اور حضور ﷺ نے ان کو سلام کا جواب دیا۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔

پس جس طرح نبی اکرم ﷺ اس عالم میں تشریف فرما تھے اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام عالم برزخ میں تھے اور ملاقات ہوتی رہی اور سلام و کلام ہوتا رہا۔ حضور ﷺ نے شب اسراء میں بیت المقدس میں امامت فرمائی اور تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور ﷺ کی اقتداء کی، اسی طرح اس کا برعکس بھی ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد اس عالم

میں تشریف فرما ہوں اور حضور پر نور ﷺ عالم بزم میں ہوں اور طرفین میں ملاقات ہو سکے اور افاضہ اور استفادہ کا سلسلہ جاری رہ سکے۔

وان جماعة من ائمة الشريعة نصوا على ان من كرامة الولي انه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع به في اليقظة وياخذ عنه ما قسم له من المعارف والمواهب ومن نص على ذلك من ائمة الشافعية الغزالي والبارزي والتاج السبكي والعفيف الياقعي ومن ائمة المالكية القرطبي وابن ابي جمرة وابن الحاج في المدخل وقد حكى عن بعض الاولياء انه حضر مجلس فقيه فروى ذلك الفقيه حديثا فقال له الولي هذا الحديث باطل فقال الفقيه ومن اين لك هذا فقال- هذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على رانسك يقول اني لم اقل هذا الحديث وكشف للفقيه فرامه وقال الشيخ ابو الحسن الشاذلي لو حجت عن النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عدت نفسي مع المسلمين

فاذا كان هذا حال الاولياء مع النبي صلى الله عليه وسلم فعيسى النبي صلى الله عليه وسلم لولى بذلك ان يجتمع به وياخذ عنه ما اراد من احكام شريعة من غير احتياج الى اجتهاد ولا تقليد الحفاظ (كذافي اعلام ص ۱۶۳ ج ۲ من الحاوي)

ترجمہ = اور ائمہ شریعت کی ایک جماعت نے اس امر کی تصریح کی ہے کہ ولی کی کرامات میں سے یہ ہے کہ وہ حالات بیداری میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کرتا، اور آپ ﷺ کی ہم نشینی کا شرف حاصل کرتا ہے اور آپ سے علوم و معارف میں سے جو اس کے لیے مقدر ہے حاصل کرتا ہے اور ائمہ شافعیہ میں سے امام غزالی اور بارزی اور تاج الدین سبکی اور عقیف یاقعی نے اور ائمہ مالکیہ میں سے قرطبی ابن ابی جمرة اور ابن حاج نے مدخل میں تصریح کی ہے۔ اور بعض اولیاء

سے منقول ہے کہ وہ کسی فقیہ کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ ان سے اس فقیہ نے کوئی حدیث روایت کی، تو ان ولی نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث تو باطل ہے۔ تو فقیہ نے فرمایا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ نبی کریم ﷺ تمہارے سرہانے تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو نہیں کہا، اور ان فقیہ کو بھی کٹوف ہوا اور انہوں نے بھی نبی اکرم ﷺ کی بحالت بیداری اپنی آنکھوں سے زیارت کی۔ اور شیخ ابوالحسن شاذلیؒ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی حضور ﷺ کی زیارت سے حجاب میں رہوں تو میں اپنے کو مسلمان نہ سمجھوں۔ پس جب اولیاء کرام کا نبی کریم ﷺ کے ساتھ یہ حال ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بدرجہ اولیٰ آپ ﷺ کے ساتھ مجتہد ہوں گے اور آپ ﷺ سے جو چاہیں گے احکام شریعہ کا استفادہ فرمائیں گے۔ اور آپ کو کسی اجتہاد یا حفاظ حدیث کی تقلید کی حاجت نہ ہوگی۔

سوال سوم اور اس کا جواب

کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوگی اور وحی کس قسم کی ہوگی۔
وحی نبوت ہوگی یا وحی الہام؟
جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نبوت کا نزول ہوگا۔ مسند احمد اور صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد اور ترمذی اور نسائی میں نواس بن سمان کی حدیث میں ہے:

كذلك لوحى الله الى عيسى بن مريم الى قد اخرجت عباداً من
عبادى لابنان لهم بقتالهم فخرج عبادى الى الطور فبيعت الله يا
جوج وماجوج- الحديث
ترجمہ = حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آئے گی کہ تم

مسلمان کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نزول کے بعد وحی کا نزول ہو گا۔ اور لوگوں میں جو یہ مشہور ہے کہ حضور ﷺ کے بعد جبریل امین زمین پر نہیں آئیں گے یہ بالکل بے اصل ہے۔ شب قدر میں ملائکہ اور جبریل امین کا زمین پر اترنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تنزل الملكة والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلم ہیبی حنی مطلع الفجر ○ حدیث میں ہے کہ جنب کو حالت جنابت میں بغیر وضو کے نہ سونا چاہیے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ جبریل امین اس کی موت کے وقت حاضر نہ ہوں۔ معلوم ہوا کہ مرتے وقت مومن کے پاس فرشتے اور جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اگر مرتے وقت وہ با وضو ہو۔

وقد زعم زاعم ان عیسیٰ بن مریم اذا نزل لا یوحی الیہ وحیا حقیقیاً بل وحی الہام وهذا القول ساقط مہمل لامرین احدہما منابذتہ للحدیث المذكور والثانی ان ماتوہمہ هذا النزاع من تعدد الروحی الحقیقی فاسد لان عیسیٰ علیہ السلام بنی فای مانع الخ (کذابی الاعلام ص ۱۶۵ ج ۲ من الحاوی)

ترجمہ = یعنی جس شخص نے یہ گمان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر حقیقی وحی کا نزول نہ ہو گا بلکہ وحی الہام ہو گی، یہ زعم فاسد اور مہمل ہے۔ اول تو اس حدیث صحیح کے خلاف ہے جو بیان کر چکے۔ دوم یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور نبی سے وصف نبوت کبھی زائل نہیں ہو سکتا۔ (واللہ اعلم)

ظہور مہدی

”مہدی“ لغت میں ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں۔ معنی لغوی کے لحاظ سے ہر ہدایت یافتہ شخص کو مہدی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے ایک خاص شخص مراد ہیں جو اخیر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے

ظاہر ہوں گے۔

ظہور مہدی کے بارہ میں احادیث اور روایات اس درجہ کثرت کے ساتھ آئی ہیں کہ درجہ تواتر کو پہنچی ہیں اور اس درجہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئی ہیں کہ ان میں ذرہ برابر اشباہ کی متجانش نہیں۔ مثلاً امام مہدی کا کیا نام ہو گا۔ ان کا حلیہ کیا ہو گا، ان کی جائے ولادت کہاں ہو گی اور جائے ہجرت اور جائے وفات کہاں ہو گی، کیا عمر ہو گی، اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے، اول بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہو گی اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرماں روائی رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ تفصیل کے ساتھ ان کی علامتیں احادیث میں مذکور ہیں۔

تقریباً "حدیث کی ہر کتاب میں امام مہدی کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ ایک مستقل باب میں درج ہیں۔ شیخ جلال الدین سیوطی نے امام مہدی کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے کہ جو امام مہدی کے بارے میں آئی ہیں العرف الوردی فی اخبار المہدی (جو چھپ چکا ہے) علامہ سفارینی نے شرح عقیدہ سفارینیہ میں ان تمام احادیث کی تلخیص کی ہے اور ان کو خاص ترتیب سے بیان کیا ہے۔ (حضرات اہل علم شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۶۷ ج ۲ کی مراجعت کریں۔)

۱- حدیث میں ہے کہ مہدی موعود اولاد فاطمہ سے ہوں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی من عترتی من اولاد فاطمة (رواہ ابوداؤد) اور امام مہدی کے آل رسول اور اولاد فاطمہ سے ہونے کے بارے میں روایات اس درجہ کثیر ہیں کہ درجہ تواتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ (شرح عقیدہ سفارینیہ ص ۶۹ ج ۲)

۲- حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہو گی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے۔ اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہو گا۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی)

- ۳- حدیث میں ہے ان کی پیشانی کشادہ اور ان کی ناک اوپر سے کچھ اٹھی ہوئی اور بیچ میں سے کسی قدر چھٹی ہوگی۔ (راواہ ابو داؤد)
- ۴- حدیث میں ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت مکہ معظمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ (ابو داؤد و الترمذی)
- ۵- حدیث میں ہے کہ امام مہدی خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ پہلے ظلم اور ستم سے بھری ہوگی۔
- ۶- حدیث میں ہے کہ جب امام مہدی مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا دیں گے اور اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی۔

هنا خلیفة الله المهدی فاسمعوا له واطيعوا

ترجمہ = خدا تعالیٰ کا خلیفہ مہدی یہ ہے اس کے حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔

اور بے شمار روایات سے امام مہدی کا کافروں پر جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہے۔

ناظرین غور کریں

کہ مرزا صاحب میں امام مہدی کی صفات کا کوئی شہ بھی تو ہونا چاہیے جب ہی تو دعوائے مہدویت چسپاں ہو سکے گا۔ ورنہ صفات تو ہوں کافروں اور گمراہوں کی اور دعویٰ ہو مہدی ہونے کا۔

ع این خیال است و محال است و جنوں

ایک ضروری تنبیہ

کتب حدیث میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، امام مہدی کے ذکر سے خالی ہیں۔ لیکن دیگر کتب معتبرہ میں ظہور مہدی کی روایتیں اس قدر کثیر ہیں کہ

محدثین نے ان کا تواتر تسلیم کیا ہے۔ اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ بخاری اور مسلم نے احادیث صحیحہ کا استیعاب نہیں کیا۔ بخاری اور مسلم میں کسی حدیث کا نہ ہونا اس کے غیر معتبر ہونے کی دلیل نہیں۔ مسند احمد اور سنن ابی داؤد اور ترمذی وغیرہ میں صدہا اور ہزار ہا ایسی روایتیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں نہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو شخص ہیں

ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں ان سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اور امام مہدی دو شخص علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عمد صحابہؓ و تابعینؓ سے لے کر اس وقت تک کوئی اس کا قائل نہیں ہوا کہ نازل ہونے والا مسیح اور ظاہر ہونے والا مہدی ایک ہی شخص ہو گا۔

صرف مرزائے قادیان کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں کرشن مہراج بھی ہوں اور آریوں کا بادشاہ بھی ہوں اور حجر اسود بھی ہوں اور بیت اللہ بھی ہوں اور حاملہ بھی ہوں اور پھر خود ہی مولود ہوں۔ سب کچھ ہوں گے مگر مسلمان نہیں۔

یہ مرزائے قادیان کا ہڈیان ہے۔ جس کا جی چاہے اس پر ایمان لائے اور جس کا جی چاہے اس کا کفر کرے۔ امنة باللہ و کفرت بالطاغوت۔ ومن یکفر بالطاغوت۔ الخ

احادیث نبویہ سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو الگ الگ شخصیتیں ہیں۔

۱۔ حضرت عیسیٰ بن مریم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اور امام مہدی امت محمدیہ کے آخری خلیفہ راشد ہیں جن کا رجبہ جمہور علماء کے نزدیک ابوبکرؓ اور عمرؓ خلفائے راشدین کے بعد ہے امت میں۔ امت محمدیہ میں سے صرف ابن سیرینؒ کو ترود ہے کہ امام مہدی کا رجبہ ابوبکرؓ و عمرؓ کے برابر ہے یا ان سے بڑھ کر ہے۔ شرح عقیدہ سفار۔ ج ۱ ص ۸۱ ج ۲ میں شیخ جلال

الدين سيولى فرماتے ہیں۔ احادیث صحیحہ اور اجتماع امت سے یہی ثابت ہے کہ انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے بعد مرتبہ ابوبکرؓ اور عمرؓ کا ہے۔

(العرف الوردی ص ۷۷ ج ۲ من الحاوی)۔

۲- حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم بچول کے بطن سے بغیر باپ کے نفعنہ جبرئیلی سے نبی اکرم ﷺ سے چھ سو سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور امام مہدی آل رسول سے ہیں قیامت کے قریب مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ بن مریم اور مہدی ایک شخص نہیں بلکہ دو شخص ہیں۔

۳- احادیث متواترہ سے یہ ثابت ہے کہ امام مہدی کا ظہور پہلے ہو گا اور امام مہدی روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد امام مہدی کے طرز عمل اور طرز حکومت کو برقرار رکھیں گے۔

(کذانی الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام ص ۱۶۲ ج ۲ من الحاوی)

اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی دو علیحدہ شخص ہیں۔

۳- حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ مدینہ منورہ ان کا مولد جائے ولادت ہو گا اور مہاجر (جائے ہجرت) بیت المقدس ہو گا۔

(العرف الوردی ص ۷۳ ج ۲ من الحاوی)

اور بیت المقدس ہی میں امام مہدی وفات پائیں گے اور وہیں مدفون ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ایک عرصہ بعد وفات پائیں

گے اور مدینہ منورہ میں روضہ اقدس میں مدفون ہوں گے۔

(شرح عقیدہ سفارہ - تہ من ۸۱ ج ۲)

۵۔ احادیث میں ہے کہ امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں صبح کی نماز کے لیے صلی پر کھڑے ہوں گے یکایک منارہ شرقی پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو گا۔ امام مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر صلی سے ہٹ جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے نبی اللہ آپ امامت فرمائیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ یہ اقامت تمہارے لیے کسی گئی۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ اقتداء فرمائیں گے تاکہ معلوم ہو جائے کہ رسول ہونے کی حیثیت سے نازل نہیں ہوئے بلکہ امت محمدیہ کے تابع اور مجدد ہونے کی حیثیت سے آئے ہیں۔

(العرف الوردی من ۸۳ ج ۲ د من ۶۵ ج ۲ و شرح العقیدۃ السفارہ - تہ من ۸۳ ج ۲)

۶۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمنزلہ امیر کے ہوں گے اور امام مہدی بمنزلہ وزیر کے ہوں گے اور دونوں کے مشورے سے تمام کام انجام پائیں گے۔

(شرح عقیدہ سفارہ - تہ من ۹۱ ج ۲ د من ۹۲)۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

ایک حدیث میں آیا ہے کہ:

لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم "نہیں ہے کوئی مہدی مگر عیسیٰ بن مریم"

اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مہدی اور عیسیٰ دونوں ایک ہی

فخص ہیں۔

جواب

یہ ہے کہ اول تو یہ حدیث صحیح نہیں محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف

اور غیر مستند ہے۔

قال الحافظ العسقلانی۔ قال ابوالحسن الخسعی اللدی فی مناقب الامام الشافعی تواترت الاخبار بان المهدي من هذه الامة وان عيسى يصلى خلفه ذكر ذلك رداً للحديث الذي۔

(اخرج ابن ماجہ عن انس و فید لا ممدی الاصلی فتح الباری ص ۳۵۸ ج ۶)

دوم یہ کہ یہ حدیث ان بے شمار احادیث صحیحہ اور متواترہ کے خلاف ہے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم اور امام ممدی کا دو شخص ہونا آفتاب کی طرح واضح ہے۔

اور اگر اس حدیث کو تھوڑی دیر کے لیے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو یہ کہا جائے کہ حدیث کے معنی یہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم سے بڑھ کر کوئی شخص ہدایت یافتہ نہ ہو گا۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مرسل ہوں گے اور امام ممدی خلیفہ راشد ہوں گے نبی نہ ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ غیر نبی کی ہدایت، نبی اور رسول کی ہدایت سے افضل اور اکمل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نبی کی ہدایت معصوم عن الخطا ہوتی ہے اور عصمت خاصہ انبیاء کا ہے اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے۔

لافتنی الاعلیٰ ”کوئی جو ان شجاعت میں علی کرم اللہ وجہہ کے برابر نہیں۔“

اور یہ معنی نہیں کہ دنیا میں سوائے علی کے کوئی جو ان نہیں۔ اسی طرح اس حدیث کے یہ معنی ہوں گے کہ کوئی ممدی اور کوئی ہدایت یافتہ عصمت اور فضیلت اور علو منزلت میں عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کے برابر نہیں

(کذا فی العرف الوردی ص ۸۵ ج ۲)

قال المناوی اخبار المهدي لا يعارضها خبر لامهدي الا عيسى بن

مریم لان المراد به كما قال القرطبي لامهدي كاملا معصوما الا عيسى

(کذا فی فیض القدر ص ۲۷۹ ج ۶)

قال القرطبي و يحتمل ان يكون قوله عليه السلام و لامهدي

الاعیسیٰ ای لا مہدی کمالاً معصوماً الاعیسیٰ قال و علی هذا تجتمع الاحادیث و یرفع التعارض و قال ابن کثیر هذا الحدیث فیما یظهر لی بیادی الرای مخالف للاحایث الواردة فی اثبات مہدی غیر عیسیٰ بن مریم و عند التامل لایننا فیہا بل یکون المراد من ذلك ان المہدی حق المہدی هو عیسیٰ و لا ینفی ذلك ان یکون غیره مہدیا ایضا۔ انتہی۔

(العرف الوردی ص ۷۶ ج ۲)

مرزا کا مہدی ہونا محال ہے

اس لیے کہ مہدی کی جو علامتیں احادیث میں مذکور ہیں وہ مرزا میں قطعاً مفقود ہیں۔

- ۱۔ امام مہدی امام حسن بن علی کی اولاد سے ہوں گے اور مرزا مغل اور پٹھان تھا، سید نہ تھا۔
- ۲۔ امام مہدی کا نام محمد اور والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہو گا اور مرزا کا نام غلام احمد اور باپ کا نام غلام مرتضیٰ اور ماں کا نام چراغ بی بی تھا۔
- ۳۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور پھر مکہ آئیں گے۔ مرزا صاحب نے کبھی مکہ اور مدینہ کی شکل بھی نہیں دیکھی ان کو یقین تھا کہ مکہ اور مدینہ میں اسلامی حکومت ہے۔ وہاں میلہ پنجاب کے ساتھ وہی معاملہ ہو گا جو یمامہ کے میلہ کذاب کے ساتھ ہوا تھا۔ جیسا کہ مرزا صاحب کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مرزا صاحب حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ بھی نہ کر سکے۔
- ۴۔ امام مہدی روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ اور مرزا صاحب تو اپنے پورے گاؤں (قادیان) کے بھی چودھری نہ تھے۔ جب کبھی زمین کا کوئی جھگڑا پیش آتا

تو گرداس پور کی پجھری میں جا کر استغاثہ کرتے۔ خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے ورنہ گرفتار ہو جاتے۔

۵۔ امام مہدی ملک شام میں جا کر دجال کے لشکر سے جہاد و قتال کریں گے اس وقت دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودیوں کا لشکر ہو گا۔ امام مہدی اس وقت مسلمانوں کی فوج بنائیں گے اور دمشق کو فوجی مرکز بنائیں گے۔ مرزا صاحب نے دجال کے کس لشکر سے جہاد و قتال کیا؟ اور دمشق اور بیت المقدس کا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔

اس کے علاوہ احادیث نبویہ میں امام مہدی کے متعلق اور بھی بہت سے امور مذکور ہیں جن میں سے کوئی بھی مرزا صاحب پر منطبق نہیں۔

امام ربانی شیخ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک طویل مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں جس کا ملاحظہ ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے۔

”قیامت کی علامتیں جن کی نسبت مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خبر دی ہے، سب حق ہیں۔ ان میں کسی کا خلاف نہیں۔ یعنی آفتاب عادت کے برخلاف مغرب کی طرف سے طلوع کرے گا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے۔ دجال نکل آئے گا اور یاجوج و ماجوج ظاہر ہوں گے۔ دبابۃ الارض نکلے گا۔ اور دھواں جو آسمان سے پیدا ہو گا وہ تمام لوگوں کو گھیر لے گا اور دردناک عذاب دے گا اور لوگ بے قرار ہو کر کہیں گے، اے ہمارے پروردگار اس عذاب سے ہم کو دور کر ہم ایمان لائے۔ اور اخیر کی علامت وہ آگ ہے۔ جو عدن سے نکلے گی۔ بعض نادان گمان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اہل ہند میں سے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہی مہدی موعود ہوا ہے پس ان کے گمان میں مہدی گزر چکا ہے اور فوت ہو گیا ہے اور اس کی قبر کا پتہ دیتے ہیں کہ فراء میں ہے۔ احادیث صحیحہ جو حد شہرت بلکہ حد تو اتر تک پہنچ چکی ہیں ان لوگوں کی بھکڑ ب کرتی ہیں۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامتیں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے متعقد شخص

کے حق میں مفقود ہیں۔ احادیث نبوی ﷺ میں آیا ہے کہ مہدی موعود آئیں گے ان کے سر پر ابر ہو گا۔ اس ابر میں ایک فرشتہ ہو گا جو پکار کر کہے گا یہ شخص مہدی ہے اس کی متابعت کرو۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمام زمین کے مالک چار شخص ہوئے ہیں۔ جن میں سے دو مومن ہیں دو کافر۔ ذو القرنین اور سلیمان مومنوں میں سے ہیں اور نمرود و بخت نصر کافروں میں سے اس زمین کا پانچواں مالک میرے اہل بیت سے ایک شخص ہو گا۔ یعنی مہدی علیہ الرضوان۔ نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ دنیا فانی نہ ہو گی جب تک اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو معبود نہ فرمائے گا۔ اس کا نام میرے نام کے موافق اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے موافق ہو گا۔ زمین کو جو رو ظلم کی بجائے عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اصحاب کف حضرت مہدی کے مددگار ہوں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے زمانہ میں نزول فرمائیں گے۔ اور دجال کے قتل کرنے میں ان کے ساتھ موافقت کریں گے۔ اور ان کی سلطنت کے زمانہ میں زمانہ کی عادت اور نجومیوں کے حساب کے برخلاف ماہ رمضان کی چودھویں تاریخ کو سورج گہن اول ماہ میں چاند گہن لگے گا۔ نظر انصاف سے دیکھنا چاہیے کہ یہ علامتیں اس مردہ شخص میں موجود تھیں یا نہیں۔ اور بھی بہت سی علامتیں ہیں جو مخبر صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی ہیں۔

شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مہدی مختصر کی علامات میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں دو سو تک علامتیں لکھی ہیں۔ بڑی نادانی اور جہالت کی بات ہے کہ مہدی موعود کا حال واضح ہونے کے باوجود لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ہدایہ اللہ سبحانہ الی سواہ الصراط (اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے)۔

(مقول از ترجمہ مکتوبات ص ۲۲۰ دفتر دوم مکتوب نمبر ۶۷)

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین و صلی اللہ تعالیٰ علی
خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین و علی الہ و
اصحابہ اجمعین و علینا معهم یارحم الراحمین

(۲۰ جمادی الثانیہ ۱۳۷۳ھ یوم چہارم شنبہ جامعہ اشرفیہ۔ لاہور)

لَطَائِفُ الْحِكْمَةِ

فِي

اسرارِ نزولِ عيسى ابنِ مريمَ

عليه السلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلوة والسلام
على خاتم الانبياء و المرسلين و على اله و اصحابه و ازواجه و ذرياته
اجمعين و علينا معهم يا ارحم الراحمين

اما بعد

امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلوة و الف الف تحیۃ کا اس پر اجماع ہے۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی بدن کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھالیے گئے۔ اور قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہوں گے۔ جیسا کہ احادیث صحیحہ اور صریحہ اور متواترہ سے ثابت ہے اس وقت اس مختصر رسالہ میں حضرت مسیح بن مریم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے رفع الی السماء اور نزول کے کچھ اسرار و حکم بیان کرنا مقصود ہے۔ تاکہ اہل ایمان کے ایمان میں زیادتی ہو۔ اور اہل علم کے لیے موجب بصیرت ہو۔ اور اہل تذبذب کے لیے باعث طمانیت ہو اور اہل ضلالت کے لیے سبب ہدایت ہو۔ حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و کرم سے اس رسالہ کو قبول فرمائے۔ ربنا نقبل منا انک انت السميع العليم و نب علینا انک انت التواب الرحيم۔ اور اس رسالہ کا نام ”لطائف الحکم فی اسرار نزول سیدنا عیسیٰ بن مریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیٰ نینا و بارک و سلم تجویز کرتا ہوں اور اللہ کے نام سے مقصود کو شروع کرتا ہوں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سنت الہی اس طرح جاری ہے۔ کہ ہر شخص کے ساتھ اس کی استعداد اور اصل فطرت کے مناسب معاملہ کیا جائے۔ اور مقتضائے حکمت بھی یہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فطرت عام بنی آدم کی طرح ہے۔ یا اس سے جدا اور ممتاز ہے۔ قرآن کریم نے کسی نبی کی فطرت کو بیان نہیں کیا۔ قرآن کریم نے صرف دو پیغمبروں کی فطرت بیان کی ہے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اور دوسرے حضرت مسیح بن مریم علیہما السلام کی، جیسا کہ آل عمران اور سورہ مریم میں بالتفصیل مذکور ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے دائرہ نبوت کو آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ اور اس دائرہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم فرمایا۔ اور نبی اکرم سرور عالم محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات بابرکات کو دائرہ نبوت کے تمام خطوط کا منتہی اور مرکزی نقطہ بنایا، نبوت کے لیے یہ ضروری ہے۔ کہ صاحب نبوت مرد ہو عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ لقولہ تعالیٰ۔ وما المرسلنا من قبلک الا رجالا۔ یعنی اور نہیں بھیجے ہم نے پہلے تجھ سے مگر مرد۔ اس لیے دائرہ نبوت کو مرد سے شروع کیا اور فقط مرد سے فقط عورت کو پیدا کیا یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور جب دائرہ نبوت کو ختم کیا تو فقط عورت سے فقط مرد کو پیدا کیا یعنی حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تاکہ دائرہ نبوت کی ہدایت و نیابت دونوں متناسب رہیں۔ کما قال تعالیٰ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم اور اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی شان آدم علیہ السلام جیسی ہے نیز حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر میں مٹی شامل تھی اس لیے ان کو آسمان سے زمین پر اتارا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفخہ جبرائیل سے پیدا ہوئے اس لیے ان کو زمین سے آسمان پر اٹھایا۔ جس طرح ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم ” اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی شان آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ “

نیز حضرت آدمؑ کے خیر میں مٹی شامل تھی۔ اس لیے ان کو آسمان سے زمین پر اتارا۔ اور حضرت عیسیٰؑ نفخہ جبرئیلؑ سے پیدا ہوئے۔ اس لیے ان کو زمین سے آسمان پر اٹھایا۔

ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم
ترجمہ = اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰؑ کی شان آدمؑ جیسی ہے خوب صادق آیا۔

آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نفخہ جبرئیلؑ سے پیدا ہوئے۔ جسمانی حیثیت سے حضرت مسیحؑ کا تعلق حضرت مریمؑ سے ہے اور روحانی حیثیت سے افضل الملائکۃ المقربین یعنی جبرئیلؑ امین سے ہے۔ صورت اگرچہ آپ کی بشری اور انسانی ہے۔ مگر آپ کی فطرت اور اصلی حقیقت مکی اور جبرئیلی ہے۔

فقس آدم لیک معنی جبرئیلؑ
رستہ از جملہ ہوا و قال و قیل

اور اسی بنا پر آپ کو کلمۃ القاہالہ مریم و روح منہ
ترجمہ = عیسیٰؑ ایک کلمہ اور روح ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے جن کو مریمؑ کی طرف ڈالا گیا۔

فرمایا کہ جس طرح کلمہ میں ایک لطیف معنی مستور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جناب مسیحؑ کے جسم مبارک میں ایک نہایت لطیف شئی یعنی حقیقت ملکہ مستور اور مخفی ہے۔

فقاہست ہر سطر من زین کتب
فرد ہست بر عارض و لغریب
معانیت در زیر حرف سیاہ
چو در پردہ معشوق و در مخ ماہ
اور چونکہ آپ کو حق تعالیٰ نے فرمایا روح منہ اور روح کا خاصہ یہ ہے

کہ جس شی سے وہ بنتی ہے۔ اس کو زندہ کر دیتی ہے اس لیے آپ کو احیاء موتی (معنی مردوں کو زندہ کرنے کا کام) اعجاز عطا کیا گیا۔ اور چونکہ آپ کی ولادت میں نوحہ جبرئیلؑ کو دخل تھا۔ کما قال تعالیٰ فننفعنا فیہا من روحنا ترجمہ = ہم نے اس میں اپنی ایک خاص روح بذریعہ نوحہ جبرئیلؑ پھونکی۔“
اس لیے فانفع فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔
ترجمہ = میں اس میں پھونک مارتا ہوں۔ پس وہ باذن اللہ پرندہ ہو جاتا ہے۔“ کا معجزہ آپ کو دیا گیا۔

آدم بر سر مطلب

پس جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کی اصلی فطرت مکی ہے اور آپ کا اصل تعلق جبرئیلؑ اور ملائکہ مقربین سے ہے۔ اور دوسرا تعلق آپ کا حضرت مریم سے ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا۔ کہ دونوں قسم کا تعلق معرض ظہور میں آئے اور کچھ حصہ حیات کا ملائکہ مقربین کے ساتھ گزرے اور کچھ حصہ زندگی کا نبی نوع انسان کے ساتھ۔

دستور یہ ہے کہ اگر ولادت اتفاقاً بجائے وطن اصلی کے وطن اقامت میں ہو جاتی ہے۔ تو چند روز کے بعد وطن اصلی میں بچہ کو ضرور لے جاتے ہیں۔ تاکہ وہ بچہ اپنے وطن اصلی کی زیارت سے محروم نہ رہے۔ اور چونکہ جناب مسیح کی ولادت نفعہ جبرئیل سے ہوئی ہے۔ اس لیے اگر مقررہ کہ یعنی سموات کو جناب مسیح کا وطن اصلی کہا جائے تو کچھ غیر مناسب نہ ہوگا۔ مگر جسمانی حیثیت سے موت طبعی کا آنا بھی لازمی تھا۔ اس لیے آپ کے لیے نزول من السماء مقدر ہوا اور چونکہ رفع الی السماء مکی اور تشبہ بالملائکہ کی بناء پر تھا۔ اس لیے قبل الرفع آپ نے نکاح بھی نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ ملائکہ میں طریق ازدواج نہیں۔
اور نزول چونکہ جسمانی اور بشری تعلق کی بناء پر ہو گا اس لیے بعد نزول

نکاح بھی فرمائیں گے۔ اور اولاد بھی ہوگی۔ اور وفات پا کر روضہ اقدس کے قریب دفن ہوں گے۔

اور چونکہ آپ کی ولادت نفعیہ جبرئیل سے ہوئی اور حضرت جبرئیل کا عروج اور نزول قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔

كما قال الله تعالى تعرج الملكة والروح تنزل الملكة والروح
ترجمہ = فرشتہ اور روح (جبرئیل) آسمان پر جاتے ہیں۔ فرشتہ اور روح
(جبرئیل) آسمان پر سے اترتے ہیں۔

اس لیے مناسب ہوا کہ کم از کم ایک مرتبہ آپ کے لیے بھی عروج الی السماء اور نزول الی الارض ہو۔ تاکہ آپ کی فطرت کا ملکی ہونا اور نفعیہ روح القدس سے پیدا ہونا اور عل جبرئیل ہونا خوب عیاں ہو جائے، بلکہ جس طرح حضرت جبرئیل کو روح کہا گیا اسی طرح جناب مسیح کو بھی روح کہا گیا ہے قال تعالیٰ کلمة القاها الی مریم وروح منه وہ ایک کلمہ ہیں خد تعالیٰ کی طرف سے جن کو مریم کی طرف ڈالا۔

پس جس طرح روح معنی جبرئیل کے لیے عروج و نزول ثابت کیا گیا۔ اسی طرح جناب مسیح کے لیے بھی جو کہ خدا کی ایک خاص روح ہیں، عروج و نزول ہونا چاہیے۔ اور چونکہ حضرت مسیح کو سراپا روح قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ وہ سراپا روح ہیں اور یہ نہیں کہا گیا فیہ روح یعنی اس میں روح ہے اس لیے یہود قتل پر قادر نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ روح کا قتل کسی طرح ممکن نہیں۔ نیز آپ کی شان کلمة القاها الی مریم ذکر کی گئی ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے۔

الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ
ترجمہ = اسی کی طرف کلمات طیبات چڑھتے ہیں۔ اور وہی عمل صالح کو بلند کرتا ہے۔

اس لیے آپ کا رفع الی السماء اور بھی مناسب ہوا۔ نیز خدا کا کلمہ کسی کے پست کرنے سے کبھی پست نہیں ہو سکتا۔ خدا کا کلمہ ہمیشہ بلند ہی رہا کرتا ہے۔

وجعل كلمة الذين كفر والسفلى وكلمة الله هي العليا۔
ترجمہ = اور خدا تعالیٰ نے کافروں کے کلمہ کو پست کر دیا اور خدا کا کلمہ
بلند ہی رہتا ہے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلمتہ اللہ یعنی عیسیٰ روح اللہ کو آسمان پر اٹھالیا۔
اور کافروں کا کلمہ یعنی دجال پست ہو گا یعنی قتل کیا جائے گا۔ اور چونکہ آپ کی
ولادت کے وقت حضرت جبرئیلؑ بشکل بشر متماثل ہوئے تھے۔ کما قال تعالیٰ۔
فتمثل لها بشر اسویا۔ اس لیے رفع الی السماء کے وقت ایک شخص آپ کے ہم
شکل بنا کر صلیب دے دیا گیا۔ کما قال تعالیٰ۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن
سبہ لهم

ترجمہ = یعنی اور (یہود نے) نہیں قتل کیا ان (عیسیٰؑ) کو لیکن ان کے لیے
شبہ بنا دیا گیا تھا۔

اور جس طرح ولادت کے وقت اختلاف ہوا تھا۔ کما قال تعالیٰ
فأختلف الأحزاب من بينهم

ترجمہ = پس جماعتوں نے آپس میں اختلاف کیا۔
اسی طرح رفع الی السماء کے وقت بھی اختلاف ہوا۔

وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع
الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزاً حكيماً۔
ترجمہ = جن لوگوں نے حضرت مسیح کے بارے میں اختلاف کیا وہ شک
میں ہیں ان کو علم نہیں محض اتباع ظن ہے۔ حضرت مسیح کو یقیناً قتل
نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا اور بے شک اللہ غالب اور
حکمت والا ہے۔

جناب مسیح بن مریم کو نزول من السماء اور
قتل دجال کے لیے خاص کیوں کیا گیا

تک شیطان زندہ ہے۔ اس وقت تک اس کے مقابلہ کے لیے ملائکہ کرام بھی زندہ ہیں۔ جس طرح شیاطین کو ہر طرح کی تکفل اور تمشل کی اور عروج اور نزول کی اور شرق سے غرب تک ایک آن میں منتقل ہونے کی طاقت عطا کی گئی۔ اسی طرح بالمقابل ملائکہ کرام کو بھی یہ تمام طاقتیں علی وجہ الا تم عطا کی گئیں۔ تاکہ تقابل مکمل رہے۔ قلب انسانی کے ایک جانب اگر شیطان ہے۔ تو دوسری جانب اس کے مقابل ایک فرشتہ موجود ہے۔

شیطان اگر اس کو برکاتا ہے۔ تو فرشتہ اس کو ہدایت کی جانب بلاتا ہے۔ اور اس کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہے۔ لیکن شیاطین اور ملائکہ کرام کا یہ مقابلہ ایک عرصہ تک پوشیدہ اور مخفی طور سے چلتا رہا۔ اس کے بعد حکمت الہی اور مشیت خداوندی اس جانب متوجہ ہوئی کہ یہ مقابلہ کسی قدر معرض ظہور میں بھی آئے۔ چنانچہ اولاً "الہی ذات کو پیدا فرمایا کہ جس کی حقیقت اور اصل فطرت شیطانی اور صورت اس کی جسمانی اور انسانی ہے۔ یعنی "سج دجال" جیسا کہ فتح الباری میں منقول ہے۔ کہ دجال دراصل شیطان ہے۔ یعنی حقیقت اور فطرت اس کی شیطانی ہے۔ اور صورت اس کی انسانی ہے۔ اور وہ ایک جزیرہ میں مجبوس ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں مصرح ہے۔

کہا جاتا ہے۔ اس دجال اکبر کو ایک جزیرہ میں مجبوس کرنے والے حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ جیسا کہ فتح الباری میں منقول ہے۔ خلاصہ یہ کہ حق تعالیٰ نے اولاً "دجال کو پیدا کیا۔ کہ جس کی حقیقت شیطانی اور صورت انسانی ہے۔ اس کے بعد اس کے مقابلہ کے لیے ایک ایسے نبی کو پیدا فرمایا کہ جس کی فطرت اور اصل حقیقت ملکی اور جبرئیلی ہے۔ اور صورت اس کی بشری اور انسانی ہے۔

اور ایسے نبی سوائے جناب مسیح بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کوئی نہیں نظر آتے، پھر جس طرح دجال یہود یعنی بنی اسرائیل سے ہے۔ اسی طرح جناب مسیح بن مریم بھی بنی اسرائیل سے ہیں۔ جس طرح دجال کو ایک جزیرہ میں مجبوس کر کے

ایک طویل حیات عطا کی گئی۔ اسی طرح اس کے مقابل جناب مسیح بن مریم کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ اور قیامت تک آپ کو قتل دجال کے لیے زندہ رکھا گیا۔ اور اسی وجہ سے احادیث میں دجال کے لیے یخرج اور یظہر کا لفظ آیا ہے (یعنی نکلے گا اور ظاہر ہو گا) جس سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ کہ دجال موجود ہے۔ مگر ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ جیسا کہ جناب مسیح کے متعلق ینزل من السماء کا لفظ آیا ہے۔ (یعنی آسمان سے نازل ہوں گے) جناب مسیح بن مریم اور مسیح دجال کے لیے یولد (یعنی پیدا کیا جائے گا) کا لفظ کسی جگہ نہیں آیا۔ دجال چونکہ دعویٰ الوہیت کا کرے گا اس لیے جناب مسیح بن مریم کی زبان مبارک سے پہلا کلمہ جو کہلایا گیا وہ یہ تھا قال انی عبداللہ بلاشبہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور چونکہ دجال سے بطور استدراج چند روز کے لیے احیاء موتی ظہور میں آئے گا۔ اس لیے اس کے مقابل جناب مسیح بن مریم کو بھی احیاء موتی کا اعجاز عطا کیا گیا۔

شیخ اکبر فرماتے ہیں۔ کہ دجال جس وقت ظاہر ہو گا۔ تو کہل یعنی ادھیڑ عمر ہو گا۔

اسی طرح جناب حضرت مسیح آسمان سے نازل ہوں گے تو کہل ہوں گے۔ کما قال تعالیٰ۔ وکھلا ومن الصالحین۔ ترجمہ = اور وہ (عیسیٰ) کہل ہوں گے اور صلحاء میں سے ہوں گے۔

اور جس طرح حضرت مسیح کو آیت کہا گیا۔ ولنجعلہ آية للناس۔ اسی طرح دجال کو بھی آیت کہا گیا ہے کما قال اللہ تعالیٰ

لویتاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک
ترجمہ = یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آجائیں جس روز آپ کے
رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی۔

اور حدیث میں مصرح ہے کہ بعض آیات ربک سے دجال وغیرہ کا ظاہر ہونا مراد ہے۔ مگر جناب مسیح من جانب اللہ آیت رحمت ہیں۔ اور دجال آیت ابتلا ہے۔

غرض یہ کہ جناب مسیح بن مریم اور دجال کے اوصاف اور احوال میں اس درجہ مقابلہ کی رعایت کی گئی۔ کہ لقب تک میں تقابل کو نظر انداز نہ کیا گیا۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہدایت رکھا گیا۔ و دجال کا لقب مسیح ضلالت رکھا گیا۔ اور چونکہ دجال ملک شام میں ظاہر ہو گا۔ اس لیے جناب مسیح بن مریم بھی اس کے قتل کے لیے شام میں جامع دمشق کے مشرقی مینار پر نازل ہوں گے۔ اور باب لد کے قریب اس کو قتل کریں گے۔ اور دجال چونکہ ظاہر ہو کر شدید نادر ہوا کرے گا۔ جیسا کہ حدیث نواس بن سمعان میں ہے۔

فعات یمینا و شمالا ترجمہ = وہ ہر جگہ فساد پھیلائے گا۔

اس لیے جناب مسیح بن مریم حکم و عدل ہو کر نازل ہوں گے۔ اور چونکہ دجال کے ساتھ زمین کے خزان ہوں گے اس لیے اس کے مقابل جناب مسیح بن مریم اتنا مال تقسیم فرمائیں گے کہ کوئی اس کا قبول کرنے والا نہ ہو گا۔ اور چونکہ بغض و عداوت یہود کا خاص شعار ہے۔ اس لیے اس کو یک لخت مٹا دیں گے۔

واغرینا بینہم العداۃ والبغضاء الی یوم القیمة

ترجمہ = اور ہم نے ان میں قیامت تک بغض و عداوت ڈال دیا۔

اور چونکہ دجال یہود سے ہو گا۔ اور اسی وقت سے زندہ ہے۔ اس لیے حضرت مسیح بن مریم فقط دجال کو قتل فرمائیں گے۔ اور باقی دجال کے معاون اور مددگار کافر ہوں گے۔ اس لیے ان کا مقابلہ اس وقت کے مسلمان امام مہدی کے ماتحت ہو کر کریں گے۔

اور چونکہ یہود اپنی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے جناب مسیح بن مریم پر ایمان نہ لائے تھے۔ اس لیے اس وقت یعنی نزول کے بعد ایمان لے آئیں گے۔

اور انصاری ظاہر "ایمان تو لائے۔ مگر عقیدہ / نیت کی وجہ سے وہ ایمان کفر سے بھی بڑھ کر تھا۔ اس لیے ان کی بھی اصلاح فرمائیں گے۔ اور آپ کی اصلاح سے وہ صحیح ایمان لے آئیں گے۔ غرض یہ کہ کل اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔

وان من اهل الكتاب الا ليومنن به قبل موته ويوم القيامة يكون
عليهم شهيدا

ترجمہ = اور نہیں ہے۔ کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا۔
حضرت عیسیٰؑ پر حضرت عیسیٰؑ کی وفات سے پہلے اور قیامت کے دن
حضرت عیسیٰؑ ان پر شہید ہوں گے

اور چونکہ امام مہدی کے خاندان سے یزید نے خلافت غصب کی تھی۔
اس لیے اس کے صلہ میں امام مہدی کو تمام روئے زمین کی خلافت اور سلطنت عطا
ہوگی۔

اور جناب مسیح بن مریم نہ کوئی سلطنت رکھتے تھے۔ اور نہ خلافت، آپ کا
امت سے تعلق نبوت اور رسالت کا تھا۔ تاکہ آپ پر ایمان لائیں۔ مگر یہود تو
ایمان ہی نہ لائے۔ اور نصاریٰ لائے تو غلط۔ لہذا آپ کا حق اہل کتاب کے ذمہ
صرف ایمان ہے۔ اس لیے نزول کے بعد کوئی شخص اہل کتاب میں ایسا باقی نہ رکھا
جائے گا۔ کہ جو آپ پر ایمان نہ لائے۔

دجال اس امت میں کیوں ظاہر ہوگا

نظام عالم پر ایک نظر ڈالنے سے ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہر سلسلہ کا
سرچشمہ اور کوئی نہ کوئی مخزن اور کوئی نہ کوئی معدن ضرور ہے۔ آفتاب ہے کہ
تمام روشنیوں کا منبع ہے۔ کرہ نار ہے کہ جو تمام حرارتوں کا مخزن ہے۔ کرہ آب
ہے کہ تمام برددتوں کا معدن ہے۔ کرہ ارضی اور کرہ ہوائی ہے کہ جو تمام
رطوبتوں اور پوستوں کا سرچشمہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح ضرور ہے کہ اس عالم اجسام
میں ایک معدن اور منبع ایمان کا ہو، کہ جس سے تمام مومنین کے ایمان مستفاد
ہوں۔ جس طرح زمین کے تمام روشنیاں آفتاب سے مستفاد ہیں۔ اور ایک مخزن
کفر کا ہو۔ کہ اسی سے تمام کافروں کے کفر نکلتے ہوں اور ہر کافر کا کفر اسی مخزن کفر کا
ایک پرتو ہو۔ سو وہ مخزن ایمان ذات بابرکات بنی اکرم سرور عالم سیدنا محمد

ﷺ ہے۔ اور مخزنِ کفر و سرِ شیطنت اور معدنِ کفر و معصیتِ دجالِ اکبر ہے۔

اور جس طرح نبی اکرم ﷺ ارواحِ مومنین کے لیے روحانی والد ہیں۔ دجالِ ارواحِ کافرن کے لیے روحانی والد ہے۔ دجالِ ابوالکافرن ہے۔ اور نبی اکرم ﷺ ابوالمومنین ہیں۔ کما قال تعالیٰ۔

النبی اولى بالمومنین من انفسهم و لزوجہ امہاتہم اور ایک قرأت میں ہے و هو اب لہم

ترجمہ = نبی کریم مومنین کے حق میں ان کے نفوس سے زیادہ اقرب ہیں اور آپ کی ازواجِ مطہرات مومنین کی روحانی مائیں ہیں یعنی نبی کریم ﷺ مومنین کے روحانی باپ ہیں۔

اور جس طرح آپ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ دجالِ اکبر خاتم الدجالین ہے۔

اور جس طرح خاتم الانبیاء کی ایک مہربوت ہے۔ اسی طرح خاتم الدجالین کی مہر کفر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے

مکتوب بین عینیہ کافر

ترجمہ = یعنی دجال کی پیشانی پر صاف کافر لکھا ہوا ہوگا۔

جس طرح مہربوت حضور کی نبوت و رسالت کی حسی دلیل تھی۔ اسی طرح دجال کی پیشانی پر کافر کی کتابت اس کے دجل اور کفر کی حسی اور بدیہی دلیل ہوگی۔

اور جس طرح تمام انبیاء سابقین نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت دیتے چلے آئے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام دجال سے ڈراتے آئے۔ (حدیث میں ہے)

ما من نبی الا وقد اندر قومہ من الدجال

ترجمہ = کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا

ہو۔

اور جس طرح خاتم الانبیاء کی نبوت بذریعہ مہربوت اور خاتم الدجالین کا کفر بذریعہ کتابت بین عینیبہ کافر ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح قیامت کے قریب وابتہ الارض کے ذریعہ سے مومنین کا ایمان اور کافرین کا کفر پیشانی پر ظاہر کیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جماعت مومنین کی اور کافرین کی آخری جماعت ہوگی۔ اور انہیں پر سلسلہ ایمان اور کفر کا ختم کر کے قیامت قائم کی جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ کہ قیامت کے قریب مکہ یا اجداد کے زمین سے ایک جانور نکلے گا۔ جس کے ہاتھ میں ایک مہر ہوگی۔ مومن اور کافر کی پیشانی پر ایمان اور کفر کا نشان لگائے گا۔ مومن کی پیشانی پر سفید نکتہ۔ اور کافر کے ماتھے پر سیاہ نکتہ لگائے گا، اور اے مومن اور اے کافر سے ایک دوسرے کو خطاب کریں گے۔ وابتہ الارض کا زمین سے نکلنا قرآن اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح سلسلہ نبوت اور سلسلہ دجل کے خاتم پر نبوت اور دجل کی مہر لگائی گئی۔ اسی طرح سلسلہ ایمان اور کفر کے خاتم پر بھی ایمان اور کفر کی مہر مناسب ہوئی اس لیے کہ خاتم کے معنی جس طرح آخر کے ہیں اسی طرح صاحب مہر کے بھی ہیں۔ پس خاتم کے لیے مہر کا ہونا نہایت مناسب ہے۔

آمد مہر مطلب

پس جس طرح خاتم الانبیاء کی بعثت اخیر زمانہ میں اخیر امم کی طرف ہوئی اسی طرح خاتم الدجالین کا ظہور اخیر زمانہ میں مناسب ہوا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

قیاس اس کو متقاضی ہے کہ خاتم الدجالین کا مقابلہ خاتم التسنین کریں۔ اور آپؐ خود اپنے دست مبارک سے اس کو قتل کریں اور اگر بالفرض نبی اکرمؐ خود نہ قتل فرمائیں تو حضرت مسیح بن مریمؑ کی کیا خصوصیت ہے کہ وہی نازل ہو کر دجال کو نبی کریمؐ کی طرف سے قتل فرمائیں؟

جواب

یہ ہے کہ اول تو نبی کریم ﷺ دوبارہ کمالات نبوت و رسالت اس رتبہ کو پہنچ چکے ہیں کہ نہ کوئی آپؐ کا مماثل ہے اور نہ مقابل۔ جس طرح آفتاب کے سامنے کسی ظلمت کا ظاہر ہونا ناممکن اور محال ہے اسی طرح آفتاب رسالت کے سامنے دجل کی ظلمت کا ظاہر ہونا محال ہے اور غالباً "دجال اسی وجہ سے آپؐ کی موجودگی میں ظاہر نہ ہو سکا دوم یہ کہ آیت شریفہ:

وَإِذَا اخذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي الْآيَةَ

ترجمہ = اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ نے سب انبیاء سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں اور پھر تم سب کے بعد ایک رسول آئیں جو تمہاری کتاب اور حکمت کی تصدیق کریں تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس عہد کو قبول کیا سب نے اس کو قبول کیا۔

حضور پر نورؐ پر ایمان اور نصرت کا عہد دوسرے انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا ہے لہذا آپؐ کی امداد کے لیے انبیاء سابقین علیہم السلام سے کسی کا ظہور ضروری ہے۔ اور انبیاء سابقین سے کوئی نبی دجال کا ضد اور مقابل ہونا چاہیے تاکہ نبی اکرم ﷺ کی طرف سے آپؐ کی امت کی نصرت ظہور میں آئے۔

اب رہا یہ امر کہ اس بارہ میں کون آپؐ کی نیابت کرے تو غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ جناب مسیح بن مریم آل حضرت ﷺ کے نائب خاص ہیں۔ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو سورۃ جن میں عبد اللہ کے لقب سے لقب فرمایا ہے۔

لما قام عبد اللہ يدعوه كادوا يكفونون عليه لبيدا۔

ترجمہ = جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔

اور حضرت مسیح نے بھی اپنے لیے اس لقب کو ثابت فرمایا ہے۔ قال انی عبد اللہ اور دوسرے حضرات انبیاء سے یہ ادعاء ثابت نہیں ہوا۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ یہاں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام وصف عبدیت کے مخبر اور مظہر ہیں۔ اور نبی اکرم ﷺ کی عبدیت کو خود جناب باری عزاسمہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور غالباً اسی نیابت خاصہ کی وجہ سے سرور عالم ﷺ کی آمد آمد کی بشارت کا منصب حضرت مسیح بن مریم کو سپرد کیا گیا۔

و اذ قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد

ترجمہ = حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور توراة کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ کہ جو میرے بعد آئیں گے۔ نام ان کا احمد ہو گا۔

اور اسی طرح حضرت مسیح قیامت کے دن شفاعت کے طلب گاروں کو نبی اکرم ﷺ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہونے کا مشورہ دیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس شفاعت کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت یہ جواب دیں گے۔ ان محمد ا خاتم النبیین قد حضر الیوم۔ آج تو خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف فرما ہیں ان سے شفاعت کی درخواست کرو۔ علاوہ ازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آن حضرت سے ایک خاص قرب بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔

وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ولی الناس بعیسیٰ بن مریم لیس بینی و بینہ نبی (رواہ البخاری)

ترجمہ = نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ میں عیسیٰ بن مریم سے بہت

ہی اقرب ہوں میرے اور ان کے درمیان میں کوئی نبی نہیں۔
 اور غالباً حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی اکرم کی طرح معراج جسمانی میں
 شریک کرنا اسی اولویت کی وجہ سے ہوا اور جس طرح خاتم الانبیاء سے پیشتر نبوت و
 رسالت کا سلسلہ جاری رکھا گیا۔ اسی طرح خاتم الدجالین سے پہلے دجل کا سلسلہ
 جاری رکھا گیا۔

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث
 دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه رسول الله وانه لا
 نبى بعدى

ترجمہ = نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک
 قائم نہ ہوگی۔ جب تک بہت سے دجال اور کذاب نہ آئیں، ہر ایک یہ
 کہتا ہو گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
 اس حدیث میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دجل کا مدار اصل میں
 خاتم الانبیاء کے آجانے کے بعد دعوائے نبوت و رسالت پر ہے۔

اس لیے کہ آپ ﷺ نے دجالین کی علامت ہی یہ قرار دی ہے
 کلہم یزعم انه رسول اللہ یعنی فقط آپ ﷺ کے بعد اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ
 میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں اس کے دجال ہونے کی قطعی اور یقینی دلیل ہے نیز
 دجل کے معنی التباس کے ہیں۔ اور دعویٰ الوہیت میں چنداں التباس اور اشبہا
 نہیں جتنا کہ دعویٰ نبوت میں ہے۔ اسی وجہ سے فرعون کو باوجود دعوائے الوہیت
 کے دجال نہیں کہا گیا۔ اس لیے کہ بشر کی عدم الوہیت میں کوئی اشبہا نہیں۔ ہر
 شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایک کھانے پینے والا اور گھٹے موٹے والا کبھی خدا نہیں ہو سکتا
 مگر انبیاء کرام چونکہ جنس بشر سے آئے ہیں، اس لیے دعوائے نبوت میں عقلاً
 اشبہا ہو سکتا ہے لیکن خاتم النبیین اور ختم نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی اشبہا باقی
 نہیں رہا۔ غرض یہ کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا سراسر دجل اور کھلا
 ہوا ارتداد ہے۔ کہ جس کی سزا بجز قتل کے اور کچھ نہیں، اس لیے جناب مسیح بن

مریمؑ نازل ہو کر دجال مدعی نبوت کو قتل فرمائیں گے کہ خاتم الانبیاء کے بعد کیوں نبوت کا دعویٰ کیا۔

اور ان لوگوں سے کہ جو اس مدعی نبوت کا ساتھ دیں گے امام مہدی آکر قتال کریں گے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلہ کذاب سے قتال کیا۔ سبحان اللہ حق تعالیٰ نے کس طرح خاتم الانبیاء کے بعد مدعی نبوت کا واجب القتل ہونا ظاہر فرمایا کہ اس امت مرحومہ کے اول اور آخر خلیفہ دونوں سے مدعی نبوت کی جماعت کو خوب اچھی طرح قتل کرایا۔ نیز یہود کے قتل میں حکمت یہ ہے کہ یہود جناب مسیح بن مریم کے کچھ خاص مجرم ہیں۔

اول۔ تو یہ کہ جناب مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان نہ لائے۔

دوم۔ یہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر طرح طرح کے افتراء باندھے۔

سوم۔ یہ کہ آپ کے قتل میں پوری کوشش اور تدبیر سے کام لیا مگر حق تعالیٰ نے آپ کو بالکل صحیح و سالم آسمان پر اٹھایا۔

چہارم۔ یہ کہ آپ کے بعد جس نبی یعنی خاتم الانبیاء کی آپ نے بشارت دی تھی اس پر ایمان نہ لائے اور اس کے قتل میں بھی پوری کوشش کی مگر سب ناکام رہے۔

پنجم۔ یہ کہ مسیح دجال کو خاتم الانبیاء کے بعد نبی مان بیٹھے۔ حالانکہ خاتم النبیین کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔

اس لیے مناسب ہوا کہ اب یہود کا استیصال کیا جائے۔ اس لیے کہ اب کفر امتنا کو پہنچ چکا ہے۔ خاتم الانبیاء کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اور جو اس مدعی کا اتباع کرے وہ شرعاً ہرگز ہرگز زندہ نہیں رکھے جاسکتے اینما تقفوا الخذولوا قتلوا تقبیلًا۔

پھر یہ کہ دجال اپنے کو مسیح کہہ کر خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے لگا اور لوگ دھوکہ سے اس مسیح ضلالت کو مسیح ہدایت یعنی مسیح بن مریم (صلی اللہ علیہ وسلم) سمجھ کر ایمان لائیں گے اور غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ اس

لے حضرت مسیح بن مریم کو اس ناقابل تحمل غلطی کے ازالہ کے لیے نازل کرنا ضروری ہوا۔ اس لیے آپ اس کے قتل پر مامور ہوئے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ کون مسیح ہدایت ہے اور کون مسیح ضلالت۔ ذلک عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی خاتم الانبیاء والمرسلین و علی الہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین و علینا معہم یا رحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین و یا اجود الاجودین۔ آمین یا رب العلمین

اسلام اور مرزائیت
کا
اصولی اختلاف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین۔ والعاقبة للمتقین و الصلاة والسلام
 علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین و علی الواصحابہ و
 ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔

امابعد بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ مرزائی اور
 قادیانی مذہب اسلام سے کوئی علیحدہ مذہب نہیں۔ بلکہ مذہب اسلام ہی کی ایک شاخ
 ہے اور دیگر اسلامی فرقوں کی طرح یہ بھی ایک اسلامی فرقہ ہے اس لیے یہ لوگ
 قادیانیوں کو مرتد اور دائرۃ اسلام سے خارج سمجھنے میں تامل کرتے ہیں یہ بالکل غلط
 ہے ان لوگوں کی یہ غلط فہمی سراسر اصول اسلام سے لاعلمی اور بے خبری پر مبنی ہے
 یہ مسلمان کی جہالت کی انتہا ہے کہ اسے اسلام اور کفر میں فرق نہ معلوم ہوا۔ جانا
 چاہیے کہ ہر ملت اور مذہب کے کچھ اصول اور عقائد ہوتے ہیں کہ جن کی بناء پر
 ایک مذہب دوسرے مذہب سے جدا اور ممتاز سمجھا جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے
 بھی کچھ بنیادی اصول اور عقائد ہیں کہ ان اصولوں اور عقائد کے اندر رہ کر جو
 اختلاف ہو وہ فروعی اختلاف ہے اور جو اختلاف ان مسلمہ اصول اور عقائد کی
 حدود سے نکل کر ہو وہ اصولی اختلاف کہلاتا ہے اور اس اختلاف سے وہ شخص دائرہ
 اسلام سے خارج اور مرتد سمجھا جاتا ہے۔

اس مختصر تحریر میں ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قادیانی
 مذہب، مذہب اسلام کے اصول اور عقائد سے کس درجہ متصادم اور مزاحم ہے
 تاکہ یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے کہ اسلام اور مرزائیت کا اختلاف

اصولی اختلاف ہے مرزائی مذہب کے اصول اور عقائد مذہب اسلام کے اصول اور عقائد کے بالکل مابین اور مخالف ہیں بالکل ایک دوسرے کی ضد اور نقیض ہیں مذہب اسلام اور مرزائیت ایک جامع نہیں ہو سکتے۔ فاقول باللہ التوفیق وبیدہ لزمة التحقیق۔

مرزائیوں کے نزدیک بھی اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی اختلاف ہے فروعی نہیں

یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہمارے اور غیر احمدیوں کے درمیان میں کوئی فروعی اختلاف ہے کسی مامور من اللہ کا انکار کفر ہو جاتا ہے، ہمارے مخالف حضرت مرزا صاحب کی ماموریت کے منکر ہیں، بتاؤ یہ اختلاف فروعی کیونکر ہوا قرآن مجید میں تو لکھا ہے لانفرق بین احد من رسلہ لیکن حضرت مسیح موعود کے انکار میں تو تفرقہ ہوتا ہے۔ (نہج الملل۔ مجموعہ فتویٰ احمدیہ ص ۲۷۴ ج ۱)

پہلا اختلاف

مسلمانوں کے نبی اور رسول محمد عربی فیلہ امی و ابی ﷺ ہیں اور مرزائیوں کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہیں (دافع البلاء ص ۱۱ روحانی خزائن ص ۲۳۱ ج ۱۸) اور ظاہر ہے کہ نبی ہی کے بدلنے سے قوم اور مذہب جدا سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی قوم یہود اور نصاریٰ سے اسی لیے جدا ہے کہ ان کا نبی ان کے نبی کے علاوہ ہے۔ حالانکہ مسلمان بھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو شخص فقط حضرت موسیٰ یا فقط حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھے اور محمد ﷺ پر ایمان نہ لائے وہ یہودی اور عیسائی ہے مسلمان اور محمدی نہیں کہلا سکتا اور جو یہودی اور عیسائی حضرت محمد ﷺ پر ایمان لے آئے وہ یہودی اور عیسائی نہیں رہتا بلکہ مسلمان محمدی کہلاتا ہے۔

اسی طرح جو شخص مرزا غلام احمد پر ایمان لائے وہ مسلمان اور محمدی نہیں کہلا سکتا اس لیے کہ نئے پیغمبر پر ایمان لانے کی وجہ سے پہلے پیغمبر کی امت سے

خارج ہو جاتا ہے اور نئے نبی کی امت میں داخل ہو جاتا ہے معلوم ہوا کہ تمام مرزائی مرزا غلام احمد کو نبی ماننے کی وجہ سے محمد رسول اللہ ﷺ کی امت اور دین اسلام سے خارج ہو چکے ہیں ان کو مسلمان محمدی یا احمدی کہنا جائز نہیں ان کو مرزائی اور غلامی اور قادیانی کہا جائے گا اور انکا دین اسلام نہیں ہو گا بلکہ ان کا دین مرزائی دین ہو گا۔

دوسرا اختلاف

تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں جیسا کہ نص قرآنی ماکان محمدنا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ و تابعین اور امت محمدیہ کے تیرہ سو برس کے تمام علماء مقتدین اور متاخرین کے اتفاق سے یہ مسلم ہے کہ نبوت و رسالت محمد رسول اللہ ﷺ پر ختم ہو چکی ہے۔ یہ اسلام کا اساسی اصول اور بنیادی عقیدہ ہے جس میں کسی اسلامی فرقہ کو اختلاف نہیں۔

مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ نبوت حضور ﷺ پر ختم نہیں ہوئی آپ کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے گویا کہ مرزا صاحب کے زعم میں حضور خاتم النبیین نہیں بلکہ فاتح النبیین ہیں یعنی نبوت کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔

(براہین احمدیہ ج ۱۳۹ روحانی خزائن ص ۲۰۶ ج ۲۱)

امت محمدیہ میں سب سے پہلا اجماع

حضور ﷺ کے وصال کے بعد امت محمدیہ میں جو پہلا اجماع ہوا وہ اسی مسئلہ پر ہوا کہ جو شخص حضور ﷺ کے بعد دعوائے نبوت کرے اس کو قتل کیا جائے۔

اسود حنسی نے حضور کے زمانہ حیات میں دعویٰ نبوت کیا حضور نے ایک صحابی کو اس کے قتل کے لیے روازہ فرمایا صحابی نے جا کر اسود حنسی کا سر قلم کیا۔

میلہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا صدیق اکبرؑ نے خلافت کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ میلہ کذاب کے قتل اور اس کی جماعت کے مقابلہ اور مقابلہ کے لیے خالد بن ولیدؓ سیف اللہ کی سرکردگی میں صحابہ کرامؓ کا ایک لشکر روانہ کیا، کسی صحابی نے میلہ سے یہ سوال نہیں کیا کہ تو کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، مستقل نبوت کا مدعی ہے یا نعلی اور بروزی نبوت کا مدعی ہے اور نہ کسی نے میلہ کذاب سے اس کی نبوت کے دلائل اور براہین پوچھے، اور نہ کوئی معجزہ دکھلانے کا سوال کیا، صحابہ کرامؓ کا لشکر میدان کارزار میں پہنچا میلہ کذاب کے ساتھ چالیس ہزار جوان تھے خالد بن ولیدؓ سیف اللہ نے جب تلوار پکڑی تو میلہ کے اٹھائیس ہزار جوان مارے گئے اور خود میلہ بھی مارا گیا خالد بن ولیدؓ مظفر و منصور مدینہ منورہ واپس آئے اور مال غنیمت مجاہدین پر تقسیم کیا گیا۔ میلہ کے بعد طلحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبرؑ نے اس کے قتل کے لیے بھی حضرت خالدؓ کو روانہ کیا۔ (فتوح البلدان ص ۱۰۲۔)

اس کے بعد خلیفہ عبدالملکؓ کے عہد میں حارث نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خلیفہ وقت نے علماء صحابہؓ و تابعین کے متفقہ فتویٰ سے اس کو قتل کر کے سولی پر چڑھایا اور کسی نے اس سے دریافت نہ کیا کہ تیری نبوت کی کیا دلیل ہے اور نہ کوئی بحث اور مناظرہ کی نوبت اور نہ معجزات اور دلائل طلب کیے۔

قاضی عیاضؒ شفاء میں اس واقعہ کو نقل کر کے لکھتے ہیں۔

وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك باشباهم

ترجمہ = بہت سے خلفاء اور سلاطین نے مدعیان نبوت کے ساتھ ایسا ہی

معاملہ کیا ہے۔

خلیفہ ہارون رشید کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا خلیفہ ہارون رشید نے علماء کے متفقہ فتویٰ سے اس کو قتل کیا۔ خلاصہ یہ کہ

قرون اولیٰ سے لیکر اس وقت تک تمام اسلامی عدالتوں اور درباروں کا یہی فیصلہ رہا ہے کہ مدعی نبوت اور اس کے ماننے والے کافر اور مرتد اور واجب القتل

ہیں اب بھی مسلمانان پاکستان کی وزراء حکومت سے استدعا ہے کہ خلفائے راشدینؑ اور سلاطین اسلام کی اس سنت پر عمل کر کے دین اور دنیا کی عزت حاصل کریں۔

عزیز یکہ ازور گمش سر بتافت
ہر در کہ شد ہیج عزت نیافت

قتل مرتد کے متعلق مرزائی خلیفہ اول حکیم نور الدین کا فتویٰ

مجھے (حکیم نور الدین صاحب کو) خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے۔ اور اب نہ تمہارے کہنے سے معزول ہو سکتا ہوں اور نہ کسی میں طاقت ہے کہ معزول کر دے اگر تم زیادہ زور دو گے تو یاد رکھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تمہیں مرتدوں کی طرح سزا دیں گے۔

(رسالہ شمیم الاذہان قادیان جلد ۹ نمبر ۱۱ ص ۱۳ بابت ماہ نومبر ۱۹۱۳ء)

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ نور الدین صاحب کے نزدیک بھی مرتد کی سزا قتل ہے اس لیے مخالفین کو خالد بن ولید کے اتباع میں اس سنت کے جاری کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔

قادیانیوں کو حج بیت اللہ کی ممانعت کی وجہ

مرزائیوں کے نزدیک قادیان کی حاضری ہی بمنزلہ حج کے ہے، اور مکہ مکرمہ جانا اس لیے ناجائز ہے کہ وہاں قادیانیوں کو قتل کر دینا جائز ہے۔ چنانچہ مرزا محمود صاحب قادیانی خلیفہ ثانی ایک خطبہ جمعہ میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

آج جلسہ کا پہلا دن ہے اور ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے۔ حج خدا تعالیٰ نے مومنوں کی ترقی کے لیے مقرر کیا تھا آج احمدیوں کے لیے دینی لحاظ سے توجہ مفید ہے مگر اس سے جو اصل غرض یعنی قوم کی ترقی تھی وہ انہیں حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ حج کا مقام ایسے لوگوں کے قبضہ میں ہے جو احمدیوں کو قتل کر دینا بھی جائز سمجھتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ نے قادیان کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ (معلوم)

ہوا کہ علماء حرمین کے نزدیک قادیانی مرتد اور واجب القتل ہیں)

(برکات خلافت ص ۵)

تیسرا اختلاف

تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اخروی نجات کے لیے حضرت محمد ﷺ پر ایمان لانا کافی ہے مرزائی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار مرزا غلام احمد پر ایمان لانے پر ہے (اربعین نمبر ۴ ص ۶ روحانی خزائن ص ۴۲۵ ج ۱۷) اور جو شخص مرزا غلام احمد پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور ابدی جہنم کا مستحق ہے (مجموعہ اشتہارات ص ۲۷۵ ج ۳ حقیقت الوسی ص ۱۶۳ روحانی خزائن ص ۱۶۷ ج ۲۲) نہ اس کے ساتھ نکاح جائز (برکات خلافت ص ۷۵) اور نہ اس کی نماز جنازہ درست ہے۔

(انوار خلافت ص ۹۳)

مرزا صاحب کے جنہین کے سوا دنیا کے پچاس کروڑ مسلمان کافر اور اولاد الزنا ہیں۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۵۴۸ روحانی خزائن ص ۵۴۸ ج ۵ آئینہ مداقت ص ۳۵) چنانچہ اسی بناء پر چودھری ظفر اللہ نے قائد اعظم کے نماز جنازہ میں شرکت نہیں کی کہ ظفر اللہ کی نزدیک قائد اعظم کافر اور جنمی تھے۔

قائد اعظم کی وصیت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی قلس اللہ سر پڑھائیں چنانچہ وصیت کے مطابق شیخ الاسلام نے تمام ارکان دولت اور مسلمانان ملت کی موجودگی میں قائد اعظم کا جنازہ پڑھا اور اپنے دست مبارک سے ان کو دفن کیا۔

قائد اعظم کا مذہب

اس وصیت اور طرز عمل سے صاف ظاہر ہے کہ قائد اعظم کا مذہب وہی تھا جو حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر عثمانی کا تھا اور پاکستان اسی قسم کی اسلامی حکومت ہے کہ جس قسم کا اسلام حضرت شیخ الاسلام کا تھا۔ مولانا شبیر احمد اسی پاکستان کے شیخ الاسلام تھے اور ساری دنیا کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام عثمانی مرزائی جماعت کو مرتد

اور خارج از اسلام سمجھتے تھے اور ان کی نظر میں میلہ پنجاب کا وہی حکم تھا جو شریعت میں یمامہ کے میلہ کذاب کا ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کی تحریرات اس بارہ میں صاف اور واضح ہیں۔

تمام روئے زمین کے کلمہ گو مسلمان مرزائیوں کے نزدیک

کافر اور جنمی اور اولاد الزنا ہیں

مرزا صاحب کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے ایک ایک حرف پر بھی عمل کرے مگر مرزا صاحب کو نبی نہ مانے تو وہ ایسا ہی کافر ہے جیسے یسود اور نصاریٰ اور دیگر کفار اور مرزا صاحب کے تمام منکر اولاد الزنا ہیں۔

(قادیانی مذہب ص ۱۳۲)

چوتھا اختلاف

مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی معتبر ہے جو حضور پر نور ﷺ نے فرمائی اور اس کے بعد صحابہؓ و تابعینؓ کی تفسیر کا درجہ ہے مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہی تفسیر معتبر ہے جو میں بیان کروں اگرچہ وہ تمام احادیث متواترہ اور صحابہؓ اور تابعینؓ اور امت محمدیہ کے تمام علماء کے خلاف ہو۔

(اعجاز احمدی ص ۳۰ روحانی خزائن ص ۱۳۰ ج ۱۹)

پانچواں اختلاف

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے یعنی حد اعجاز کو پہنچا ہوا ہے۔ کوئی اس کا شل نہیں لاسکتا ہے۔

مرزا صاحب اور مرزائی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا کلام بھی معجزہ ہے۔ مرزا صاحب اپنے قصیدہ اعجازیہ کو قرآن کی طرح معجزہ قرار دیتے تھے۔ مرزائیوں کے نزدیک مرزا صاحب کی وحی پر ایمان لانا ایسا ہی فرض ہے جیسے قرآن

پر ایمان لانا فرض ہے) اور جس طرح قرآن کریم کی تلاوت عبادت ہے اسی طرح مرزا صاحب کی وحی اور الہامات کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ معلوم نہیں کہ کیا مرزا صاحب کے انگریزی الہامات کی بھی قرآن کی طرح تلاوت عبادت ہے یا نہیں، واللہ (علم)

(خطبہ عید مرزا محمود مندرجہ الفضل قادیان ج ۱۵ نمبر ۷۸ ص ۶۔ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۲۸)

اب ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے بعد اگر کسی اور کتاب پر بھی ایمان لانا فرض ہو تو قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب نہ ہوگی مرزا صاحب فرماتے ہیں۔

آنچه	من	بشنوم	زوحی	خدا
بخدا	پاک	دائمش	از	خطا
بجو	قرآن	منزه	اش	دانم
از	خطابا	ہمیں	است	ایمانم

(درشن قاری ص ۲۸۷ نزل المسیح ص ۹۹ روحانی خزائن ص ۷۷ ج ۱۸)۔

چھٹا اختلاف

مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث حجت ہے اور اس کا اتباع ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وما لرسولنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ مرزا صاحب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو حدیث نبوی میری وحی کے موافق نہ ہو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے۔ مرزا صاحب حدیث نبوی کے متعلق لکھتے ہیں:

(۱) جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کو اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے۔

(ماشیرہ فیہرہ محمد کوڑویہ ص ۱۰ روحانی خزائن ص ۵۱ ج ۱۷)

(۲) اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔

(الماجاز احمدی ص ۳۰ روحانی خزائن ص ۱۳۰ ج ۱۹)

ساتواں اختلاف

قرآن اور حدیث جماہ کی ترغیب اور اس کے احکام سے بھرا پڑا ہے۔
مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جماہ شرعی میرے آنے سے منسوخ ہو گیا اور انگریزوں کی
اطاعت اولی الامر کی اطاعت ہے اور انگریزوں سے جماہ کرنا حرام قطعی ہے۔

(ضمیمہ مخذ گولڈیہ ص ۲۷ روحانی خزائن ص ۷۷ ج ۱۷)۔

مگر پاکستان کی تخریب کے لیے فوجی تیاریاں اور ریشہ دوانیاں، قادیانوں
کے نزدیک فرض عین ہیں اور لیل و نهار اسی دھن میں لگے ہوئے ہیں۔

آٹھواں اختلاف

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد
آنے والا خواہ کتنا ہی صالح اور متقی ہو وہ انبیاء مرسلین سے افضل و بہتر نہیں ہو
سکتا۔ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں تمام انبیاء کرام سے افضل ہوں۔ مرزا
صاحب فرماتے ہیں۔

انبیاء گرچہ بودہ اندبے
من عرفان نہ کترم از کے
انچہ داد ست ہر نمی را جام
داد آن جام را مرا تمام
کم نیم زان ہمہ بروئے یقین
ہر کہ گوید دروغ است و لعین

(درشن فارسی ص ۲۸۷ و ۲۸۸ نزول المسح ص ۹۹ روحانی خزائن ص ۷۷ ج ۱۸)

نواں اختلاف

از روئے قرآن و حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور
برگزیدہ بندے بغیر باپ کے مریم صدیقہ کے بلن سے پیدا ہوئے صاحب معجزات

تھے۔

مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں مسیح بن مریم سے افضل ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں جو مغفلات اور بازاری گالیاں لکھی ہیں ان کے تصور سے ہی کلیجہ شق ہوتا ہے بطور نمونہ ایک عبارت ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ اس سے بھڑکنا غلام احمد ہے۔

(دافع ابلاء ص ۲۰ روحانی خزائن ص ۲۳۰ ج ۱۸)

خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مسیح بن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں ہرگز دکھلانہ سکتا۔ (مقیّدہ الوحی ص ۱۳۸) ۱۵۳ روحانی خزائن ص ۱۵۲ ج ۲۲) آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین داویاں اور نانیاں آپ کی زنا کار کسبسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا (حاشیہ ضمیمہ انجام آتم ص ۷، روحانی خزائن ص ۲۹۱ ج ۱۱) اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشین گوئی کیوں نام رکھا۔ (ضمیمہ انجام آتم ص ۳، روحانی خزائن ص ۲۸۸ ج ۱۱) یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی عادت تھی۔

(حاشیہ ضمیمہ انجام آتم ص ۵، روحانی خزائن ص ۲۸۹ ج ۱۱)

سواں اختلاف

تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ محمد عربیٰ صلوات اللہ علیہ وسلم افضل المرسلین ہیں اور سید الاولین والآخرین اور افضل الانبیاء والمرسلین ہیں اور قادیان کا ایک دہقان اور دشمنان اسلام یعنی نصاریٰ بے لگام کا ایک زر خرید غلام یعنی مرزا غلام قادیانی، کبھی تو حضور پر نور ﷺ کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میں عین محمد ہوں اور کبھی یہ کہتا ہے کہ میں آنحضرت ﷺ سے بھی افضل اور بہتر ہوں۔ نبی اکرم ﷺ کے معجزات صرف

تین ہزار تھے۔ (تخذ کولویہ ص ۳۰ روحانی خزائن ص ۱۵۳ ج ۱۷) اور مرزا صاحب کے معجزات کی تعداد (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۶ میں روحانی خزائن ص ۷۲ ج ۲۱) میں دس لاکھ بتائی ہے گویا معاذ اللہ۔ محمد رسول اللہ ﷺ مرزائے قادیان سے شان اور مرتبہ میں تین سو تینتیس درجہ کم ہیں۔ اور قرآن کریم میں جو آیتیں حضور پر نور کے بارے میں اتری ہیں ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ آیتیں میرے بارے میں اتری ہیں۔ مثلاً

(۱) آیت سبحن الذی اسرى بعبده الخ جس میں حضور پر نور کے معجزہ معراج کا ذکر ہے لیکن مرزا کہتا ہے کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی (تذکرہ ص ۷۹-۷۸-۷۷ طبع ۱۳۵-۲۷۵)

(۲) ثم دنی فتدلی فکان قلب قوسین لو ادنی۔ جس میں حضور ﷺ کے قرب خداوندی یا قرب جبرئیل کا ذکر ہے۔ لیکن مرزا کہتا ہے کہ یہ میرے پر نازل ہوئی (تذکرہ ص ۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴ طبع ۱۳۳-۳۹۵)

(۳) لانا فتحنا لک فتحا مبینا لیکن مرزا کہتا ہے کہ مجھ پر نازل ہوئی (تذکرہ ص ۵۰-۴۸-۴۷-۴۵-۴۱)

(۴) قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی (تذکرہ ص ۱۳۶ طبع ۳)

(۵) لانا عطینک الکوثر۔ وغیر ذلک من الآیات

(تذکرہ ص ۹۳ ص ۱۰۳ طبع سوم)

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں میرے بارے میں مجھ پر نازل ہوئی ہیں۔ اور مثلاً قرآن کریم میں جو محمد رسول اللہ ﷺ (ایک غلطی کا ازلہ ص ۳) اور مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد آیا ہے اس سے بھی مرزا صاحب ہی مراد ہیں (انوار خلافت ص ۱۸) اور محمد اور احمد میرا نام ہے۔ (نحوذ باللہ) مرزا کیا ہے ایک دجال بھی ہے۔ اور نفل بھی ہے۔

قادیان بمنزلہ مکہ اور مدینہ کے ہے

مرزائیوں کا قادیان بمنزلہ مکہ اور مدینہ کے ہے اس مسجد کے بارے میں

کہ جو مرزا صاحب کے چوبارہ کے پہلو میں بنائی گئی ہے۔

(برائین احمدیہ ص ۵۵۸ حاشیہ در حاشیہ روحانی خزائن ج ۶۶ ص ۱)

قادیان کی زمین ارض حرم ہے

زمین قادیان اب محترم ہے
ہجوم خلق سے ارض حرم ہے

(در شین اردو ص ۵۲ مجموعہ کلام مرزا غلام احمد)

قادیان کی حاضری بمنزلہ حج کے ہے

مرزا بشیر الدین محمود اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا جلسہ بھی حج کی طرح ہے اور جیسا حج میں رنٹ اور فسوق اور جدال منع ہے ایسا ہی اس جلسہ میں بھی منع ہے۔ (گویا کہ آیت فلا رنٹ ولا فسوق ولا جدال فی الحج قادیان کے جلسہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔) (برکات خلافت ص ۷۰ ز) لاحول ولا قوۃ الا باللہ

قادیان میں مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ

اس مسجد اقصیٰ سے مراد مسج موعود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے..... پس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحن الذی اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله (خطہ الہامیہ حاشیہ ص ۲۱ روحانی خزائن ص ۲۱ ج ۱۶) ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ وہی ہے کہ جس کو مسج موعود نے بنایا۔

(خطبہ الہامیہ حاشیہ ص ۲۵ روحانی خزائن حاشیہ ص ۲۵ ج ۱۶)

قادیان میں بہشتی مقبرہ

قادیان میں بہشتی مقبرہ کے نام سے ایک مقبرہ ہے۔ مرزا صاحب فرماتے

ہیں جو اس میں دفن ہو گا وہ ہشتی ہو گا۔ (ملفوظات احمدیہ ص ۳۲۳ ج ۸) اور پھر الہام ہو کہ روئے زمین کے تمام مقابر اس زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

(مکاشفات مرزا ص ۵۹)

مرزا صاحب کی امت

مرزا صاحب نے جا بجا اپنے ماننے والوں کو اپنی امت بتایا ہے۔

مرزا صاحب کے مریدین بمنزلہ صحابہ کے ہیں

امت محمدیہ کی طرح مرزا صاحب کی امت میں طبقات ہیں مرزا صاحب کے دیکھنے والے صحابہ کہلاتے ہیں۔ (خطبہ الہامیہ ص ۱۷۱ روحانی خزائن ص ۲۵۸، ۲۵۹ ج ۱۶) تو ان کے دیکھنے والے تابعین اور تبع تابعین۔ (معاذ اللہ)

مرزا صاحب کے اہل و عیال بمنزلہ اہل بیت کے ہیں

اور مرزا صاحب کے خاندان کو اہل بیت اور خاندان نبوت اور مرزا صاحب کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ (سیرۃ الہدیٰ ص ۱۱۷ ج ۲) (معاذ اللہ)

مرزا صاحب کا خاندان خاندان نبوت ہے

اور مرزا صاحب کے خاندان کو خاندان نبوت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور قرآن اور حدیث میں اہل بیت اور ذوی القربی کے جو حقوق اور احکام آئے وہ سب مرزا صاحب کے خاندان اور اہل بیت کے لیے ثابت کیے جاتے ہیں۔

(تقریر مرزا محمود الفضل قادیان ج ۲۰ نمبر ۸۱ ص ۳-۸ جنوری ۱۹۳۳)

مرزا صاحب کی امت میں ابو بکر و عمر

حکیم نور الدین کو قادیانی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کی طرح مانا گیا ہے اور مرزا بشیر محمود خلیفہ ثانی کو اس امت کا عمر فاروق اعظم کی طرح کہا جاتا ہے کسی

نے خوب کہا ہے۔

گر بہ میرو سگ وزیر و موش را دیوان کنند
 این چنین ارکان دولت ملک را ویران کنند

مرزا صاحب پر مستقلاً صلوة و سلام کی فرضیت

اور مرزا صاحب کے مریدین اور کنبہ کی اس میں شرکت اور شمولیت

پس آیت ”یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیماً“ کی رو سے اور ان احادیث کی رو سے جن میں آل حضرت ﷺ پر درود بھیجنے کی تاکید پائی جاتی ہے حضرت مسیح موعود (مرزا صاحب) علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح آل حضرت ﷺ پر بھیجنا از بس ضروری ہے۔ (رسالہ درود شریف معنہ محمد اسماعیل قادریانی ص ۱۳۶) از روئے سنت اسلام و احادیث نبویہ ضروری ہے کہ تشریح سے آپ کی آل کو بھی درود میں شامل کیا جائے اسی طرح بلکہ اس سے بدرجہا بڑھ کر یہ بات ضروری ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی تشریح سے درود بھیجا جائے اور اس اجمالی درود پر اکتفا نہ کیا جائے جو آنحضرت ﷺ پر درود بھیجنے کے وقت آپ کو بھی بھیج جاتا ہے۔

(از رسالہ مذکورہ ص ۱۴۰)

چودھری ظفر اللہ کا سلام ٹریکٹ

دس نبی اور ایک بندے کا انتخاب

خدا کے راست باز نبی راچندر پر سلامتی ہو
 خدا کے راست باز نبی کرشن پر سلامتی ہو
 خدا کے راست باز نبی بدھ پر سلامتی ہو
 خدا کے راست باز نبی زرتشت پر سلامتی ہو
 خدا کے راست باز نبی کینفوس پر سلامتی ہو

خدا کے راست باز نبی ابراہیمؑ پر سلامتی ہو
 خدا کے راست باز نبی موسیٰؑ پر سلامتی ہو
 خدا کے راست باز نبی مسیحؑ پر سلامتی ہو
 خدا کے راست باز نبی محمد ﷺ پر سلامتی ہو
 خدا کے راست باز نبی احمدؑ پر سلامتی ہو
 خدا کے راست باز بندہ بابا نانک پر سلامتی ہو

(چودھری ظفر اللہ خاں صاحب قادیانی بیرسٹر کا ٹریکٹ مارچ ۱۹۳۳ء میں

بتقریب یوم تبلیغ شائع ہوا۔)

اس ٹریکٹ سے چودھری ظفر اللہ کے ایمان کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کی طرح راجندر اور کرشن بھی نبی اور رسول تھے اہل اسلام کے نزدیک تو سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء کو راجندر اور کرشن کے ساتھ ذکر کرنا سراسر گستاخی اور گمراہی ہے۔

البتہ مرزا غلام احمد کو کرشن اور رام چندر کے ساتھ ذکر کرنا نہایت مناسب ہے۔ سب کے سب آئندہ اگنر اور کافروں کے پیشوا تھے۔

خلاصہ کلام

یہ کہ اسلام اور مرزائیت کا اختلاف اصولی ہے فروعی نہیں

مرزائی مذہب نے اسلام کے اصول اور قطعیات ہی کو تبدیل کر دیا ہے اب کوئی چیز ان کے اور اہل اسلام کے درمیان مشترک باقی نہیں رہی یہ جماعت بہ نسبت یہود اور نصاریٰ اور ہنود کے اہل اسلام سے زیادہ عداوت رکھتی ہے جو مسلمان مرزائے قادیان کو نبی نہ مانے وہ ان کے نزدیک کافر ہے اور اولاد زنا ہے

اس کے ساتھ کوئی تعلق جائز نہیں مثلاً مسلمانوں کی عورتوں سے نکاح جائز نہیں اور اس کی نماز جنازہ نہیں۔

دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن کے متعلق تو مرزا یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی صحیح ہے کہ جو میں بیان کروں اگرچہ وہ تفسیر کل علماء امت کی تفسیر کے خلاف ہو اور حدیث نبوی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جو حدیث میری وحی کے مطابق ہو وہ قبول کی جائے گی اور جو میری وحی کے خلاف ہو گی وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جائے گی اس طرح اسلام کے ان دو بنیادی اصول کو ختم کیا، اور اپنی من مانی تاویلات اور تحریفات کو اسلام کے سر لگایا الفاظ تو شریعت کے رہے مگر معنی بالکل بدل دیے اور آیات اور احادیث میں وہ تحریف کی کہ یہود اور نصاریٰ بھی پیچھے رہ گئے اور تعلیم یافتہ طبقہ اکثر چونکہ دین اور اصول دین سے بے خبر اور عربی زبان سے ناواقف ہے اس لیے یہ طبقہ زیادہ تر اس گمراہی کا شکار ہوا اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین

ایک ضروری گزارش

قادیانی کتابوں کے دیکھنے سے یہ بات پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ قادیانی مذہب اس مثل کا مصداق ہے کہ

میرے تھیلے میں سب کچھ ہے

ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے، ختم نبوت کا اقرار بھی ہے اور انکار بھی ہے، دعوائے نبوت و رسالت بھی ہے، اور جو دعوائے نبوت کرے اس کی تکفیر بھی ہے، حضرت مسیح بن مریم کے رفع الی السماء اور نزول کا اقرار بھی ہے، اور انکار بھی وغیرہ وغیرہ، غرض یہ کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں جس قدر مختلف اور متعارض مضامین ملتے ہیں وہ دنیا کے کسی متنسبی اور طہ اور زندقہ کی کتابوں میں نہیں ملتے اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جن کا مرزا صاحب کبھی اقرار کرتے ہیں اور کبھی انکار اور یہ سب کچھ دیدہ و دانستہ ہے اور غرض یہ ہے کہ بات گول مول رہے

حقیقت متعین نہ ہو حسب موقعہ اور حسب ضرورت جس قسم کی عبارت چاہیں لوگوں کو دکھلا سکیں اور زنادقہ کا ہمیشہ یہی طریق رہا ہے کہ بات صاف نہیں کہتے، یہی طریقہ مرزا اور مرزائیوں کا ہے کہ جب مرزا صاحب کا اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں تو قدیم عبارتیں پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے عقیدے تو وہی ہیں جو سب مسلمانوں کے ہیں، اور جب موقعہ ملتا ہے تو مرزا صاحب کے فضائل اور کمالات اور وحی الہامات کے دعویٰ پیش کر دیتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب مستقل نبی اور رسول نہ تھے وہ تو نعلی اور بروزی نبی تھے نعلی اور بروزی اور مجازی نبی کی اصطلاح مرزا نے محض اپنی پردہ پوشی کے لیے گھڑی ہے۔ اگر کوئی شخص حکومت کی وقاداری کا اقرار کرے مگر ساتھ ہی ساتھ اپنا نام، صدر مملکت، رکھ لے اور جو خادم اندرون خانہ خدمت انجام دیتا ہو اس کا نام، وزیر داخلہ، رکھ لے اور جو خادم بازار سے سودا لاتا ہو اس کا نام، وزیر خارجہ، رکھ لے اور باورچی کا نام، وزیر خوراک، رکھ لے وغیرہ ذلک اور تاویل یہ کرے کہ معنی لغوی کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو صدر مملکت اور اپنے خادم کو وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ کہتا ہوں اور اصطلاحی اور عرفی معنی میری مراد نہیں، یا یوں کہے کہ میں تو صدر مملکت کا نعلی اور بروزی ہوں اور اس کے کمالات کا آئینہ ہوں اور میرے اس نام رکھنے سے حکومت کی مر نہیں ٹوٹی تو ظاہر ہے کہ یہ تاویل حکومت کی نظر میں اس کو مجرم اور چالاک اور مکار ہونے سے نہیں بچا سکتی، اسی طرح مرزا صاحب کی یہ تاویل کہ میں نعلی اور بروزی نبی ہوں کفر اور ارتداد سے نہیں بچا سکتی، مرزا صاحب بلاشبہ تشریحی نبوت اور مستقل رسالت کے مدعی تھے اور اپنی وحی اور الہام کو قطعی اور یقینی اور کلام خداوندی سمجھتے تھے اور اپنے زعم میں اپنے خوارق کا نام معجزات رکھتے تھے اور اپنے منکر اور حرد اور ساکت کو کافر اور منافق ٹھہراتے تھے اور اپنی جماعت سے خارج ہونے والے کو مرتد کا خطاب دیتے تھے جو حقیقی نبوت و رسالت کے لوازم ہیں مرزا صاحب کا اپنے لیے نبوت کے لوازم کو ثابت کرنا یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ مرزا صاحب مستقل نبوت و

رسالت کے مدعی تھے اور بروزی کی تاویل محض پر وہ پوشی کے لیے تھی، مخالفین کے خاموش کرنے کے لیے اپنے آپ کو نعلی اور بروزی بنی ظاہر کرتے تھے، مرزا صاحب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ فضائل و کمالات اور معجزات میں تمام انبیاء مرسلین سے بڑھ کر ہوں حقائق پر پر وہ ڈالنے کے لیے مرزا صاحب نے نعلی اور بروزی کی اصطلاح گھڑی ہے جس کا کتاب و سنت میں کہیں نام و نشان نہیں۔


خاتمہ کلام

اب میں اپنی اس مختصر تحریر کو ختم کرتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے عموماً اور جدید تعلیم یافتہ حضرات سے خصوصاً اس کا امیدوار ہوں کہ اس تحریر کو غور سے پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ پڑھنے میں مسئلہ کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ اکثر دین سے بے خبر بھی ہے اور بے فکر بھی ہے۔ اس لیے وہ غلط فہمی میں زیادہ مبتلا ہے۔ اور قادیانوں کو مسلمانوں کا ایک فرقہ سمجھتا ہے۔

اے میرے عزیز، جس طرح کسی مسلمان کو بے وجہ کافر سمجھنا کفر ہے اسی طرح کسی کافر کو مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے دونوں جانبوں میں احتیاط ضروری ہے۔ اور جس طرح میلہ کذاب کو مسلمان سمجھنا کفر ہے اسی طرح میلہ پنجاب مرزا غلام احمد کو مسلمان سمجھنا کفر ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ میلہ قادیان۔ یمامہ کے میلہ سے وجل اور فریب میں کہیں آگے نکلا ہوا ہے۔ ان لرید الا اصلاح ما استطعت و ماتوفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیننا و مولانا محمد خاتم الانبیاء و المرسلین و علی الہ و اصحابہ و زواجہ و ذریاتہ اجمعین و علینا معهم بالرحم الرحمین۔

بندہ گنہگار۔ محمد ادریس کان اللہ لہ

درس جامعہ اشرفیہ لاہور۔ ۱۳ شوال کرم۔ ۱۳۷۱ھ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَانَیْبِیْ بَعْدَهُ
(امابعد)

دنیا میں بہت سے گمراہ اور جھوٹے مدعی گزرے ہیں مگر اس میلہ ثانی مرزا غلام احمد قادیانی جیسا مدعی کاذب اور مفتری اب تک کوئی نہیں گزرا۔ جو مدعی بھی کھڑا ہوا وہ ایک ہی دعویٰ کو لے کر کھڑا ہوا۔ مگر مرزائے قادیان کے دعوؤں کا کوئی حد اور شمار نہیں۔ اس شخص نے اس کثرت کے ساتھ قسم قسم کے مختلف اور متناقض دعویٰ کئے جن کا احاطہ اس ناچیز کو محال نظر آتا ہے اور دعوؤں کی کثرت اور تنوع ہی کی وجہ سے مرزائی امت کے فضاء کو مرزائے قادیان کے اصل دعویٰ کی تعین میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مرزا صاحب نبوت کے مدعی تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ مسیح موعود ہونے کے مدعی تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجددِ زمان یا امامِ دوراں یا مہدیِ زمان ہونے کے مدعی تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ لغوی یا مجازی یا بروزی نبی ہونے کے مدعی تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ مرزا صاحب شریعت اور مستقل نبی تھے اور کوئی کہتا ہے کہ وہ غیر نثریعی نبی تھے۔

اس قسم کے دعویٰ تو مرزا صاحب نے مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کئے۔ اور یہود اور نصاریٰ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے موسیٰ اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور شیعوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ امام حسینؑ سے مشابہت رکھتا ہوں اور ہندوؤں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے کرشن

ہونے کا اور آریوں کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ تاکہ ہر طرف سے شکار مل سکے۔ اور باوجود ان مختلف اور متناقض دعوؤں کے بظاہر مدعی اسلام ہی کے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہود اور نصاریٰ اور ہندوؤں اور آریوں میں سے تو کسی نے آپ کو اپنا گرو اور پیشوا اور اوتار نہ مانا۔ البتہ ناواقف عوام اور بعض تعلیم یافتہ حضرات ان کے فریب میں آگئے، اور انہیں کلمہ گو خیال کر کے یہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی مسلمانوں ہی میں کا ایک فرقہ ہے، چونکہ تعلیم یافتہ طبقہ اکثر دین اسلام اور اس کے اصول سے بے خبر ہوتا ہے اس لیے وہ مدعی کاذب کے مکر و فریب کو سمجھ نہ سکا۔ اور یہ نہ سمجھ سکا کہ نام اسلام کا ہے اور معنی کفر کے ہیں۔ ظاہر میں اسلام کا نام لیا۔ مگر درپردہ اصول اسلام میں وہ عجیب و غریب تحریف کی، کہ جس سے اصل اسلام کی حقیقت ہی بدل گئی اور ایسی تحریف کی، کہ یہود و نصاریٰ سے تحریف میں سبقت لے گیا۔ اور شریعت کے الفاظ کو بظاہر برقرار رکھنا اور اس کی حقیقت کو بدل دینا یہی الحاد اور زندقہ ہے۔

مرزا صاحب نے وعوے تو بے شمار کئے مگر دلیل کسی کی پیش نہیں کی صرف الہام پر اکتفا کیا۔ اور ان بے شمار دعوؤں سے فرض یہ تھی کہ کوئی فضیلت چھوٹنے نہ پائے اور کوئی فرقہ ہندوستان میں ایسا نہ رہے جس کے وہ مقتداء اور معبود نہ بن جائیں۔ مگر کسی فرقہ پر ان کا افسوس نہ چلا۔ چونکہ مسلمانوں میں ایک جدید تعلیم یافتہ طبقہ دین سے بے خبر ہے۔ اس لیے اس فرقہ پر ہر ملحد اور زندیق کا افسوس اثر کر جاتا ہے۔

مرزا کی مثال

مرزا ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کا ظل اور بزور ہوں اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ میں کرشن جی کا ظل اور بروز ہوں۔ اس کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ آج کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں قائد اعظم کا بھی ظل اور بروز ہوں اور پنڈت نہرو کا بھی ظل اور بروز ہوں۔ ذوالقرنینؑ بھی ہوں اور نمرود بھی۔

ابوبکرؓ بھی ہوں اور ابو جہل بھی۔

غرض یہ کہ مرزا صاحب کے دعوؤں کی کثرت اور تنوع کا یہ عالم ہے کہ تفصیلی طور پر ان کا استیعاب اور استقصاء اگر محال نہیں تو مجھ جیسے کمزور اور ناتواں کے لیے مشکل ضرور ہے۔ تاہم حقی خیر خواہی اہل اسلام اختصار کے ساتھ اس کے دعوؤں کو ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔ تاکہ ناظرین ان دعوؤں کی کثرت اور تنوع کو دیکھ کر اندازہ لگالیں کہ میلہ قادیان تیرہ صدی کے مدعیان نبوت سے کفر اور دجل میں گوئے سبت لے گیا ہے۔ تاکہ مسلمان اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور یہ میلہ ثانی کفر و دجل میں لاثانی ہے۔

فضائل و کمالات کے دعوے

۱۔ ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ

سب سے پہلے مرزا صاحب نے براہین احمدیہ میں بمقابلہ آریہ وغیرہ الہام اور کشف کا دعویٰ کیا کہ میں ملہم من اللہ ہوں۔ چنانچہ اس کا دعویٰ ہے کہ خدا نے مجھے اپنے الہام و کلام مشرف کیا۔ (تزیین القلوب ص ۱۵۵ روحانی خزائن ص ۲۸۳ ج ۱۵)

۲۔ وحی کا دعویٰ

بعد ازاں وحی کا دعویٰ کیا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور وحی منقطع نہیں ہوئی اور وحی اور الہام ایک چیز ہے۔ جو کہے کہ دین میں وحی ختم ہو گئی میں اس وین کو لفظی دین قرار دیتا ہوں۔ (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۱۳۹ روحانی خزائن ص ۳۰۶ ج ۲۱)۔

۳۔ مجدد ہونے کا دعویٰ

بعد ازاں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں چودھویں صدی کا مجدد بن کر آیا ہوں۔ (دیکھو ازاد الادہام ص ۱۵۳ روحانی خزائن ص ۱۷۹ ج ۳)۔

۴۔ محدث من اللہ ہونے کا دعویٰ

محدث من اللہ کے معنی یہ ہیں کہ جس شخص سے اللہ دل ہی میں باتیں کرتا ہو۔ مرزا صاحب کہتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ عاجز خدا تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے۔ اور محدث بھی ایک معنی کو نبی ہوتا ہے گو اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے۔

(توضیح الہام ص ۹ روحانی خزائن ص ۶۰ ج ۳ و ازالہ ادہام ص ۳۳۹ ج ۱ روحانی خزائن ص ۲۷۸ ج ۳)

ناظرین غور فرمائیں کہ یہ دعویٰ آئندہ چل کر صراحتاً "دعوائے نبوت کی تمہید ہے۔"

۵۔ امام زماں ہونے کا دعویٰ

میں لوگوں کے لیے تجھے امام بناؤں گا۔ تو ان کا رہبر ہو گا۔

(حقیقت الہی ص ۷۹ روحانی خزائن ص ۸۲ ج ۲۲۔ ضرورت الامام ص ۲۳ روحانی خزائن ص ۳۹۵ ج ۳)

۶۔ خلیفۃ اللہ اور خدا کے جانشین ہونے کا دعویٰ

میں نے ارادہ کیا ہے کہ اپنا جانشین بناؤں تو میں نے آدم کو یعنی تجھے پیدا کیا۔ (کتاب البریہ ص ۷۶ روحانی خزائن ص ۱۰۲ ج ۱۳)

مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے جس آدم کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس سے مرزائے قادیان مراد ہے۔ سبحان اللہ، جس آدم علیہ السلام کو خدا نے اپنا خلیفہ بنایا۔ تمام روئے زمین کی بادشاہت ان کو عطا کی اور مرزا صاحب کے پاس سوائے چند زمینوں کے کیا رکھا تھا۔ جن کا محصول انگریزی سرکار کو ادا کرتے تھے اور مقدمہ کے لیے پکھری میں حاضری دیتے تھے اور بٹالہ کے تحصیل دار کی خوشامد کرتے تھے۔ کیا اسی زمینداری کا نام خلافت الہی اور خدا کی جانشینی ہے؟

۷۔ مہدی ہونے کا دعویٰ

یہ دعویٰ مرزا صاحب کی اکثر تصانیف میں موجود ہے۔ لہذا حوالہ کی حاجت نہیں۔ امام مہدی کے ظہور کے بارہ میں بے شمار حدیثیں آئی ہیں۔ جو درجہ تو اتر کو پہنچی ہیں۔ ان میں تصریح ہے کہ امام مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ میں ان کا ظہور ہو گا۔ ان کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبد اللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہو گا۔ اور ظہور کے بعد تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور کافروں سے جہاد و قتال کریں گے اور یہودیوں کو تیغ کریں گے، اور مرزا صاحب کا نام غلام احمد اور ان کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے اور قادیان جیسے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ مکہ اور مدینہ ان کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اور باوجود استطاعت کے حج بھی نہیں کیا۔ اور بجائے جہاد کے انگریزی سرکار کی وفاداری اور ان کے لیے دعا گوئی کو اپنی امت پر واجب کیا۔

مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سب حدیثیں غلط ہیں۔ پھر جب مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ کہ وہ مہدی موعود میں ہوں۔ خیر مرزا صاحب نے اپنا نام تو مہدی رکھ لیا۔ مگر یہ بتلائیں کہ بادشاہت کا کیا انتظام کیا۔ آپ تو اپنے چھوٹے سے گاؤں قادیاں کے بھی بادشاہ نہ تھے روئے زمین کے تو کیا بادشاہ ہوتے۔ اور یہ بتلائیں کہ مرزا صاحب حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہیں؟ پھر کہاں سے مہدی بن گئے۔ غرض یہ کہ مرزا صاحب کا مہدی ہونا قطعاً محال ہے۔ اس لیے کہ مہدی موعود کی جو علامتیں احادیث میں مذکور ہیں وہ مرزائے قادیاں میں ایک ایک کر کے مفقود ہیں۔ محض دعویٰ یا نام رکھنے سے مہدی نہیں بن جاتا، جب تک احادیث کے مطابق مہدی کے صفات اور علامات نہ ہوں۔ مرزا صاحب سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے مہدویت کے دعویٰ کئے۔ نام تو مہدی رکھ لیا۔ مگر امام مہدی کی جو علامتیں احادیث میں مذکور ہیں۔ وہ اپنے میں نہ دکھلا سکے۔ یہی حال مرزائے قادیاں کا ہے کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں مگر علامتیں نہ دکھلا سکا۔ اور بے

خبروں کو گمراہ کر کے دنیا سے روانہ ہوا۔

۸۔ حارث ہونے کا دعویٰ

حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص حارث نام۔ امام مہدی کی تائید اور مدد کے لیے لشکر لے کر ماوراء النہر سے روانہ ہو گا۔ جس کے مقدمتہ الجیش پر ایک سردار ہو گا۔ جس کا نام منصور ہو گا۔ ہر مسلمان پر اس کی نصرت ضروری ہے۔ (رواہ ابوداؤد وغیرہ)

(مرزا صاحب ازالہ ادہام ص ۷۹ تطبیح خورد روحانی خزائن ص ۱۳۰ ج ۳) میں فرماتے ہیں کہ ”وہ حارث میں ہوں“۔ حارث کے معنی زمیندار کے ہیں اور میں بھی قادیاں کا زمیندار ہوں اور مسلمانوں پر چندہ سے میری نصرت واجب ہے گویا کہ اس حدیث میں حارث سے مرزا صاحب اور نصرت سے چندہ مراد ہے۔ احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ حارث امام مہدی کا مددگار ہو گا نہ کہ بیینہ مہدی ہو گا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخص مہدی بھی ہو۔ اور حارث بھی۔ نیز حدیث میں حارث کا مقام خروج ماوراء النہر مذکور ہے نہ کہ قادیاں۔ اور ماوراء النہر سے صوبہ پنجاب مراد لینا، یہ مرزا صاحب ہی کا کام ہے۔ نیز ماوراء النہر سے قادیاں تک راستہ میں افغانستان پڑتا ہے۔ جہاں مدعیان نبوت اور ان کے پیرو ہمیشہ قتل ہوتے رہے۔ نیز اس حدیث میں حارث کی فوج عظیم اور لشکر جبار کا بھی ذکر ہے۔ مرزا صاحب کے پاس فوج کہاں سے آئی۔ وہ بیچارے تو ایک معمولی دہقانی آدمی تھے۔ ان کے پاس اتنی دولت کہاں تھی کہ جو لشکروں پر خرچ کرتے۔ وہ اپنے خرچ ہی کے لیے لوگوں سے چندہ مانگتے تھے، چندہ مانگنا فقیروں کا کام ہے نہ کہ امیروں اور بادشاہوں کا۔ غرض یہ کہ احادیث میں حارث مذکور کی جو علامتیں آئی ہیں۔ ان میں کاکوئی شہ بھی مرزا صاحب میں نہیں پایا جاتا۔

مرزا صاحب دل بہلانے کے لیے فوج اور لشکر کی یہ تاویل کر لیتے ہیں کہ فوج سے ظاہری فوج مراد نہیں۔ بلکہ روحانی فوج مراد ہے۔ ایسی تاویلوں سے جس

کا دل چاہے مہدی اور حارث بن سکتا ہے۔

۹۔ مسیح بن مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

مرزا صاحب کا یہ دعویٰ تقریباً "ان کی تمام کتابوں میں مذکور ہے۔

(تذکرہ ص ۳۱ ط ۳ ازالہ ادہام ص ۶۷۳ روحانی خزائن ص ۳۶۳ ج ۳)

بنمای بہ صاحب نظرے گوہر خود را
بھیٹی نواں گشت تصدیق خرے چند

قرآن اور حدیث سے یہ امر صراحتاً ثابت ہے کہ جب یہود نے حضرت
بھیٹی بن مریم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سالم زندہ آسمان پر
اٹھالیا۔ کما قال تعالیٰ وما قتلوه یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ۔

دوسرے قیامت کے قریب حضرت مسیح کے نزول اور آمد کا بیان قرآن
میں اجملاً "اور احادیث میں تصریحاً موجود ہے کہ بھیٹی بن مریم آسمان سے نازل
ہوں گے اور دمشق کے منارہ پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔

مرزا صاحب کو جب دعوائے مسیحیت کی فکر ہوئی تو اس کا طریقہ یہ اختیار
کیا کہ بھیٹی علیہ السلام کے رفع الی السماء کا انکار کیا اور ان کی وفات کے مدعی
ہوئے اور دفتر کے دفتر اس بارہ میں سیاہ کر ڈالے۔ اس کے بعد اپنے مسیح موعود
بننے کے لیے دو طریقے اختیار کیے، ایک تو یہ کہ جن احادیث میں مسیح کے آنے کا
بیان آیا ہے۔ اس سے مسیح کے ایک مثل اور شبیہ کا آنا مراد ہے اور دعویٰ کر دیا
کہ وہ مثل میں ہوں۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ جس نبی کا جو مثل ہوتا ہے۔ خدا کے
نزدیک اس کا وہی نام ہوتا ہے۔ یعنی خدا کے نزدیک مرزا صاحب کا نام بھیٹی بن
مریم ہے۔ پھر ایک مدت دراز کے بعد خاص الہام کے ذریعہ اللہ نے یہ ظاہر فرمایا۔
کہ یہ (مرزا) وہی بھیٹی ہے جس کے آنے کا وعدہ تھا۔

(غلام دیکھو ازالہ ادہام ص ۱۹۰ روحانی خزائن ص ۱۹۲ ج ۳)

اور یہ الہام ہوا کہ بھیٹی اب کہاں وہ تو مر گئے۔ مسیح موعود تو ہی ہے اور

مرزا صاحب نے ۱۸۹۱ء میں اشتہار دیا کہ میرے مسیح موعود ہونے کا سارا قرآن مجید صدق ہے اور تمام احادیث صحیحہ اس کی صحت کی شاہد ہیں۔

اب اس طرح سے مرزا نے اپنی مسیحیت کا اعلان شروع کیا اور کہا کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ قرآن و حدیث میں کیا گیا۔ اس سے میرا ہی آنا مراد ہے یعنی نزول سے پیدائش کے معنی مراد ہیں اور دمشق دالی حدیث اول تو صحیح نہیں اور اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے اصلی و دمشق مراد نہیں۔ بلکہ قادیان مراد ہے اور حدیث میں جو زرد لباس کا ذکر آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی حالت صحت اچھی نہ ہوگی اور فرشتوں پر ہاتھ رکھنے سے مقصود یہ ہے کہ دو شخص ان کو مدد دیں گے۔ (دیکھو ازاد الادہام ص ۲۱۹ روحانی خزائن ص ۲۰۹ ج ۳)

غرض یہ کہ جو امور مرزا صاحب کی قدرت میں نہ تھے۔ ان میں تاویل کر ڈالی۔ مگر نزول کے بعد منارہ چندہ کر کے بنانا شروع کیا مگر تکمیل سے قبل فرشتہ اجل نے آن دبوچا، حالانکہ حدیث سے یہ واضح ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کے منارہ شرقی پر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ یعنی وہ منارہ پہلے سے موجود ہو گا۔ لہذا احادیث میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے۔ وہ وعدہ مرزا صاحب کے قادیان میں پیدا ہونے سے پورا ہو گیا۔ لیکن اب اشکال یہ ہے کہ اگر نزول سے پیدائش مراد ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے ہوئے تھے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس کی تصریح ہے تو پھر مرزا صاحب کو اگر عیسیٰ بننا منظور تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوتے اور اسی جسد غضری کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جاتے اور پھر آسمان سے نازل ہوتے اور جب مرزا صاحب سے کہا گیا کہ آپ تو مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ میں وہ آیات باہرہ اور معجزات ظاہرہ موجود نہیں۔ جو قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کی نسبت مذکور ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور مٹی کا پرندہ بنا کر اڑاتے تھے اور وہ ماور زو اندھوں اور کوڑھیوں کو چنگا کرتے تھے۔ لہذا آپ بھی تو کوئی معجزہ اور کرشمہ دکھلاتے تو مرزائے قادیان نے جواب میں کہا۔ کہ عیسیٰ کا یہ تمام کام محض مسمریزم تھا۔ اور

میں ایسی باتوں کو کمرہ جانتا ہوں۔ ورنہ میں بھی کر دکھاتا۔

(ازالہ اوہام ص ۱۲۹ حاشیہ روحانی خزائن ص ۲۵۸-۲۵۷ ج ۳)

حق تعالیٰ شانہ نے حضرت عیسیٰ کے جن معجزات کو بطور مدح اور منقبت ذکر کیا ہے۔ مرزائے قادیان ان کو کمرہ اور قابل نفرت سمجھتا ہے اور سب کو سمیریم بتلاتا ہے اور مقصود یہ ہے کہ اظہار معجزات سے سبکدوشی ہو جائے اور کوئی شخص حضرت عیسیٰ جیسے معجزات کا مطالبہ نہ کر سکے۔

۱۰۔ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع ابلاء ص ۲۰ روحانی خزائن ص ۲۳۰ ج ۱۸)

خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا۔ جو اس پہلے مسیح سے تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اگر مسیح بن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں ہرگز نہ کر سکتا اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہرگز نہ دکھلا سکتا۔

(حقیقۃ الوحی ص ۱۳۸ روحانی خزائن ص ۱۵۲ ج ۲۲)

مرزانے اس مسیح موعود کی تفسیر دافع ابلاء میں غلام احمد قادیانی کی ہے۔ ”اس مسیح کے مقابل جس کا نام خدا رکھا گیا۔ خدا نے اس امت میں مسیح موعود بھیجا۔ جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا۔“ (دافع ابلاء ص ۱۳ روحانی خزائن ج ۲۳۳ ص ۱۸)

مرزا صاحب کا یہ شعر:

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو
اس سے بہتر غلام احمد ہے

(دافع ابلاء ص ۲۰ روحانی خزائن ج ۲۳۰ ص ۱۸)

تمام قادیانیوں کو حفظ یاد ہے۔ معاذ اللہ جس مسیح بن مریم کا خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار ذکر کیا ہے۔ وہ مرزا صاحب کو موجودگی میں قابل ذکر نہیں اور فارسی شعر یہ ہے۔

ایک منم کہ حسب بشارات آدم
عیسیٰ کجا است تا بندپا منبرم

(ازالہ اوہام ص ۱۵۸ روحانی خزائن ص ۱۸۰ ج ۳)۔

اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صریح اہانت ہے جو صریح کفر ہے۔

تاویلات مرزا کا ایک نمونہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور دجال کے خروج میں اس قدر بے شمار صحیح اور صریح حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ جن کا انطباق مرزا پر محال ہے۔ اس لیے مرزا صاحب نے جب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اب فکر ہوئی کہ ان احادیث کو کس طرح اپنے اوپر منطبق کروں۔ اس لیے تاویل کی راہ اختیار کی۔ بلکہ ایسی تحریف کی کہ اولین و آخرین میں سے اب تک کسی نے نہیں کی تھی۔

۱۔ چنانچہ یہ کہہ دیا کہ نزول مسیح سے آسمان سے اترنا مراد نہیں۔ بلکہ مرزا کا اپنے گاؤں میں پیدا ہونا مراد ہے۔

۲۔ اور حدیث میں جو مسیح علیہ السلام کا دمشق کے سفید مشرقی مینار پر نازل ہونا آیا ہے۔ اس حدیث میں دمشق سے قادیان مراد ہے۔ اور وہ منارہ مرزا کی سکونتی جگہ قادیان کے مشرقی کنارہ پر واقع ہے۔

۳۔ اور دجال سے بااقبال قومیں یا شیطان یا عیسائی اقوام مراد ہیں۔

۴۔ اور دجال کے کانا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پادریوں میں دینی عقل نہیں۔

۵۔ اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس

- سے مراد یہ ہے کہ عمد رسالت میں پادریوں کو موانع پیش تھے۔
- ۶- اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عیسائی اقوام نے اسباب تعتم میا کر لیے ہیں۔
- ۷- اور حدیث میں جو دجال کے گدھے کا ذکر آیا ہے۔ اس سے ریل گاڑی مراد ہے۔
- ۸- اور حدیث میں جو مسیح بن مریم کا خنزیر کو قتل کرنا آیا ہے اس سے لیکھرام کا قتل مراد ہے۔
- ۹- اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ مسیح صلیب کو توڑیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعثت مرزا سے صلیبی مذہب رو بزوال ہوگا۔
- ۱۰- اور حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پانے کے بعد آنحضرت ﷺ کے مقبرہ میں مدفون ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مرزا صاحب کو رسول اللہ ﷺ کا قرب روحانی نصیب ہوگا۔
- ناظرین کرام غور فرمائیں کہ ایسی تادیلوں سے تو ہر شخص مسیح موعود بن سکتا ہے۔ اور جس کا جی چاہے یہ کہہ سکتا ہے کہ دمشق سے میرا گاؤں مراد ہے اور روضہ اقدس میں دفن ہونے سے آنحضرت ﷺ کا قرب روحانی مراد ہے۔ یہ تادیلات نہیں بلکہ تحریفات اور ہذیانات ہیں۔ دیوانہ گفت ابلہ باور کرو، کے مصداق ہیں۔ پھر یہ کہ جب مرزا صاحب کے نزدیک دجال سے عیسائی اقوام مراد ہیں تو مرزا صاحب انگریزوں کے لیے دعا کیوں مانگتے تھے۔ کیا کسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مسیح موعود دجال کے لیے دعا کیا کرے گا اور اپنی امت کو دجال کے بقا کی دعا کی تلقین کیا کرے گا۔
- پھر جب مرزا صاحب کے نزدیک دجال کے گدھے سے ریل مراد ہے تو مرزا صاحب بٹالہ سے چل کر لاہور کا سفر ہمیشہ اسی دجال کے گدھے (ریل) پر کیوں کرتے تھے۔ اور باضابطہ دجال کے کارکنوں سے اس گدھے پر سوار ہونے کا ٹکٹ خریدتے تھے۔

کیا کسی حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مسیح موعود دجال کے قتل کے لیے نازل ہو گا۔ وہ دجال کے گدھے پر کرایہ دے کر سفر کیا کرے گا۔ اور بجائے قتل کے اس کی سلطنت کے لیے دعا کیا کرے گا؟

۱۱۔ مریم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

پہلے خدانے میرا نام مریم رکھا اور بعد اس کے ظاہر کیا۔ کہ اس مریم میں خدا کی طرف سے روح پھونکی گئی اور پھر فرمایا کہ روح پھونکنے کے بعد مریم مرتبہ عیسوی مرتبہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور اس طرح مریم سے عیسیٰ پیدا ہو کر ابن مریم کہلایا۔ (کئی نوح ص ۳۶ و ۳۷ روحانی خزائن ص ۵۰ ج ۱۹)

سبحان اللہ مرزا صاحب کے کیا حقائق و معارف ہیں۔ کبھی عیسیٰ بنتے ہیں اور کبھی مریم کبھی مرد اور کبھی عورت اور پھر خود خود ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب پہلے بیٹا (عیسیٰ) بنے اور پھر ماں (مریم) بنے اور پھر ماں سے بیٹا بن گئے۔ گویا کہ بیٹے کا وجود ماں سے مقدم بھی ہے اور موخر بھی ہے اور اس کا عین بھی ہے اور اس کا غیر بھی ہے۔

۱۲۔ نعلی اور بروزی یا غیر تشریحی نبی ہونے کا دعویٰ

اور چونکہ وہ بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا۔ وہ میں ہوں۔ اس لیے بروز ریگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی۔

(اشعار، ایک غلطی کا ازالہ ص ۱۰۔ روحانی خزائن ص ۲۱۳ ج ۱۸)

اس سے مرزا کا مقصود یہ ہے کہ میں عین محمد ہوں۔ نعلی اور بروز کا لفظ محض دھوکہ اور فریب کے لیے ہے۔ اپنے کفر اور دجل کو چھپانے کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ورنہ درحقیقت مرزا نبوت تشریحیہ اور مستقلہ کا مدعی ہے اور اپنی وحی کو قرآن کی طرح واجب الایمان قرار دیتا ہے اور اپنے منکر کو کافر اور دوزخی بتلاتا ہے۔ حالانکہ مرزا کا اقرار ہے کہ صرف صاحب شریعت نبی کے انکار سے کافر ہوتا ہے۔ ملہم من اللہ کے انکار سے کافر نہیں ہوتا۔

بروزی اور غلطی نبوت کی حقیقت

مرزائے قادیان ایک غلطی کا ازالہ میں لکھتا ہے۔ ”مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو درحقیقت خاتم النبیین تھے مجھے رسول اور نبی کے لفظ سے پکارا جانا۔ کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ اور نہ اس سے مر تسمیت ٹوٹی ہے۔ کیونکہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ میں بموجب آیت و آخرین منهم لما یلحقوا بہم۔ بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت ﷺ ہی کا وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیونکہ ظل اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔“ (ایک غلطی کا ازالہ ص ۸ روحانی خزائن ج ۲۱۲ ص ۱۸)

اس عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کو نبوت ملنے سے آنحضرت ﷺ کے خاتمیت نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ میں آپ کا ظل اور سایہ ہوں۔ اور سایہ اصل کا غیر نہیں ہوتا۔ یعنی میں آپ کا عین ہوں اور میرا نام بھی محمد اور احمد ہے۔ اس لیے میں بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں (تزیان القلوب حاشیہ ص ۲۷۷ روحانی خزائن ص ۱۵۷ ج ۱۵ میں لکھتا ہے)

”غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دو رویہ ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو اور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے تقریباً ”اڑھائی ہزار برس اپنی وفات کے بعد پھر عبد اللہ بن عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد ﷺ کے نام سے پکارا گیا۔“

شیخ محمد عمر قادیانی اپنی کتاب قول فیصل ص ۶ میں بحوالہ اخبار الحکم ۲۳ اپریل ۱۹۰۲ء پر مرزا کا قول اس طرح نقل کیا ہے:

”کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں۔ وہ سب حضرت رسول کریم ﷺ میں ان سے بڑھ کر موجود تھے اور اب وہ سارے کمالات

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقلی طور پر ہم کو عطا کئے گئے۔ پہلے تمام انبیاء نقل تھے۔ نبی کریم ﷺ کے خاص خاص صفات میں اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے نقل ہیں۔“

ان عبارات میں مرزائے قادیان نے اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا نقل اور بروز بتلایا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ سایہ اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ یہ عقلاً اور نقلاً باطل اور محال ہے۔ اگر بروز سے مرزا صاحب کا یہ مطلب ہے کہ روح محمدی نے تیرہ سو سال کے بعد مرزا کے جسم میں جنم لیا ہے تو یہ عقیدہ اسلام میں کفر ہے۔ یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے جو تناخ کے قائل ہیں۔ لہذا اگر مرزا صاحب کی مراد یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کی روح مبارک کا تیرہ سو سال کے بعد مدینہ منورہ سے چل کر قادیان میں مرزا غلام احمد کے جسم میں بروز ہوا ہے تو یہ بعینہ تناخ ہے۔ جس کے ہندو اور آریہ قائل ہیں کہ مرنے کے بعد ارواح فنا نہیں ہوتیں۔ بلکہ ہوا میں پھرتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی مردہ جسم پاتی ہیں تو اس میں گھس جاتی ہیں اور پھر اس میں یہ پابندی نہیں کہ انسان کا روح، انسان ہی کے جسم میں داخل ہو۔ بلکہ گدھے، کتے وغیرہ کے جسم میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ اگر بروز سے یہ مراد ہے تو یہ حقیقت تناخ کی ہے اور کیا مرزائے قادیان کے نزدیک حضرت محمد ﷺ کی بعثت حضرت ابراہیم کا بروز تھا۔ اور حقیقت ابراہیمی اور حقیقت محمدی ایک تھی اور دونوں ایک دوسرے کے عین تھے اور یہ غلط ہے۔ بلکہ یہ لازم آئے گا۔ کہ سرور عالم محمد ﷺ معاذ اللہ بذاتہ خود کوئی چیز نہ تھے۔ بلکہ ان کا تشریف لانا بعینہ ابراہیم کا تشریف لانا ہے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام اصل ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ ان کا نقل اور بروز ہوئے۔ آنحضرت ﷺ کا وجود بالاستقلال نہ رہا اور نہ آپ کی نبوت مستقل رہی اور یہ صریح کفر ہے۔

نیز لازم آئے گا۔ کہ آنحضرت ﷺ کی نبوت نقلی ہو مستقل نہ ہو۔
نیز جب آنحضرت ﷺ حضرت ابراہیم کے بروز ہوئے۔ تو لازم

آئے گا۔ کہ اصل خاتم التسنین تو حضرت ابراہیم ہیں اور آپ ان کے ظل اور بروز ہیں۔ اور اگر یہ کہو کہ باوجود ظل اور بروز ہونے کے اصل خاتم التسنین محمد ﷺ ہیں تو لازم آئے گا۔ کہ پھر اسی طرح سے مرزا صاحب جو خاتم التسنین کے ظل اور بروز ہیں۔ اصل خاتم التسنین تو مرزا صاحب ہوں گے نہ کہ آنحضرت ﷺ اور ظاہر ہے کہ یہ امر بھی صریح کفر ہے مرزا صاحب بھی آنحضرت ﷺ کے خاتمیت کے منکر کو کافر بتلاتے ہیں اور یہ کہنا کہ سایہ ذی سایہ کا عین ہوتا ہے بالکل غلط اور مہمل ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی شخص کا سایہ ذی سایہ نہیں ہو سکتا۔ پس اسی طرح نبی کا سایہ بیینہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بفرض محال تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ سایہ اور ذی سایہ ایک ہی ہوتا ہے تو رسول اللہ ﷺ ظل اللہ ہیں۔ یعنی اللہ کا سایہ ہیں تو لازم آئے گا کہ وہ عین خدا ہوں اور مرزا صاحب اپنے خیال میں عین محمد ہیں اور محمد ﷺ سایہ خدا ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاذ اللہ مرزا صاحب عین خدا ہیں اور اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اور مرزا صاحب جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں بیینہ محمد ﷺ ہوں۔ تو کیا مرزا صاحب کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا؟ کیا کوئی ادنیٰ مسلمان اس کا تصور کر سکتا ہے کہ قادیان کا ایک دہقان محماری کے امتحان میں نفل ہونے والا اور انگریزی پچھری کا چکر لگانے والا۔ بیینہ محمد ﷺ ہو سکتا ہے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ اور اگر ظل ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ذی ظل کی کوئی صفت اس میں آجائے۔ تو اس سے اتحاد اور عینیت ثابت نہیں ہوتی۔ جس طرح خدا کا ظل ہونے سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی۔ اسی طرح نبی کا ظل ہونے سے نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ غالباً مرزا صاحب کی مراد یہ ہے کہ جس طرح آئینہ میں کسی شخص کا عکس پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح مرزا صاحب میں بھی کمالات محمدیہ اور انوار رسالت نبویہ کا عکس پڑا ہے۔ مگر اس سے مرزا صاحب کی نبوت ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آئینہ میں عکس پڑنے سے کوئی حقیقی صفت ثابت نہیں ہو جاتی۔ عکس میں ذی عکس کا کوئی حقیقی صفت نہیں آ جاتی۔ بلکہ ایک قسم کی مشابہت اور ہم رنگی آ جاتی

ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیلی کے مشابہ اور ان کے ہم رنگ اور ان کے کمالات کا نمونہ ہیں۔ اور یہ مطلب نہیں کہ اس امت کے علماء نبی اور پیغمبر ہیں۔

غرض یہ کہ انعکاس اور نطیت سے عینیت ثابت نہیں ہوتی۔
حضرت آدم علیہ السلام۔ کمالات خداوندی کا آئینہ اور نمونہ تھے۔ مگر معاذ اللہ عین خدا نہ تھے۔

پس خلیفہ ساخت صاحب سینہ
تا بود شاپیش را آئینہ

اور خلفاء راشدینؓ آنحضرت ﷺ کے کمالات علیہ و علیہ کا آئینہ اور نمونہ تھے۔ مگر نبی نہ تھے۔ فقط نبی کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہؒ نے ازالۃ الخفاء میں خلفاء راشدینؓ کا آنحضرت ﷺ کے ساتھ قوت علیہ اور قوت عملیہ میں تشبیہ ثابت کیا ہے۔ اور عقلی اور نقلی دلائل سے اس کو ثابت کیا ہے۔ جس سے خلفائے راشدینؓ کی فضیلت ثابت ہوئی نہ کہ نبوت۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ نطیت اور انعکاس سے اتحاد اور عینیت کا ثابت کرنا سراسر غلط اور باطل ہے۔ نطیت اور انعکاس سے صرف ایک قسم کی مشابہت اور ہم رنگی ثابت ہوتی ہے۔ سو اگر مرزا صاحب کا گمان یہ ہے کہ میں آنحضرت ﷺ کے کمالات کا آئینہ اور نمونہ ہوں اور کمالات نبوت میں سرور عالم ﷺ کے مشابہ اور ہم رنگ ہوں۔ تو مرزا صاحب اور ان کی امت بتلائے کہ مرزائے قادیان کن کن کمالات علیہ اور عملیہ میں سرور عالم ﷺ کا آئینہ اور نمونہ تھے۔

مرزا صاحب کمالات نبوت کا تو کیا آئینہ ہوتے۔ وہ تو حرص و طمع اور کمرو فریب اور طعن و تشنیع اور بدزبانی اور بدگمانی کا آئینہ اور جھوٹ کا مجسمہ تھے۔
آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں قائد اعظم اور قائد ملت کا ظل اور بروز اور منظر امم ہوں۔ لہذا میری اطاعت واجب ہے تو حکومت پاکستان اس کو یا تو

جیل خانہ بھیج دے گی یا پاگل خانہ میں ظاہر ہے کہ اگر کوئی سیاہ فام اور چمک رو اور نابینا اور لولا اور لنگڑا یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا غل اور بروز ہوں تو کون اس کو قبول کرنے پر تیار ہو گا۔

دعوائے ظلیت و بروزیت کا جائزہ

جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں شخص کا غل اور بروز ہوں اور اس کا عکس اور مظہر اتم ہوں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ شخص صفات کمال میں اس کا نمونہ ہے اور اخلاق و اعمال میں اس کا شبیہ اور مثل ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کا عکس اور تصویر ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگرچہ ذات مختلف ہے۔ مگر آئینہ میں جو عکس اور نقش نظر آ رہا ہے۔ وہ اصل کے ہم رنگ ہے اور بظاہر ہو ہو وہی معلوم ہوتا ہے۔ لہذا جب مرزا صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں سرور عالم محمد رسول اللہ ﷺ کا غل اور بروز ہوں اور حضور پر نور کا مظہر اتم ہوں تو اس کا مطلب بھی یہی سمجھا جائے گا کہ معاذ اللہ مرزا صاحب صفات کمال اور مکارم اخلاق اور محاسن اعمال میں آنحضرت ﷺ کے شبیہ اور مثل اور آپ ﷺ کا نمونہ ہیں۔ تو ہم مرزا صاحب کے حالات کا آنحضرت ﷺ کے حالات اور صفات کے ساتھ موازنہ کر کے جائزہ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کے اس دعویٰ میں کس حد تک صداقت ہے۔ موازنہ کے لیے صرف چند باتیں ذکر کرتے ہیں تاکہ ناظرین پر مرزا صاحب کے دعویٰ غل اور بروز کی حقیقت واضح ہو جائے۔

سرور عالم ﷺ کے صفات و کمالات

۱۔ آنحضرت ﷺ اسی تھے۔ مگر تعلیم الہی سے آپ ﷺ نے دنیا کو علم و حکمت سے بھر دیا اور صحابہ کو علم و حکمت میں رشک حکماء عالم بنا دیا۔

درفشانی نے تیری ﷺ قطروں کو دریا کر دیا

دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا
یہ وہ کرشمہ ہے جس کا تمام مغربی اقوام کے فضلاء کو اقرار و اعتراف
ہے۔

۲- آنحضرت ﷺ کی اور آپ کے ازواج مطہرات کی تمام زندگی
فقیرانہ اور درویشانہ گزری۔ دو دو مہینے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔
صرف کھجور اور پانی پر گزر تھا۔

خرقہ اور گڈری آپ کا لباس تھا اور بوریہ آپ کا فرش تھا۔
دن میں بکھرت روزے رکھتے اور رات کو تہجد میں کئی کئی پارے پڑھتے
کہ پاؤں پر درم آجاتا۔

۳- مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے بعد آنحضرت ﷺ پر جہاد فرض
ہوا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو جہاد کا حکم سنا دیا۔ اول مشرکین عرب
سے جہاد کیا۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کے سر پر ضرب کاری لگائی اور
برابر سلسلہ جہاد کا جاری رہا۔ غزوہ خندق ۵ھ میں ارشاد فرمایا کہ الان
نغزوہم ولا یغزوننا۔ اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے۔ اور یہ لوگ
ہم پر حملہ آور نہ ہوں گے۔ یعنی اب ان کی طاقت ختم ہوئی۔ چنانچہ ۶ھ
میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش نے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ بعد ازاں ۷ھ میں خیبر فتح کیا۔ جو
یہودیوں کا گڑھ تھا۔ اور وہاں ان کے قلعے تھے۔

اس طرح یہودیت کا خاتمہ فرمایا اور ۸ھ میں مکہ مکرمہ اور حنین اور
طائف کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد حجاز اور نجد اور یمن کا تمام طویل و
عریض رقبہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا۔

پھر اسی سال میں موتہ جو علاقہ شام کے قریب تھا۔ وہاں آٹھ ہزار کا لشکر

روانہ فرمایا۔ جس نے قیصر روم کے ڈیڑھ لاکھ مسلح لشکر جرار کو شکست دی۔ اس کے بعد ۹۹ھ میں آپ ﷺ نے قیصر روم کے مقابلہ کے لیے تیس ہزار صحابہؓ کی معیت میں خروج فرمایا۔ قیصر روم مرعوب ہو کر واپس ہو گیا۔ اور آپ بلا مقابلہ کے مظفر و منصور مدینہ منورہ واپس آئے۔

۴۔ پھر آنحضرتؐ کے بعد آپ کے حسب ارشاد آپ ﷺ کے خلفاء خاص کر ابو بکر و عمرؓ نے قیصر و کسری کے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ کیں۔ جو آدھی آدھی دنیا کے فرمانروا تھے۔ ایک ہی بلہ میں دونوں کو پچھاڑا۔ جس کا تماشہ ساری دنیا نے دیکھا۔ اور شام اور ایران اور عراق اور مصر وغیرہ وغیرہ فتح کر کے اسلامی قلمرو میں شامل کر دیئے۔ اور آج یہ مستقل چار سلطنتیں ہیں۔ جو اب تک مسلمانوں کے زیر اقتدار ہیں۔ اور اگر ان چاروں سلطنتوں کا رقبہ حجاز اور نجد اور یمن کے رقبہ کے ساتھ ملا لیا جائے تو امریکہ کی سلطنت کے رقبہ سے کم نہ ہو گا۔ بلکہ زیادہ ہی ہو گا۔

۵۔ حق جل شانہ نے آنحضرتؐ کو خلق عظیم سے سرفراز فرمایا انک لعلی خلق عظیم آپ ﷺ کے بارہ میں نازل فرمایا۔ آنحضرتؐ نے دشمنان خدا سے جہاد فرمایا۔ مگر زبان مبارک سے کسی بڑے سے بڑے دشمن کے حق میں گالی نہیں نکالی۔ مکہ کی تیرہ سالہ مظلومانہ زندگی سے نکل کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ تو مسلمانوں کو تقویٰ اور پرہیزگاری اور آخرت کی تیاری کی تلقین فرمائی۔ اور اپنی تیرہ سالہ ظالم و دشمنوں کی شکوہ شکایت کا کوئی حرف زبان مبارک سے نہیں نکلا۔

مرزا آنجہانی کے حالات

۱۔ جو شخص مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرے گا۔ اس پر یہ بات روز

روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ان کی ساری تصانیف میں سوائے اپنی خطیوں اور دعویٰ اور انبیاء کرامؑ کی توہین و تحقیر اور ان کے معجزات کے انکار کے اور کچھ بھی نہیں۔ خاص کر ان کی تصانیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت اور ان کے سب و شتم سے بھری پڑی ہیں اور ان کے مرید طوطے کی طرح ان کو رٹے ہوئے ہیں۔

۲- مرزا صاحب کی زندگی امیرانہ تھی ملک اور غیر اور مرغ اور مزعفر اور مقویات اور مفرحات بکثرت استعمال کرتے اور تقویت اعصاب کے لیے انگریزی دوائیں استعمال کرتے۔ اور بیویوں کے لیے عمدہ کپڑے اور قسم قسم کے زیورات تیار ہوتے تھے۔ مرزا صاحب نے اپنی بیویوں کا نام امات المؤمنین رکھا ہوا تھا۔ جو دنیا کی عیش و عشرت میں نوابوں اور امیروں کی بیگمات سے کہیں آگے تھیں اور مرزا صاحب بجائے عبادت کے عیش و عشرت اور خواب استراحت میں وقت گزارتے۔ مرزا صاحب تہجد اور تراویح میں کیا قرآن پڑھتے مرزا صاحب حافظ قرآن نہ تھے۔ حالانکہ مرزا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میرا خروج آنحضرت ﷺ کی بعثت ثانیہ ہے۔ جو پہلی بعثت سے اکمل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آنحضرت ﷺ بعثت ثانیہ میں قرآن بھول گئے تھے؟

۳- اور مرزا صاحب نے نہ کوئی ہجرت کی اور نہ کبھی کافروں سے جہاد کیا۔ بلکہ اپنی امت کے لیے نصاریٰ سے جہاد قتال کو صرف ممنوع ہی نہیں فرمایا بلکہ ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا چنانچہ مرزا صاحب ضرورۃ الامام (ص ۲۳ روحانی خزائن ج ۲۹۳ ص ۱۳) میں لکھتے ہیں۔ کہ حق تعالیٰ جو فرماتا ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس کی رو سے انگریز ہمارے اولوالامر ہیں۔ اس لیے میری نصیحت اپنی جماعت کو بھی ہے کہ دل کی سچائی سے ان کی مطیع رہیں۔“ غرض یہ کہ مرزا صاحب نے مسئلہ جہاد کو منسوخ کر دیا۔ اور عقیدہ جہاد کو وحشیانہ

عقیدہ قرار دیا۔

اس طرح سے مرزا صاحب اور ان کی امت نے جہاد سے تائب ہو کر نصاریٰ کی اطاعت کو اپنا فریضہ اور مقصود بنا لیا۔ اس طرح ساری زندگی انگریزوں کی اطاعت شعاری اور ان کی باج گزاری میں گزاری۔

اے مسلمانو! خدا را انصاف تو کرو۔ کہ کیا ایسا شخص جو ساری عمر کافروں کا اطاعت شعار اور باج گزار رہا۔ وہ اس رسول اعظم کا قتل اور مثل کیسے بن سکتا ہے۔ کہ جس نے دس سال کی مدت میں یہود اور نصاریٰ اور مشرکین سے جہاد کیا اور ان کو شکست دی اور ایسی عظیم الشان سلطنت قائم کی۔ کہ پاکستان جیسی سلطنت اس کے ایک گوشہ میں رکھی جا سکے۔

مرزا صاحب بتلائیں کہ انہوں نے اور ان کے ابو بکر اور عمر یعنی خلیفہ نور الدین اور خلیفہ بشیر الدین نے بھی کوئی علاقہ کافروں کا فتح کیا۔ یہ مساکین کیا فتح کرتے، یہ تو قادیان جیسا گاؤں بھی انگریزوں سے نہ لے سکے۔ پھر دعویٰ یہ ہے کہ میں آدم خلیفۃ اللہ بھی ہوں اور داؤد بھی ہوں۔ اور تمام انبیاء سے شان میں بڑھ کر ہوں۔ آپ انبیاء سے تو کیا بڑھ کر ہوتے۔ آپ تو ابو بکر اور عمر کے غلاموں کے برابر نہیں ہو سکے۔ جن مسلمان بادشاہوں نے کافروں سے جہاد کیا۔ اور ان کا علاقہ فتح کیا۔ مرزا صاحب تو ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے۔ کہ میں قائد اعظم کا قتل اور بروز ہوں۔ یا محمود غزنوی فاتح ہند کا قتل اور بروز ہوں تو غالباً کوئی مجتوں ہی اس کی تصدیق کرے گا۔

مرزا صاحب اپنے لیے مدعی تو خلق عظیم کے ہیں۔ مگر علماء و مشائخ کو گالیاں دینے میں مشاق ہیں۔ ہر وقت نئی گالی تراشتے ہیں۔ مثلاً اندھیرے کے کیڑے۔ جھوٹ کا گوہ کھایا۔ رئیس الدجالین اور ذریت شیطان عقب ا کلب۔ فول القول۔ کھوپڑی میں کیڑا۔ مرے ہوئے کیڑے علیہم نعال

۳۲

۵

عن الله الف الف مرة۔ ہامان الہا لکین اور خنزیر اور کتے۔ حرام زادہ،
 ولد الحرام۔ اوباش۔ چوہڑے۔ چمار۔ زندیق۔ ملعون وغیرہ۔ معمولی
 الفاظ تو بے تکلف اور بے اختیار نکل آتے ہیں۔ جیسا کہ عصائے موسیٰ۔
 اور المسح الدجال میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ یہ بدزبانی اور
 دعویٰ یہ کہ میں سرور عالم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا نعل اور مثل اور مظہر اتم ہوں۔
 (تفصیل اس کتاب میں شامل رسالہ شرائط نبوت کے آخری حصہ پر دیکھی
 جاسکتی ہے)

۱۳۔ نبوت و رسالت کا دعویٰ

سچا خدا وہ خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔

(دافع ابلاء ص ۱۱ روحانی خزائن ص ۲۳۱ ج ۱۸)

حق یہ ہے کہ خدا کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے اس میں ایسے
 لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں نہ ایک دفعہ۔

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۲ روحانی خزائن ص ۲۰۶ ج ۱۸)

وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ تاکہ تم سمجھو
 کہ قادیان اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا۔

(دافع ابلاء ص ۵ روحانی خزائن ص ۲۲۶ ج ۱۸)

۱۴۔ مستقل نبوت و رسالت وحی و شریعت کا دعویٰ

مرزا اپنے لیے مستقل اور تشریحی نبوت کا مدعی ہے۔ جیسا کہ عبارات
 ذیل سے واضح ہے۔

اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی
 اس آیت کا مصداق ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ و دین الحق لیظہرہ
 علی الدین کلمہ۔ (اعجاز احمدی ص ۷ روحانی خزائن ص ۱۱۳ ج ۱۹)

اس عبارت میں مرزائے قادیان نے ایک دعویٰ تو اپنی رسالت اور

تشریحی نبوت کا کیا ہے اور دوسرا دعویٰ یہ کیا۔ کہ اس آیت کا مصداق مرزائے قادیان ہے نہ کہ حضرت محمد ﷺ۔ یعنی حضور پر نور جن پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ اس کے مصداق نہیں۔

حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ آیت محمد ﷺ کے بارہ میں اتاری کہ خدا تعالیٰ آپ ﷺ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ قادیان کا دہقان یہ کہتا ہے کہ اس آیت کا مصداق میں ہوں۔

خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول یعنی اس عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔ (اربعین نمبر ۳۔ ص ۲۶ روحانی خزائن ج ۲۶ ص ۱۷) اور اگر یہ کہو کہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہر ایک مفتری تو اول تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے۔ خدا نے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی۔ باسوا اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہی بیان کئے۔ اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا۔ پس اس تعریف کے رو سے بھی ہمارے مخالفین ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی تھی۔ مثلاً یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک لڑکی لہم براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور اس پر تیس برس کی مدت بھی گزر گئی اور ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی۔ اور اگر کہو کہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم و موسیٰ یعنی قرآنی تعلیم توریت میں بھی موجود ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ شریعت وہ ہے جس میں باستیفاء امر و نہی کا ذکر ہو تو یہ بھی باطل ہے۔ کیونکہ اگر توریت یا قرآن میں باستیفاء احکام شریعت کا ذکر ہوتا۔ تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ تھی۔

(اربعین نمبر ۳ ص ۶ روحانی خزائن ص ۲۶۶-۲۶۵ ج ۱۷)

انا رسولنا الیکم رسولاً شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون

رسولا

ترجمہ = ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ اسی رسول کے مانند جو فرعون کی طرف بھیجا گیا تھا۔ (حقیقتہ الوحی ص ۱۰۱ روحانی خزائن ص ۱۰۵ ج ۲۲)

”یسن۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم“ اے سردار تو خدا کا مرسل ہے۔ راہ راست پر اس خدا کی طرف سے جو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ (حقیقتہ الوحی ص ۱۰۷ روحانی خزائن ص ۱۱۰ ج ۲۲)

انارسلنا احمد الی قومہ فاعرضوا وقالو کذاب اشتر۔

(اربعین نمبر ۳ ص ۳۳ روحانی خزائن ص ۲۲۳ ج ۱۷)

فکلمنی و نادانی و قال اتی مرسلک الی قوم مفسدین و اتی جاعلک للناس اماما و اتی مستخلفک اکراما کما جرت سنتی فی الاولین۔ (انجام آتم ص ۷۹ روحانی خزائن ص ۷۹ ج ۱۱)

الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے۔ کہ یہ خدا کا فرستادہ۔ خدا کا مامور۔ خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کتا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اور اس کا دشمن جنمی ہے۔ (انجام آتم ص ۶۲ روحانی خزائن ص ۶۲ ج ۱۱)

ان تمام عبارات سے صاف عیاں ہے کہ مرزائے قادیان مستقل اور تشریحی نبوت کا مدعی تھا۔ اور وہ اپنی نبوت و رسالت کو آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کے ہم پلہ بلکہ اس سے بڑھ کر سمجھتا تھا۔ جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ اور یہ عبارات اس قدر صریح اور واضح ہیں کہ ان میں تطبیق اور بروزیت کی تاویل نہیں چل سکتی۔

ان تصریحات کے باوجود مرزا نے اپنی پردہ پوشی اور مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے ظل اور بروز کی اصطلاح نکالی۔ تاکہ ختم نبوت کی نصوص قطعہ کی مخالفت سے بچنے کے لیے ایک جدید راہ نکل آئے اور دفع الزام کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ میں مستقل نبی نہیں۔ بلکہ بروز اور ظل نبی ہوں۔

اگر نبوت تشریحی یا غیر تشریحی کا دروازہ حسب ارشاد خداوندی خاتم

التسین بند نہ ہوا ہوتا اور آنحضرت ﷺ کی متابعت اور مشابہت کی وجہ سے آپ کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی تو حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ کو ملتی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے لوکان بعدی نبی لکان عمر۔ اور حضرت علیؓ کے حق میں فرمایا:

انت منی بمنزلہ ہارون من موسیٰ الا انه لانیسی بعدی

اور ایک حدیث میں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبرؓ کو حضرت ابراہیمؑ کے مشابہ قرار دیا۔ مگر وہ نبی نہیں بنائے گئے۔

پس معلوم ہوا کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کسی شخص کو کسی قسم کی نبوت ملنے کا امکان نہیں۔ خواہ وہ تشریحی ہو یا غیر تشریحی۔

۱۵۔ غلطی طور پر محمد ﷺ اور احمد ہونے کا دعویٰ

(ایک غلطی کا ازالہ ص ۵ روحانی خزائن ص ۲۰۹ ج ۱۸)

۱۶۔ آنحضرت ﷺ کے منظر اتم ہونے کا دعویٰ

(خطبہ الہامیہ ص ۲۶۷ روحانی خزائن ص ۲۶۷ ج ۱۶)

۱۷۔ رحمتہ للعالمین ﷺ ہونے کا دعویٰ

(تذکرہ ص ۸۱ طبع ۳)

۱۸۔ غلطی طور پر خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ

مرزا صاحب کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ میں غلطی طور پر خاتم الانبیاء بھی ہوں چنانچہ لکھتے ہیں:

مگر میں کہتا ہوں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جو درحقیقت خاتم التسین تھے۔ مجھے نبی اور رسول کے لفظ سے پکارا جانا کوئی اعتراض کی بات نہیں اور اس سے مر تہتیت ٹوٹی نہیں۔ کیونکہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ میں بموجب آیۃ کریمہ و آخرین منهم لما یلحقوہم بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں۔ اور خدا

نے اب سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور آنحضرت ﷺ کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنحضرت ﷺ کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیونکہ ظل اپنی اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ اور چونکہ میں ظلی طور سے محمد ہوں۔ پس اس طور سے خاتم النبیین کی مر نہیں ٹوٹی۔ کیونکہ محمد ﷺ کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی۔ یعنی بہر حال محمد ﷺ ہی نبی ہیں نہ اور کوئی۔

(ضمیمہ حقیقت النبوت ص ۲۶۵، ۲۶۶)

امت مرزائیہ کے چند مدعیان نبوت کا ذکر

مرزا کی امت نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پیشوا نے ختم نبوت کا مسئلہ تو ختم کر دیا اور قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ کھول دیا۔ تو حوصلہ مند مرزائیوں کو طمع ہوئی کہ موقع ملنے پر ہم بھی مسیح موعود بن جائیں گے اور مرزا صاحب کی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ اب ہم امت مرزائیہ کے چند مدعیان نبوت کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ چراغ الدین متوطن جموں

چراغ الدین نای۔ جموں کا رہنے والا تھا۔ وہ مرزا صاحب کا مرید تھا اس نے مرزا صاحب کی زندگی میں ہی نبوت و رسالت کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا صاحب نے اس کو باغی مرید کہہ کر اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔

۲۔ منشی ظہیر الدین اروپی

یہ شخص موضع اروپ ضلع گوجرانوالہ کا رہنے والا تھا۔ اس کے نزدیک مرزا صاحب، صاحب شریعت نبی تھے۔ اس کا خیال تھا کہ قادیان کی مسجد ہی خانہ کعبہ ہے۔ نماز اسی کی طرف منہ کر کے پڑھنی چاہیے۔ لاہوری پارٹی کے جریدہ پیغام صلح کا مدیر بھی رہا ہے۔ یہ شخص اپنے یوسف ہونے کا مدعی تھا۔ لیکن بعد میں

اپنے دعویٰ پر ثابت نہ رہا۔ اور مرزائے قادیان کی تحریروں میں مخالف اور تضاد پر مضمون بھی لکھا۔ جو لاہوری مرزائیوں کے رسالہ المہدی میں شائع ہوا۔

۳۔ محمد بخش قادیانی

یہ شخص قادیان کا رہنے والا ہے اس کو الہام ہوا۔ ”آئی۔ ایم وٹ وٹ“ یعنی میں ”وٹ وٹ ہوں“

۴۔ مسٹریار محمد پلیڈر

یہ شخص ہوشیار پور کا وکیل تھا۔ یہ شخص مرزا کا حقیقی جانشین اور خلیفہ برحق ہونے کا مدعی تھا۔ مرزا محمود سے اس کا جھگڑا رہا کہ مسند خلافت میرے لیے خالی کر دے مگر وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔

۵۔ عبداللہ تیماپوری

یہ شخص تیماپور واقع علاقہ حیدر آباد دکن کا رہنے والا تھا۔ پہلے روح القدس کے نزول کا مدعی بنا۔ پھر منظر قدرت ثانیہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس شخص نے پیشین گوئی کی تھی کہ مرزا محمود احمد بہت جلد میری بیعت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن پیشین گوئی پوری نہ ہو سکی۔ سب سے پہلے اس پر یہ وحی آئی ”یا ایہا النبی تیماپور میں رہو۔ یہ شخص یہ کہتا تھا کہ میں ظل محمد بھی ہوں اور ظل احمد بھی اور درجہ رسالت میں‘ میں اور مرزا صاحب دونوں بھائی ہیں اور مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو فرق کرے وہ کافر ہے۔“

۶۔ سید عابد علی

پرانہ مرزائی۔ قصبہ بدو ملٹی ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا تھا۔ مدعی الہام کا ہوا۔

۷۔ عبداللطیف گناچوری

یہ بھی ایک مشہور مرزائی ہے۔ مدعی نبوت اس نے اپنے دعویٰ کی تائید میں ایک ضخیم کتاب چشمہ نبوت شائع کی جس میں لکھتا ہے کہ مرزا صاحب کا نام زمین پر غلام احمد اور آسمان پر مسیح بن مریم تھا۔ اسی طرح خدا نے زمین پر میرا نام عبداللطیف اور آسمانوں میں محمد بن عبد اللہ موعود رکھا ہے جس طرح مرزا صاحب روحانی اولاد بن کر سید ہاشمی بن گئے تھے۔ اسی طرح میں بھی آل رسول میں داخل ہوں۔

۸۔ ڈاکٹر محمد صدیق بہاری

یہ شخص صوبہ بہار کے علاقہ گدگ کا رہنے والا تھا۔ مرزائیوں کی لاہوری پارٹی سے متعلق تھا۔ یہ کہتا تھا کہ مرزا صاحب نے جس پر موعود کی پیشین گوئی کی تھی۔ وہ میں ہی یوسف موعود ہوں۔ اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ، قادیان کی اصلاح کروں۔ قادیان سے آواز اٹھ رہی ہے کہ حضرت خاتم النبیین کے بعد بھی نبوت جاری ہے۔ اسلام میں سرور دو جہان کی ذات گرامی پر اس سے بڑھ کر اور کوئی حملہ متصور نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی کھڑا کیا جائے اور میں کروڑ مسلمانوں کو مرزا صاحب کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے خارج از اسلام تصور کیا جائے۔ میں اسی توہین آمیز عقیدہ کے مٹانے کی غرض سے مبعوث ہوا ہوں۔ محمودیوں اور پیغامیوں (قادیانی مرزائیوں اور لاہوری مرزائیوں) میں جھگڑا تھا۔ اس لیے میں حکم بن کر آیا ہوں میرے نشانات کئی ہزار ہیں۔ صرف اخلاقی نشان چون ہیں یہ نعمت سیدنا محمد ﷺ کی محبت میں فنا ہونے اور قادیان کے خلاف کرنے سے ملی۔ غیرت الہی نے میرے لیے مرزا صاحب کے نشانات سے بڑھ کر نشانات ظاہر کیے۔ میری بعثت کے بغیر قادیان کی اصلاح ناممکن تھی۔ میں نے تلاش حق میں مرزا محمود کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی۔ لیکن عقائد پسند نہ آنے کی وجہ سے بیعت فسخ کر دی۔ اور قادیان سے نکالا گیا۔ اب میں مسلسل بارہ سال سے محمودی عقائد کی تردید کر رہا ہوں۔

۹۔ احمد سعید سنہریالی

یہ شخص ضلع سیالکوٹ کا رہنے والا اسٹنٹ انچیکر مدراس جو پہلے مرزائی تھا۔ بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا۔

۱۰۔ احمد نور کابلی

یہ شخص قادیان کا سرمہ فروش، مرزا غلام احمد کے حاشیہ نشینوں میں سے تھا۔ اس کی ناک پر پھوڑا ہو گیا۔ جب کسی طرح اچھا نہ ہوا۔ تو عمل جراحی کرایا جب ناک کٹ گئی تو دعویٰ نبوت کا کر دیا۔ اور کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے عسی ان یبعثک ربک مقام محمودا اور آیت ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم میرے ہی بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ فتلک عشرة کاملہ

نمونہ کے طور پر ہم نے مرزائی امت کے دس مدعیان نبوت کا ذکر دیا۔ ان دس کے علاوہ اور بھی مرزائی امت میں مدعیان نبوت گزرے ہیں۔ جن میں سے بعض تو یہ کہتے تھے کہ میں ہی حقیقی مرزا صاحب ہوں۔ اس شخص کا نام افضل احمد تھا۔ جو موضع چنگا بنگیال ضلع راولپنڈی کا تھا۔

یہ سب مدعیان نبوت مرزائی تھے۔ بعد میں نبوت کے مدعی بن گئے ان میں سے کوئی وکیل تھا اور کوئی پٹواری تھا اور کوئی انچیکر تھا۔ ان مرزائی مدعیان نبوت کے مفصل حالات کتاب ائمہ تلیس مصنفہ مولانا ابوالقاسم ولاوری مرحوم میں مذکور ہیں۔ وہاں دیکھ لیے جائیں۔

(یاد دہانی مذہب مصنفہ پروفیسر الیاس برنی مطبوعہ مجلس تحفظ ختم نبوت لندن ص ۱۰۱۰ سے ۱۰۲۳ تک مطالعہ کر لیا جائے)

استفتاء از فضلاء امت مرزائیہ

کیا فرماتے ہیں فضلاء امت مرزائیہ اور فقہاء ملت قادیانیہ ان مرزائی مدعیان نبوت کے بارہ میں جو پہلے مرزا غلام احمد کے سلسلہ میں داخل ہوئے اور بعد

میں نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ ہم مستقل نبی نہیں۔ بلکہ مرزا صاحب کے ظل اور بھروسہ میں اور ہماری نبوت سے مرزا صاحب کی نبوت سے علیحدہ کوئی چیز نہیں اور ہماری نبوت سے مرزا صاحب کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح موسیٰ عمران کی امت میں۔ نبی اسرائیل میں بہت سے نبی ہوئے۔ اسی طرح ہم موسیٰ کاویان کی امت کے نبی ہیں۔

پس ان لوگوں کے بارہ میں ملت مرزائیہ کا کیا حکم ہے۔ آیا یہ مرزائی مدعیان نبوت مسلمان ہیں۔ یا کافر و مرتد ہیں اور آیا صادق ہیں یا کاذب۔ اگر یہ لوگ اپنے دعوائے نبوت میں صادق ہیں تو تمام مرزائیوں کو ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ کیونکہ انبیاء و رسل میں تفریق کفر ہے اور جو لوگ مثلاً مرزا بشیر الدین وغیرہ جو ان مرزائی پیغمبروں پر ایمان نہیں لاتے۔ مرزائی جماعت کی طرف سے ان پر کافر اور مرتد ہونے کا فتویٰ شائع ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ لوگ کاذب اور کافر ہیں تو ان کے کفر کی وجہ بتلائی جائے۔ کیونکہ جب مرزا صاحب کے نزدیک نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کے بعد نبوت جاری ہے تو محض دعوائے نبوت تو وجہ کفر کی نہیں ہو سکتی تو پھر آخر کس وجہ سے ان مدعیان نبوت کو جو پہلے مرزا صاحب کے صحابہ و تابعین میں سے تھے۔ کس بنا پر ان کو ملت مرزائیہ کا کافر اور مرتد قرار دیا گیا۔ جبکہ مرزائی امت کے نزدیک تمام انبیاء سابقین کے اسماء و صفات کا مرزا صاحب کو عطا کیا جانا ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرزا صاحب کا نام زمین میں تو غلام احمد اور آسمان میں محمد اور احمد ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ مرزا صاحب خاتم الانبیاء ﷺ کے ظل اور بروز بن سکیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ مرزا صاحب کے کسی صحابی یا تابعی کو مرزا صاحب کے تمام اسماء و صفات مل سکیں اور وہ مرزا صاحب کا ظل اور بروز اور عین بن سکے۔ دونوں میں کیا فرق ہے۔ اے ملت مرزائیہ کے فضلاء اس مسئلہ کو واضح فرمائیے۔ بسینوا و توجروا۔

۱۹۔ سارے عالم کے لیے مدار نجات ہونے کا دعویٰ

مرزا صاحب کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ عالم کی نجات اخروی کا دار و مدار ان

کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہے اور جو شخص مرزا صاحب کی مخالفت کرے۔ وہ گویا ابلیس اور دوزخی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میرا منکر کافر اور مردود ہے۔ اور عقائد مرزا میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ مرزا کے فعل پر اعتراض کرنا بھی کفر ہے۔

مرزا صاحب کہتے ہیں۔ کفر دو قسم پر ہے (اول) ایک کفر یہ کہ ایک شخص اسلام سے انکار کرتا ہے اور آنحضرت ﷺ کو خدا کا رسول نہیں مانتا۔ (دوم) دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے۔ اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے پس اس لیے کہ وہ خدا رسول کے فرمان کا منکر ہے۔ کافر ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔

(حقیقتہ الوحی ص ۱۷۹ روحانی خزائن ص ۱۸۵ ج ۲۲)

اور یہی مضمون (حاشیہ اربعین نمبر ۴ ص ۷ روحانی خزائن ص ۴۳۵ ج ۱۷) میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ”اب دیکھو خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات ٹھہرایا جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اور جس کے کان ہوں سنے۔“

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ مدار نجات مرزا صاحب پر احب پر ایمان لانا ہے جو مرزا صاحب پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔

حالانکہ

تریق القلوب میں مرزا صاحب یہ تصریح کرتے ہیں کہ کافر وہ ہے کہ صاحب شریعت نبی کی نبوت کا انکار کرے۔ اور اس کے سوا ملہم من اللہ اور محدث من اللہ وغیرہ وغیرہ کے انکار سے کافر نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ تریاق القلوب میں ہے۔ ”یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو

کافر کہتا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن صاحب الشریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں گو وہ کیسے ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت اور مکالمہ ایہ سے سرفراز ہوں۔ ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔“

(حاشیہ تریاق القلوب ص ۱۳۰ روحانی خزائن ص ۴۳۲ ج ۱۵)

پس تریاق القلوب کی اس عبارت کو پہلی عبارتوں کے ساتھ ملانے سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ مرزا صاحب مستقل نبوت اور شریعت جدیدہ کے مدعی ہیں اور شریعت ان کے نزدیک امر و نہی کا نام ہے۔ جو ان کی وحی میں موجود ہے پس جبکہ مرزا صاحب نے یہ اصول مقرر کر دیا کہ جو صاحب شریعت ہو اس کا انکار کفر ہے۔ اور باآواز بلند کہہ دیا کہ اپنے دعویٰ کا انکار کرنے والے کو کافر کہتا ان ہی نبیوں کی شان ہے جو خدا کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لے کر آئے ہوں۔ اور پھر اپنے منکرین اور معترضین کو کافر کہا اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے نکاح کو ناجائز قرار دیا اور اپنے منکرین کی نماز جنازہ کو حرام اور ممنوع قرار دیا۔ تو صاف ظاہر ہو گیا کہ مرزا صاحب نبوت مستقلہ اور شریعت جدیدہ کے مدعی ہیں۔ لیکن محض مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لیے علی اور بروزی کے الفاظ گھڑے ہیں لہذا مرزا صاحب کے اس قول کے مطابق تمام لاہوری جماعت کافر اور جنمی ہو گی۔ کیونکہ لاہوری جماعت مرزا کو نبی نہیں مانتی۔ بلکہ محض مجدد مانتی ہے۔

مرزا صاحب کا یہ دعویٰ صریح آیات قرآنیہ کے خلاف ہے۔ حق جل شانہ فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الكتاب یتلٰی علیہم ان فی ذلک رحمة و ذکر لقوم یؤمنون یعنی یہ قرآن جو آنحضرت ﷺ پر نازل کیا گیا۔ قیامت کے لیے کافی ہے اور بس کسی اور کتاب کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ قرآن کافی نہیں جب تک وحی اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔

حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوہ الی اللہ و الرسول ان

کنتم تو ممنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیرا واحسن تاویلا (سورہ نساء)
مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو تم پر تین چیزوں کی اطاعت واجب ہے۔
اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی۔ اور اولوالامر کی اور اولوالامر کے ساتھ
ارشاد ہے کہ اگر کسی وقت تمہارا ولی الامر سے نزاع اور اختلاف ہو جائے تو اس
وقت اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ وہی قابل اطاعت ہیں۔ معلوم
ہوا کہ اولی الامر۔ یعنی غیر نبی سے اختلاف ہوتا ہے۔ خواہ وہ علماء ہوں یا اولیاء یا
امراء ہوں۔ مگر قیامت تک نبی اکرم ﷺ سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ قیامت
تک آپ ہی مطاع مطلق ہیں۔

مولوی محمد علی لاہوری اپنی تفسیر جلد اول کے ۷۵ طبع ۳ پر لکھتے ہیں کہ ”
چونکہ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس امت کے اندر ہمیشہ کے لیے حقیقی مطاع
ایک مطاع محمد ﷺ ہی ہوں گے.... اس لیے آپ ﷺ کے بعد اس
امت میں کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی رسول ہو گا تو وہ خود مطاع ہو گا۔ محمد
ﷺ مطاع نہیں رہیں گے اور یہ خلاف قرآن کے ہے۔ پس ختم نبوت پر یہ
آیت فیصلہ کن ہے جب اس کو فان تنازعتم کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور اب
تاقیامت کوئی رسول قطعا نہیں آسکتا۔“

۲۰۔ عموم بعثت کا دعویٰ

میں صرف پنجاب کے لیے مبعوث نہیں ہوا۔ بلکہ جہاں تک دنیا کی آبادی
ہے ان سب کی اصلاح کے لیے مامور ہوں۔

(حاشیہ حقیقتہ الوحی ص ۱۹۲ روحانی خزائن ص ۲۰۰ ج ۲۲)

۲۱۔ آدم خلیفۃ اللہ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس کلام میں آدم علیہ السلام قرار دیا
ہے۔ یا ادم اسکن انت وزوجک الجنة

(اربعین نمبر ۳ ص ۲۳ روحانی خزائن ص ۲۱۰ ج ۱۷ اور ازائد الاہام ص ۳۹۵ روحانی خزائن

۳۷۵ ج ۳) میں لکھتے ہیں کہ ”اس حکیم مطلق نے اس عاجز کا نام آدم اور خلیفہ اللہ رکھ کر اور انہی جاعل فی الارض خلیفۃ کی کھلے کھلے طور پر براہین احمدیہ میں بشارت دے کر لوگوں کو توجہ دلائی۔ تاکہ اس خلیفہ اللہ آدم کی اطاعت کریں اور اطاعت کرنے والی جماعت سے باہر نہ رہیں اور ابلیس کی طرح ٹھوکر نہ کھائیں اور من شدذ فی النار کی تمہید سے بچیں۔“

۲۲۔ ابراہیم علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

آیت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ ﷺ میں بہت فرقے ہو جائیں گے۔ تب آخر زمانہ میں ایک ابراہیم پیدا ہو گا۔ اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا۔ جو ابراہیم کا پیرو ہو گا۔

(اربعین نمبر ۳ ص ۳۲ روحانی خزائن ص ۴۲۱ ج ۱۷)

۲۳۔ نوح علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۲۴۔ یعقوب علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۲۵۔ موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۲۶۔ داؤد علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۲۷۔ شیث علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۲۸۔ یوسف علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۲۹۔ اسحاق علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۳۰۔ یحییٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

۳۱۔ اسمعیل علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

میں آدم ہوں۔ میں شیث ہوں۔ میں نوح ہوں۔ میں ابراہیم ہوں۔ میں اسحاق ہوں۔ میں اسمعیل ہوں۔ میں یعقوب ہوں۔ میں یوسف ہوں۔ میں موسیٰ ہوں۔ میں داؤد ہوں۔ میں عیسیٰ ہوں اور آنحضرت ﷺ کے نام کا منظر اتم ہوں۔ یوں نطلی طور پر میں محمد اور احمد ہوں۔

(حاشیہ حقیقتہ الوحی ص ۷۲ روحانی خزائن ص ۷۶ ج ۲۲)

۳۲۔ آنحضرت ﷺ کے ساتھ برابری کا دعویٰ

یعنی محمد ﷺ اس واسطے کو ملحوظ رکھ کر اور اس میں ہو کر اور اس نام محمد و احمد سے موسوم ہو کر میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔ (ایک نطلی کا ازالہ ص ۷ روحانی خزائن ص ۲۱۰ ج ۱۸) بارہا بتلا چکا ہوں کہ بموجب آیت و آخرین منہم لما یلحقوا بہم بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں۔

اور ضمیرہ حقیقتہ الوحی ص ۸۵ و ۸۶ و ۷۹ و ۸۱ میں اکثر ان اوصاف کو اپنے لیے ثابت کیا ہے کہ جو آنحضرت ﷺ کے لیے مخصوص ہیں اور ازالہ ادہام میں ایسا ہی کیا۔

حق جل شانہ نے قرآن کریم میں جو آیتیں سید المرسلین ﷺ کے فضائل خاصہ میں نازل فرمائیں۔ یہ قادیان کا وہقان الہام کے ذریعہ اپنے اوپر چسپاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان آیتوں کا مصداق میں ہوں۔ جیسے

۱۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان و هو قاف۔ (تذکرہ ص ۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲ طبع ۳)

۲۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ (تذکرہ ص ۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-۱۵۰۴-۱۵۰۵-۱۵۰۶-۱۵۰۷-۱۵۰۸-۱۵۰۹-۱۵۱۰-۱۵۱۱-۱۵۱۲-۱۵۱۳-۱۵۱۴-۱۵۱۵-۱۵۱۶-۱۵۱۷-۱۵۱۸-۱۵۱۹-۱۵۲۰-۱۵۲۱-۱۵۲۲-۱۵۲۳-۱۵۲۴-۱۵۲۵-۱۵۲۶-۱۵۲۷-۱۵۲۸-۱۵۲۹-۱۵۳۰-۱۵۳۱-۱۵۳۲-۱۵۳۳-۱۵۳۴-۱۵۳۵-۱۵۳۶-۱۵۳۷-۱۵۳۸-۱۵۳۹-۱۵۴۰-۱۵۴۱-۱۵۴۲-۱۵۴۳-۱۵۴۴-۱۵۴۵-۱۵۴۶-۱

- ماتاخر۔ (تذکرہ ۹۲-۲۳۶-۲۴۸-۲۴۸-۶۳۸-۶۳۹۔ طبع ۳)
- ۵۔ ومارسلنک الارحمة للعالمین۔ (تذکرہ ۸۱-۳۸۵۔ طبع ۳)
- ۶۔ سبحان الذی اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی (مرزا کتا ہے کہ مسجد اقصی سے مراد مسجد موعود کی مسجد ہے۔ جو قاریان میں واقع ہے۔ خطبہ الہامیہ ۲۱۔ روحانی خزائن ص ۲۱ ج ۱۶)۔
- ۷۔ دئی فتدلی فکان قاب قوسین لوادنی۔ (تذکرہ ۶۸-۳۶۰-۳۹۳-۳۹۵-۶۳۳۔ طبع ۳)
- ۸۔ بریدون ان یطفؤ نور اللہ۔ (تذکرہ ص ۱۰۷-۳۷۶-۶۳۳۔ طبع ۳)
- ۹۔ الم نشرح لک صدرک۔ (تذکرہ ص ۱۰۵۔ طبع ۳)
- ۱۰۔ لاتخف انک انت الاعلی۔ (تذکرہ ص ۱۳-۱۰۷-۲۷۹-۳۶۳-۶۳۳۔ طبع ۳)
- ۱۱۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس۔ (تذکرہ ص ۲۰۸-۲۷۳۔ طبع ۳)
- ۱۲۔ انی فضلک علی العالمین۔ (تذکرہ ص ۹۶-۱۲۵-۳۵۹۔ طبع ۳)
- ۱۳۔ اذ جاء نصر اللہ و الفتح و رایت الناس یدخلون فی دین للہ افواجا (تذکرہ ص ۵۰۵۔ طبع ۳)
- ۱۴۔ ورفضناک ذکرتک۔ (تذکرہ ۹۳-۲۸۹-۷۳۳۔ طبع ۳)
- ۱۵۔ انک علی صراط مستقیم۔ (تذکرہ ص ۷۸-۹۳-۲۷۵-۳۶۸-۳۹۵۔ طبع ۳)
- ۱۶۔ و جیہا فی الدنیا و الآخرة و من المقربین۔ (تذکرہ ص ۹۳-۲۳۷-۳۶۸-۳۶۱-۲۳۷۔ طبع ۳)
- ۱۷۔ الیس اللہ بکاف عبد ○۔ (تذکرہ ص ۲۵-۸۸-۹۳-۲۳۶-۲۷۸-۳۵۳-۳۸۰-۵۲۵-۵۸۷-۶۳۹-۶۳۰-۶۳۵-۶۸۹-۸۱۳۔ طبع ۳)
- ۱۸۔ محمد رسول اللہ و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء

بینہم۔ (تذکرہ ص ۹۳۔ طبع ۳)

- ۱۹۔ مآکان اللہ لیعفبہم وانت فیہم (تذکرہ ۳۹ - ۹۲ - ۲۵۳ - ۳۲۱ - ۶۳۹۔ طبع ۳)
- ۲۰۔ ولقد لبثت فیکم عمر امن قبلہ افلا تعقلون۔ (تذکرہ ۸۹ - ۲۴۸ - ۲۸۷ - ۳۶۷ - ۶۳۰۔ طبع ۳)
- ۲۱۔ اتخذوا امن مقام ابراہیم مصلی۔ (تذکرہ ص ۱۰۹ - ۳۶۳ - ۶۳۳۔ طبع ۳)
- ۲۲۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ (تذکرہ ص ۸۳۔ طبع ۳)
- ۲۳۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب (تذکرہ ص ۸۲۔ طبع ۳)
- ۲۴۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یندولم یولد و لم یکن لہ کفوا احد (تذکرہ ص ۳۶۳۔ طبع ۳)
- ۲۵۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم (تذکرہ ۲۲۰ - ۲۲۱۔ طبع ۳)
- ۲۶۔ یسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ (تذکرہ ص ۳۷۹۔ طبع ۳)
- ۲۷۔ واللہ یتم نورہ (تذکرہ ص ۲۳۰۔ طبع ۳)
- ۲۸۔ تمت کلمۃ ربک۔ (تذکرہ ۶۷ - ۲۷۵ - ۳۶۶ - ۳۸۷ - ۶۳۱ - ۶۳۳۔ طبع ۳)
- ۲۹۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ (تذکرہ ص ۸۹ - ۲۳۵ - ۲۷۸ - ۳۶۲ - ۳۳۶ - ۶۳۹۔ طبع ۳)
- ۳۰۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ (تذکرہ ص ۵۱۔ طبع ۳) وغیرہ وغیرہ۔

باتفاق مفسرین و محدثین قرآن کریم کے آیات مذکور بالا سرور عالم محمد

رسول اللہ ﷺ کے بارہ میں نازل ہوئیں۔ مگر مرزائے قادیان کہتا ہے۔ کہ ان آیات میں جن فضائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا مصداق میں ہوں۔

اے مسلمانو! کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمسخر نہیں کیا۔ اور (ازالہ الادہام کے ص ۶۷۳ روحانی خزائن ص ۳۶۳ ج ۳) پر لکھتا ہے کہ آیت شریفہ مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد سے میں خود مراد ہوں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہم ان یقولون الا کذبا۔

اور مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رحمة للعالمین ہوں وما ارسلناک الا رحمة للعالمین اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون میرے متعلق مجھ پر نازل ہوئیں۔

(حقیقتہ الوحی ص ۸۲ روحانی خزائن ج ۸۵ ص ۲۲)

۳۳۔ آنحضرت ﷺ سے افضل ہونے کا دعویٰ

لہ خسف القمر المنیروان لی
غسا القمران المشرقان اتنکر

(انجاز احمدی ص ۷۱ روحانی خزائن ج ۱۸۳ ص ۱۹)

اس کے لیے (یعنی نبی کریم) کے لیے چاند کے خسوف کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا اب کیا تو انکار کرے گا؟

اس شعر میں مرزا صاحب نے ایک تو اپنی افضلیت کا دعویٰ کیا۔ اور دوسرے آپ ﷺ کے معجزہ شق القمر کا انکار کیا۔ جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے اقتربت الساعة وانشق القمر اس لیے کہ اس شعر میں شق قمر کو چاند گرہن ہونے سے تعبیر کیا یعنی آپ کے لیے فقط چاند گرہن ہوا تھا۔ چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوئے۔ اس لیے مرزا صاحب دو وجہ سے کافر ہوئے۔ نیز مرزا صاحب نے تحفہ گولڑویہ (خورد ص ۶۳ روحانی خزائن ص ۱۵۳ ج ۱۷) میں آنحضرت ﷺ کے معجزات کی تعداد تین ہزار بتائی ہے اور (براہین احمدیہ حصہ ہفتم ص ۵۶ روحانی خزائن ص

۷۲ ج ۲۱) میں اپنے نشانات کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ بتائی۔

کاش کوئی مرزائی ان دس لاکھ میں سے دس ہزار ہی معجزات لکھ کر شائع کر دیتا۔ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو تاکہ مرزا صاحب کے معجزات کیسے ہیں۔

بندہ ناچیز کئی مرتبہ بہ سلسلہ تبلیغ و دعوت قادیان گیا۔ وہاں ان دس لاکھ نشانات کا ذکر تھا۔ کہ آخر دس لاکھ معجزات کہاں گئے۔ تو قادیان کے ایک شخص نے بتلایا۔ کہ مرزا صاحب کا کوئی مرید اگر ایک روپیہ کا بھی منی آرڈر مرزا صاحب کے نام بھیجتا تھا۔ تو مرزا صاحب اس کو اپنا معجزہ شمار کرتے تھے تو اس حساب سے اگر مریدوں سے دس لاکھ روپیہ ملا ہو۔ تو ان کو دس لاکھ معجزات کہا جاسکتا ہے۔

۳۴۔ حضرت آدمؑ اور حضرت نوحؑ سے افضل ہونے کا دعویٰ

ان الله خلق آدم وجعله سيدا وحاكما وامير على كل ذي روح من الانس والجان كما يفهم من اية اسجدوا لادم ثم اذله الشيطان واخرجه من الجنان ورد بالحكومت الى هذا الشعبان ومن آدم ذلة وخذى فى هذا الحرب الهوان وان الحرب سجال للاتقيا مال عندلرحمن فخلق الله المسيح الموعود ليجعل الهزيمة على الشيطان فى آخر الزمان وكان وعدا مكتوبا فى القرآن۔

(حاشیہ در حاشیہ خطبہ النامیہ ص ۳۱۲ روحانی خزائن ص ۳۱۲ ج ۱۶)

جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ اور سردار اور حاکم اور امیر ہر ذی روح جن و انس پر بنایا۔ جیسا کہ آیت اسجدوا لآدم سے سمجھا جاتا ہے۔ پھر حضرت آدمؑ کو شیطان نے پھسلایا اور جنت سے نکلوا دیا اور حکومت اس اڑدھا یعنی شیطان کی طرف لوٹائی گئی اور سخت لڑائی میں حضرت آدمؑ کو ذلت اور رسوائی نے چھوا اور لڑائی ڈول کھینچنا ہے اور بزرگوں کے لیے مآل ہے۔ رحمن کے نزدیک، پس اللہ نے پیدا کیا مسیح موعود کو تاکہ شکست دے شیطان کو آخر زمانہ میں اور یہ وعدہ قرآن میں لکھا ہوا تھا۔ (معاذ اللہ)

اور خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے۔ کہ اگر نوح کے زمانہ میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔

(تتر حقیقتہ الوحی ص ۱۳۷ روحانی خزائن ص ۵۷۵ ج ۲۲)

۳۵۔ اپنی وحی اور الہام کے قرآن کے برابر ہونے کا دعویٰ

مرزائے قادیان کی جسارت اور دیدہ دلیری کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی وحی کو قرآن کریم اور توریت اور انجیل کے برابر سمجھتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے۔ ”میں خدا تعالیٰ کی تیس برس کی متواتر وحی کو کیونکر رد کر سکتا ہوں۔ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسے ہی ایمان لاتا ہوں جیسے کہ ان تمام وحیوں پر ایمان لاتا ہوں۔ جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں۔“ (حقیقتہ الوحی ص ۱۵۰ روحانی خزائن ص ۱۵۳ ج ۲۲)

”مگر میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اس طرح ایمان لاتا ہوں۔ جیسا کہ قرآن شریف پر اور خدا کی دوسری کتابوں پر۔ اور جس طرح میں قرآن شریف کو قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں۔ اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔“

(حقیقتہ الوحی ص ۲۱۱ روحانی خزائن ج ۲۲۰ ج ۲۲)

پس جب مرزا صاحب نے اپنی وحی کو قرآن اور توریت اور انجیل کے برابر قرار دیا تو پھر قرآن آخری کتاب الہی نہ رہا۔

۳۶۔ قرآن کی طرح اپنی وحی کے اعجاز کا دعویٰ

مرزا صاحب کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کی طرح میری وحی بھی حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیے مرزا صاحب نے اپنے مخالفین کے مقابلہ اور تحدی کے لیے ایک قصیدہ شائع کیا۔ جس کا نام قصیدہ اعجازیہ رکھا۔ علماء نے اس قصیدہ کے اشعار میں مرزا صاحب کی صرنی اور نحوی اور عروضی غلطیاں شائع کر دیں اور مرزا صاحب اور انکی امت اس کے جواب سے عاجز رہی اور ہے۔

۳۷۔ مرزائے قادیان کا اپنے لیے دس لاکھ معجزات کا دعویٰ

مرزا قادیان نے آنحضرت ﷺ کے معجزات تین ہزار قرار دیئے ہیں۔ (تحفہ گولڑیہ ص ۶۷ روحانی خزائن ص ۱۵۳ ج ۱۷) اور اپنے معجزات دس لاکھ بتلاتے ہیں۔ (براہین احمدیہ ج ۱ ص ۵۶ روحانی خزائن ص ۷۲ ج ۲۱) گویا کہ مرزا صاحب اپنے گمان میں آنحضرت ﷺ سے افضل اور برتر ہیں اور گویا کہ سید الانبیاء ﷺ اپنی عظمت و شان میں قادیان کے اس دہقان سے تین سو تیس درجہ کم ہیں۔ العیاذ باللہ۔

۳۸۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ

”بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریا رواں کر دیا ہے کہ باسثناء ہمارے نبی ﷺ کے باقی تمام انبیاء علیہم السلام میں ان کا ثبوت اس کثرت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے اور خدا نے اپنی حجت پوری کر دی ہے اور اب چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے۔“

(تمتہ حقیقۃ الوحی ص ۱۳۶ روحانی خزائن ص ۵۷۳ ج ۲۲)

مرزا کا اس عبارت میں آنحضرت ﷺ کا اسثناء محض مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے ہے ورنہ پہلے گزر چکا ہے کہ تحفہ گولڑیہ کے ص ۶۷ پر مرزا نے آنحضرت ﷺ کے معجزات کی تعداد تین ہزار بتلائی ہے اور اپنے معجزات کی تعداد تترہ حقیقۃ الوحی ص ۶۸ میں تین لاکھ بتلائی ہے اور براہین احمدیہ ص ۵۶ میں دس لاکھ بتلائی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ عبارت مذکورہ بالا میں آنحضرت ﷺ کا اسثناء محض لوگوں کے دکھلانے کے لیے تھا۔ ورنہ حقیقت ”دل میں یہ تھا کہ میرے معجزات تو دس لاکھ ہیں اور آنحضرت ﷺ کے معجزات دس ہزار ہیں دروغ گورا حافظہ نباشد۔“

۳۹۔ میکائیل علیہ السلام ہونے کا دعویٰ

اور دانیال نبی نے اپنی کتاب میں میرا نام میکائیل رکھا ہے۔

(حاشیہ اربعین نمبر ۳ ص ۲۳ روحانی خزائن ج ۱۳ ج ۱۷)

۳۰۔ خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ

انت منی بمنزلہ لولادی انت منی بمنزلہ ولدی اسمع یا ولدی۔

(حاشیہ اربعین نمبر ۴ ص ۱۹ روحانی خزائن ص ۱۷۲ ج ۱۷) (حقیقتہ الوحی ص ۸۶ روحانی خزائن ص

۸۹ ج ۲۲) (۱۔ میرے بیٹے بن۔ البشری ص ۳۹ ج ۱)

۳۱۔ اپنے اندر خدا کے حلول یعنی اتر آنے کا دعویٰ

مرزا کو الہام ہوا۔ آؤ اہن کہ خدا تیرے سے اندر اتر آیا۔

(تذکرہ ص ۳۱۱۔ مشہد کتاب البریہ ص ۸۴ روحانی خزائن ص ۸۴ ج ۱۳)

۳۲۔ خود خدا ہو جانے کا دعویٰ

”اور میں نے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ

میں وہی ہوں اور پھر فرماتے ہیں اور اس کی الوہیت مجھ میں موجزن ہے۔ پھر

فرماتے ہیں اور اس حالت میں یوں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک نیا نظام اور آسمان اور نئی

زمین چاہتے ہیں۔ سو میں نے پہلے آسمان و زمین کو اجمالی صورت میں پیدا کیا۔ جس

میں کوئی ترتیب اور تفریق نہ تھی پھر میں نے فضا کے موافق اس کی ترتیب و

تفریق کی اور میں دیکھتا تھا کہ میں اس کے خلق پر قادر ہوں۔ پھر میں نے آسمان دنیا

کو پیدا کیا اور کہا انا زینا السماء الدنيا بمصباح پھر میں نے کہا کہ اب ہم

انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کریں گے۔ پھر میری حالت کشف سے الہام کی

طرف منتقل ہو گئی اور میری زبان پر جاری ہوا اردت ان استخلف آدم فخلق

آدم انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم یہ الہامات ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف

سے میرے پر ظاہر ہوئے۔ (کتاب البریہ ص ۷۹۔ ۷۸ روحانی خزائن ص ۱۰۵۔ ۱۰۴ ج ۱۳)

و آئینہ کمالات اسلام ص ۵۶۳ روحانی خزائن صفحہ ایضاً ج ۵ و اخبار الحکم قادیان مورخہ ۲۴

فروری ۱۹۰۵ء)

یہ واقعہ اگرچہ حالت کشف اور الہام کا ہے۔ مگر کتاب و سنت اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب اور الہام سب قطعی ہوتا ہے۔ اگر انبیاء کا خواب قطعی نہ ہوتا تو محض خواب کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا جائز نہ ہوتا۔

خود مرزا نے بھی لکھا ان الروایا الانبیاء و حسی انبیاء کا خواب وحی ہوتی ہے۔ (حماۃ البشریٰ ص ۱۳ حاشیہ روحانی خزائن ص ۱۹۰ ج ۷)

یوسف علیہ السلام جب جیل خانہ میں تھے تو اس وقت دو قیدیوں نے دو خواب دیکھے اور یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر دریافت کی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دینے کے بعد فرمایا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اس کام کا فیصلہ ہو گیا۔ جس کی بابت تم دریافت کرتے تھے۔ یعنی جو تعبیر دیدی گئی وہ اٹل فیصلہ ہے۔ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ پس جبکہ نبی کی طرف سے کافر کے جواب کی تعبیر اٹل فیصلہ ہے تو خود نبی کا خواب اور اس کا الہام کیسے اٹل نہ ہو گا۔

۴۳۔ صاحب ”کن فیکون“ ہونے کا دعویٰ

مرزا صاحب (حقیقۃ الہیٰ ص ۱۰۵ روحانی خزائن ص ۱۰۸ ج ۲۲) پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون۔ تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہ تیرے حکم سے فی الفور ہو جاتی ہے۔

۴۴۔ حجر اسود ہونے کا دعویٰ

الہام ہوا کہ یک پائے من بوسد و من میسقتم کہ حجر اسود منم۔

(حاشیہ اربعین نمبر ۴ ص ۱۵ روحانی خزائن ص ۳۳۰ ج ۱۷)

۴۵۔ بیت اللہ ہونے کا دعویٰ

خدا نے اپنے الہامات میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔

(حاشیہ اربعین نمبر ۴ ص ۱۵ روحانی خزائن ص ۳۳۵ ج ۱۷)

۳۶۔ حیض اور حمل اور ولادت کا دعویٰ

مرزا صاحب کو الہام ہوا۔ یریلون ان یرواطمٹک (یعنی وہ تیرا حیض دیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں) اس الہام کی تشریح خود مرزا کی زبانی اس طرح ہے۔ بابو الٹی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ یا کسی پلیدی اور ناپاکی پر اطلاع پائے۔ مگر خدا تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھلائے گا۔ جو متواتر ہوں گے اور تجھ میں حیض نہیں بلکہ وہ بچہ ہو گیا ہے۔ بمنزلہ اطفال اللہ ہے۔

(تمہ حقیقتہ الوحی ص ۱۳۳ روحانی خزائن ص ۵۸۱ ج ۲۲)

اس الہام میں مرزا عورت بنے اب نعوذ اللہ خدا تعالیٰ مرزا سے ہم بستری کرتے ہیں اور رجولیت کی طاقت ظاہر کی جاتی ہے۔ جس کو مرزا کے ایک مرید قاضی یار محمدی۔ او۔ ایل پلڈر اپنے ٹریک نمبر ۳۳ موسوم بہ اسلامی قربانی مطبوعہ ریاض ہند پریس امرتسر میں لکھتے ہیں کہ ”جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے“ (اس قسم کی وساوس یقیناً ”شیطانی ہیں کوئی عاقل کبھی خدا کی طرف نعوذ باللہ اس قسم کے افعال کو تجویز نہیں کر سکتا)۔

مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرا دیا گیا۔ اور کئی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زائد نہیں۔ بذریعہ اس الہام کے جو سب سے آخر برابن احمدیہ کے حصہ چہارم کے ص ۵۵۶۔ میں درج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ (کشتی نوح ص ۴۷ روحانی خزائن ص ۵۰ ج ۱۹) اور پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے دردزہ تہہ کھجور کی طرف لے آئی۔ (کشتی نوح ص ۴۷ روحانی خزائن ص ۵۰ ج ۱۹)

۳۹۔ کرشن مہاراج ہونے کا دعویٰ

(تمہ حقیقتہ الوحی ص ۸۵ روحانی خزائن ص ۵۲۱ ج ۲۲) پر لکھتے ہیں ”آریہ قوم

کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں۔“

۵۰۔ آریوں کے بادشاہ ہونے کا دعویٰ

”اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں۔ بلکہ خدا نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے۔ کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا۔ وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ۔“ (تتر حقیقتہ الوحی ص ۸۵ روحانی خزائن ص ۵۲۲ ج ۲۲)

اور بادشاہت سے مرزا صاحب کے نزدیک روحانی بادشاہت مراد ہے۔ اس لیے ظاہری بادشاہت کا تو نام و نشان نہ تھا۔

مرزا صاحب نے جو کرشن مہاراج ہونے کا یا آریوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہمیں اس دعوے سے کوئی بحث نہیں وہ جانیں اور ہندو جانیں۔ چاہے وہ اس دعویٰ کو تسلیم کریں یا اس کی تردید کریں۔ ہم تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب کے نزدیک حضرت عیسیٰ اور کرشن مہاراج یک جان اور دو قالب تھے۔ نیز مرزا صاحب کو چاہیے تھا کہ کرشن مہاراج ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے مسلمانوں کی ان کتابوں کا مطالعہ کرتے جو ہندوؤں کے اوتار کرشن کے حالات اور صفات اور عادات کے متعلق لکھی گئی ہیں پھر اگر وہ اپنی ذات میں مشرکین کے اوتاروں کے اوصاف اور اخلاق پاتے تو ان کو یہ حق تھا کہ وہ کرشن مہاراج ہونے کا دعویٰ کریں۔

حق تو یہ ہے کہ اس قسم کے دعویٰ سے مرزا صاحب کی اندرونی حقیقت خوب واضح ہو جاتی ہے۔ شیخ سہدی نے کیا خوب فرمایا ہے۔

خیالات ناوان خلوت نشیں
بہم بر کند عاقبت کفر و دین

ناظرین کرام نے مرزائے قادیان کے دعویٰ پڑھ لیے ہیں جن سے صاف واضح ہے کہ مرزا کا مقصود سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمام دنیا کے پیشواؤں کے فضائل اور کمالات اپنے لیے ثابت کرے اور تمام انبیاء سابقین طہیم السلام اور

تمام اولین و آخرین پر اپنی برتری ثابت کرے اور ہر فرقہ کا پیشوا اور گرو بن جائے۔ مسلمانوں کے لیے آنحضرت ﷺ کے ظل اور بروز اور مظہر اتم ہونے کا دعویٰ کیا اور یہود کے لیے موسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسائیوں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور ہندوؤں کے لیے کرشن ہونے کا دعویٰ کیا۔ تاکہ ہندو بھی میرے سے علیحدہ نہ ہو سکیں۔ جس شخص نے قادیانی کی کتابیں دیکھی ہیں۔ اس پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ساری تصنیفات اپنی صحت آمیز دعویٰ اور انبیاء کرام علیہم السلام کی تنقیص اور توہین سے بھری پڑی ہیں۔ جن سے مرزا کی اندرونی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

مرزا کے یہ دعویٰ مسروقہ ہیں

اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا کے یہ تمام دعویٰ سابق مدعیان نبوت و مہدویت اور مسیحیت سے مسروقہ ہیں۔

مرزا صاحب سے پہلے تیرہ صدی کے اندر بہت سے مدعیان نبوت اور مدعیان مسیحیت اور مدعیان مہدویت گزرے ہیں۔ جن کا مفصل ذکر کتاب آئمہ تلبیس مصنفہ مولانا ابوالقاسم ولادوری مرحوم میں موجود ہے۔ فاضل مرحوم نے پانچ سو صفحہ سے زائد کی ایک کتاب لکھی ہے۔ جس میں تیرہ صدی کے مدعیان نبوت اور مدعیان مہدویت کا مفصل حال لکھا ہے جس میں فاضل مرحوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ مرزائے قادیانی نے جس قدر بھی دعویٰ کئے ہیں۔ وہ سب لفظ بلفظ گزشتہ مدعیان نبوت و مہدویت و مسیحیت سے مسروقہ ہیں یعنی چرائے گئے ہیں اور مرزا صاحب کے دعویٰ گزشتہ کذابین اور مفترین کے باطل دعویٰ کا نچوڑ ہیں۔ پس اگر مرزا صاحب کے دعویٰ میں کوئی تاویل ہو سکتی ہے تو گزشتہ مدعیان میں یہی ہو سکتی ہے "تشابہت قلوبہم" سب اہل باطل کے دل ملتے جاتے ہیں۔

نہیحت

مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے چوروں اور ایمان کے رہزموں سے اپنے

ایمان کی دولت کو بچا کر رکھیں، کہ مبادا کوئی رہزن اس لازوال دولت کو اچک کر نہ لے جائے۔

اے با ابلیس آدم روئے ہست
پس بہرے نشاید داد دست

واخر دعواتنا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی
خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی الہ و اصحابہ اجمعین و علینا
معہم یا رحمہم الراحمین۔

بندۂ ناچیز

محمد ادریس کان اللہ لہ

۲۰ رمضان المبارک یوم دو شنبہ ۱۳۸۶ھ

أَحْسَنُ الْبَيِّنَاتِ

فِي

تَحْقِيقِ مَسْئَلَةِ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ

يَعْنِي مُسْلِمَانِ كَوْنُهُ أَوْ كَافِرٌ كَوْنُهُ؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ ایک بیان ہے اسلام کے بنیادی مسئلہ کفر و ایمان پر جسے حضرت مولانا محمد اور لیس صاحب کاندھلوی سلمہ اللہ و مدظلہ نے ماہ محرم ۱۳۷۳ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچایا ہے۔ اس بیان کا عربی نام ہے احسن البیان فی تحقیق مسئلۃ الکفر و الایمان۔ آج کل کے عوام بلکہ خواص تعلیم یافتہ عربی نام سے غیر مانوس ہونے کی وجہ سے کتاب کے اندرونی مسائل کو اول نظر میں معلوم نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر موجودہ ارباب تصنیف و تالیف اور مخالفین اسلام عموماً ناموں میں جدت اور اردو زبان اسلام استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً دو اسلام۔ دو قرآن قرآنی فیصلے! ان ناموں کو دیکھ کر لوگ خواہ مخواہ پڑھنے اور مطالعہ کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عاجز بھی عموماً عربی کے نام کے ساتھ ساتھ ایک اردو نام تجویز کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس رسالہ کا نام ہم نے وضع کیا ہے ”مسلمان کون ہے اور کافر کون؟“ علاوہ ازیں چونکہ اس کتاب میں ایمان۔ کفر۔ الحاد۔ زندقہ۔ نفاق وغیرہ کی تعریفات اور احکام تفصیل کے ساتھ درج ہیں اس لیے یہ کتاب اس نام کی وجہ سے اسم بامسمیٰ ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا مدظلہ نے اس بیان میں ۵۷ کتابوں سے عبارتیں اور حوالے نقل فرمائے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو وہ معلومات حاصل ہوں گے جو تفسیر و احادیث کی ضخیم کتابوں کے بعد علماء کو بھی مشکل سے دستیاب ہوتے ہیں۔ پھر کتابوں کی ورق گردانی کے علاوہ حضرت مصنف مدظلہ نے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب قدس اللہ سرہ اور حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی اور دیگر اکابر علماء اہل سنت و الجماعت کے علوم و معارف کو سل اردو عبارت میں مرتب فرما کر ملت مسلمہ پاکستانیہ پر احسان عظیم فرمایا ہے۔

(حضرت مولانا مفتی) محمد عبداللہ غفرلہ (ملتان)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ایمان و کفر اور ان کے احکام و تعریفات

ایمان اور اسلام کی تعریف

(۱) لفظ ایمان امن اور امانت سے مشتق ہے۔ لغت میں ایمان ایسی خبر کی تصدیق کو کہتے ہیں کہ جس خبر کا ہم نے مشاہدہ نہ کیا ہو اور محض خبر کی امانت اور صداقت کے بھروسہ اور اعتماد پر اس کو تسلیم کر لیا ہو۔

مثلاً اگر کوئی شخص طلوع آفتاب کی خبر دے تو اس کے جواب میں صدقنا اور سلمنا (یعنی ہم اس خبر کی تصدیق کرتے ہیں) کہا جاسکتا ہے۔ لیکن امنائیں کہا جاسکتا۔ اس لیے کہ طلوع شمس محسوس اور مشاہد ہے ایمان کا اطلاق لغت میں غائب اور غیر محسوس چیزوں کی تصدیق کے لیے بولا جاتا ہے۔ محسوس اور مشاہد چیزوں کے ماننے کو مطلق تصدیق کہیں گے مگر ایمان نہ کہیں گے۔

اور اصطلاح شریعت میں انبیاء کرام علیہم السلام کے اعتماد اور بھروسہ احکام خداوندی اور غیب کی خبروں کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں۔ مثلاً فرشتوں کو بغیر دیکھے محض نبی اور رسول کے اعتماد پر ماننے کا نام ایمان ہے اور مرتے وقت فرشتوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر ماننا یہ ایمان نہیں۔ یہ ماننا اپنے مشاہدہ پر مبنی ہے نبی کریم کے اعتماد اور بھروسہ پر نہیں۔

اسلام

اسلام۔ لغت میں اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے یا بالفاظ دیگر اپنے کو کسی کے حوالہ اور سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے اور اصطلاح شریعت میں نبی برحق کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نام اسلام ہے۔ اپنی رائے اور خیال کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنا شریعت کے نزدیک یہ اسلام نہیں

بلکہ کفر ہے۔

ع کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رانی

بادشاہ اور حکومت کی اطاعت اور وفاداری وہی معتبر ہے کہ جو احکام و وزرات کے ماتحت ہو۔ احکام و وزرات کو واجب العمل نہ سمجھتا یہ حکومت سے بغاوت ہے اور اگر بایں ہمہ حکومت کی وفاداری کا دعویٰ کرے تو عقلاء کے نزدیک وہ دعویٰ جہالت اور حماقت ہے۔

قال تعالیٰ فلا وربک لایؤمنون حتیٰ یحکمواک فیما شجر
بینہم ثم لایجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت و یسلموا
تسلیمًا۔

ترجمہ = قسم ہے تیرے پروردگار کی یہ لوگ..... نہیں مومن ہو سکتے
جب تک آپؐ کو اپنے اختلاف میں حاکم اور منصف نہ بنائیں اور پھر
آپؐ کے فیصلہ کے بعد دل میں کسی قسم کی تنگی اور انتباض نہ پائیں اور
دل و جان سے آپؐ کے فیصلہ کو تسلیم کر لیں۔

ورنہ اگر زبان سے تو آپؐ کو حاکم اور منصف مانا مگر دل میں آپؐ کے
فیصلہ سے تنگی انتباض پایا تو یہ لوگ مومن نہیں بلکہ منافق ہیں اور قاتل گردن
زدنی ہیں۔

اسی آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق سے منقول ہے۔

قال لوان قوما عبد واللہ تعالیٰ و اقاموا الصلاة واتوا الزکوٰۃ و
صاموا رمضان و حجوا البیت ثم قالوا لشیٰ صنعہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم الا صنع خلاف ما صنع او وجدوا فی
انفسہم حرجا لکانوا مشرکین ثم تلا هذه الاية۔

ترجمہ = امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم اللہ کی عبادت کرے
اور نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ سب ادا کرے۔ مگر کسی فعل کے
متعلق جو حضورؐ نے کیا ہو، یہ کہے کہ آپؐ نے یہ کام کیوں کیا یا اس کے

خلاف کیوں نہ کیا یا آپ کے کسی حکم سے قلب میں سختی اور انتہا کو محسوس کیا۔ تو یہ لوگ باوجود نماز اور روزہ کے، کافر اور مشرک کے حکم میں ہیں اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔

(روح الطافی صفحہ ۶۵ جلد ۵)

شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔

ایمان و رافت معنی گردیدن و در شرع مخصوص است بگردیدن آنچه پیغمبر خدا ﷺ از خدا آورده و بہ بندگان رسانیدہ از امر و نہی و جز تشابہ و جز آن۔ الی ان قال۔ و بالجملہ حقیقت ایمان و مدار امن از عذاب ابدی و نجات اخروی ہمیں تصدیق پیغمبر است یعنی تصدیق رسالت دے کہ صفت دل است معنی گردیدن پذیرفتن بدل آنچه از خدا آورده و رسانیدہ کہ لازم دے تسلیم است معنی گردن دارن و سپردن خود را بکلم۔ نہ تصدیق معنی راست گودانستن پیغمبر یا راست دانستن رسالت دے چہ مجرد این معرفت و یقین بدل قبول و تسلیم فائدہ نہ کند بے از اہل مکرو عتاد بودند کہ باوجود معرفت صدق پیغمبر بنظر معجزات و دریافت علامات کہ کتب سابقہ بدان مملو و مشون بودہ براہ حجود و انکاری رفتہ الذین اتناہم الکتاب يعرفونہ کما يعرفون ابناءہم و ان فریقامنہم لیکتبون الحق و ہم یعلمون و حجدوا بہا و استیقنتہا انفسہم ظلما و علوا۔ الی ان قال۔

اسلام و رافت معنی انقیاد و فرمانبرداری و تسلیم شدن مرہم کے را بے سرکشی و اعراض درد شرع مخصوص است بانقیاد و اطاعت احکام و بجا آوردن آنچه پیغمبر بدان خبرواہ از فرائض و ارکان۔ پس اسلام نام ظاہر اعمال است و ایمان نام باطن اعتقاد (الخ شرح فارسی بخاری صفحہ ۵۱ جلد ۱)

تنبیہ

اس عبارت سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ خدا اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ فقط خدا اور رسول کو موجود مان لیا جائے یا فقط زبان سے خدا کی

الوہیت اور نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا جائے۔ بلکہ ایمان کے معنی بے چون و چرا اور بے دغدغہ اور بے تردد دل و جان سے تمام احکام کے ماننے کے ہیں رسول کی رسالت کا اقرار کرنا۔ اور اس کی شریعت کو واجب العمل نہ سمجھنا یہ ایسا ہے کہ حکومت اور بادشاہت کو تو تسلیم کرے اور اس کے دستور و آئین کو واجب العمل نہ سمجھے کیا عقلا کے نزدیک یہ کھلا ہوا تمسخر نہیں؟

کفر کی تعریف

کفر شریعت میں ایمان کی ضد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی کے بھروسہ اور اعتماد پر بے چون و چرا تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی کسی ایک بات کو نہ ماننا کہ جو ہم کو قطعی اور یقینی طور پر آنحضرت ﷺ کے ذریعہ سے پہنچی ہے۔ ایسی چیز کو نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ قطعی اور یقینی کی قید اس لیے لگائی کہ دین کے احکام ہم تک دو طریق سے پہنچے ہیں ایک بطریق تواتر اور ایک بطریق خبر واحد۔ تواتر اس کو کہتے ہیں کہ جو چیز نبی اکرم ﷺ سے ہم تک علی الاتصال اور مسلسل ہم تک پہنچی ہے اور عمد نبوت سے لے کر اس وقت تک سلا بعد نسل ہر زمانہ کے مسلمان اس کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ایسی شے قطعی اور یقینی ہے جس میں احتمال خطا اور نسیان کا نہیں۔ ایسے قطعی اور یقینی اور متواتر امور کا انکار کفر ہے، اور جو امور خبر واحد سے ثابت ہوں ان کا انکار کفر نہیں۔

متواترات میں تاویل بھی کفر ہے

جس طرح دین کے کسی حکم قطعی اور متواتر کا صریح انکار کفر ہے۔ اسی طرح قطعیات اور متواترات میں تاویل کرنا بھی کفر ہے کیونکہ قطعی امور کی تاویل بھی انکار کے حکم میں ہے مثلاً جس طرح نماز اور روزہ کا صریح انکار کفر ہے۔ اسی طرح نماز اور روزہ میں ایسی تاویل کرنا جو امت محمدیہ کے اجماعی معنی اور اجماعی عقیدہ کے خلاف ہو وہ بھی کفر ہے اور اس قسم کے تاویلی کفر کو اصطلاح شریعت میں

الحاد اور زندقہ کہتے ہیں (جس کو ہم عنقریب بیان کریں گے) تاویل وہاں سموع ہے جہاں کوئی اشتباہ ہو اور جو امور قطعی اور صاف اور روز روشن کی طرح واضح ہوں ان میں تاویل کرنا۔ انکار کے مترادف ہے۔

ضروریات دین کی تعریف

ضروریات دین اصطلاح شریعت میں انہیں امور کو کہا جاتا ہے کہ جو آنحضرت ﷺ سے بطریق تواتر ثابت ہوں اور عام طور پر مسلمان ان امور کو جانتے ہوں۔ ایمان اور اسلام کے لیے ان امور کا تسلیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔

تواتر مرزا غلام احمد کے نزدیک بھی حجت ہے

مرزا صاحب (ازالہ اوہام کے ص ۵۵۶ روحانی خزائن ۳۹۹ ج ۳) پر لکھتے ہیں کہ تواتر کی جو بات ہے وہ غلط نہیں ٹھہرائی جاسکتی۔ اور تواتر اگر غیر قوموں کا بھی ہو تو وہ بھی قبول کیا جائے گا۔

اسلام میں ختم نبوت کا عقیدہ متواتر ہے

ختم نبوت کا عقیدہ۔ ضروریات دین اور متواترات اسلام میں ہے جو قرآن کریم اور حدیث متواتر اور اجماع امت سے ثابت ہے اور نسلًا بعد نسل اور قرنا بعد قرین اور عصرًا بعد عصر ہر زمانہ میں نقل ہوتا چلا آیا ہے۔

امت محمدیہ میں سب سے پہلا اجماع مدعی نبوت کے قتل پر ہوا

اسود عنسی نے حضور کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور کے حکم سے قتل کیا گیا۔ میلہ کذاب نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم ہی کے زمانہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر کے زمانہ خلافت میں تمام صحابہ کے اتفاق سے مارا گیا اور اسی طرح دیگر مدعیان نبوت کا قلع قمع کیا گیا۔ اس کے بعد ہر زمانہ میں

اسلامی حکومت نے ہر اس شخص کو سزائے موت دی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور جس طرح تواتر کا ماننا ضروری ہے اسی طرح اجماع کا ماننا بھی ضروری ہے ورنہ اگر اجماع کا اعتبار نہ کیا جائے تو دین ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں ایک کھلونا بن جائے۔ جس قانون کی بنا کسی اجماعی اور اتفاقی اصول پر نہ ہو اس قانون کی کوئی حقیقت نہیں۔ محض لفظ ہی ہیں جس خود غرض کا جی چاہے گا وہ قانون کے الفاظ میں اپنے حسبِ منشا تاویل کر لے گا۔

اسی طرح دین بھی اگر اجماعی اصول پر مبنی نہ ہو تو وہ دین۔ دین کہلانے کا مستحق نہیں محض ایک بازیچہ اطفال اور مضحکہ خیز چیز ہے جس شخص کا جی چاہتا ہے اس کو دین بنا لیتا ہے۔ اسی طرح پوری امت کا دین یکساں نہ ہو گا۔ بلکہ ہر ایک کا دین علیحدہ علیحدہ ہو گا۔

اجماع مرزا صاحب کے نزدیک بھی حجت ہے

مرزا صاحب اپنی کتاب (ایام السخ م ۹۷ روحانی خزائن م ۲۲۳ ج ۱۳) میں لکھتے ہیں۔ کہ ”وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں۔ ان سب کا ماننا فرض ہے“ ایک دوسری کتاب (انجام آختم م ۱۳۳ روحانی خزائن م ۱۳۳ ج ۱۱) میں لکھتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت پر مقدار ایک ذرہ کے زیادتی کرے اس پر اللہ کی لعنت اور ملائیکہ کی لعنت یا اس میں کمی کرے یا کسی عقیدہ اجماعیہ کا انکار کرے۔ اس پر اللہ کی لعنت اور تمام آدمیوں کی لعنت یہ میرا اعتقاد ہے۔

ایمان اور کفر میں وجود اور عدم کے اعتبار سے فرق

ایمان اور کفر کی تعریف سے یہ امر واضح ہو گیا کہ ایمان کے وجود اور تحقق کے لیے ان تمام احکام کی تصدیق ضروری ہے جن کا حکم نبوی ہونا قطعاً و یقیناً ثابت ہو گیا۔ ان سب کو قبول اور تسلیم کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اور کفر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ تمام احکام شریعت کا انکار کرے ایک حکم قطعی کا انکار بھی کفر کے تحقق کے لیے کافی ہے۔ قال تعالیٰ

ياايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات
الشيطان انه لكم عدو مبين-

ترجمہ = اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی
پیروی نہ کرو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
یعنی اسلام کے تمام احکام کو مانو۔ بعض احکام اسلامیہ کو ماننا اور بعض کو نہ
ماننا یہ شیطان کی پیروی ہے۔

افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل
ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا و يوم القيامة يردون الى
اشد العذاب و ما الله بغافل عما تعملون- (سورہ بقرہ رکوع ۱۰)

ترجمہ = تو کیا مانتے ہو بعض کتاب اور نہیں مانتے بعض کو۔ سو کوئی سزا
نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے مگر رسوائی۔ دنیا کی زندگی میں اور
قیامت کے دن پہنچائے جائیں گے سخت سے سخت عذاب میں۔ اور اللہ
بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔

وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون
ما حرم الله و رسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب
حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون- (سورہ توبہ رکوع ۴)

ترجمہ = لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے
دن پر اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے
رسول نے اور نہ قبول کرتے ہیں دین سچا۔ ان لوگوں میں سے جو اہل
کتاب ہیں۔ یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔

افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم ففرقنا
كذبتم و فریقا نقتلون و قالو قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم
فقليلًا مایؤمنون-

ترجمہ = پھر بھلا کیا جب پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا۔ تمہارے جی کو تو تم تکبر کرنے لگے۔ پھر ایک جماعت کو جھٹلایا۔ اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔

ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ و یقولون نو من ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک ہم الکافرون حقا و اعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفر قوا بین احد منهم اولئک سوف یوینہم اجور ہم وکان اللہ غفورا رحیما۔

ترجمہ = جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں حضور کو اور نہیں مانتے حضور کو۔ اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے زلت کا عذاب۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو ان کو جلد دے گا ان کے ثواب اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ یونان جو کہ سموات اور کواکب کے فناء اور فساد کے قائل نہیں وہ قطعاً کافر ہیں۔ جیسا کہ امام غزالی نے اپنے رسائل میں اس کی تصریح کی ہے اس لیے کہ یہ لوگ نصوص قطعیہ اور اجماع انبیاء کرام علیہم السلام کے منکر ہیں۔

(۱) کما قال تعالیٰ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت
ترجمہ = جبکہ سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔

(۲) اذا السماء انشقت ترجمہ = جبکہ آسمان پھٹ جائے گا۔

(۳) وفتحتم السماء فكانت ابوابا

ترجمہ = جبکہ آسمان کھل جائے گا اور اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔

نمیدانند کہ مجروح تو وہ۔ بلکہ شہادت در اسلام کافی نیست تصدیق جمیع ما علم
عجیب الدین بالضرورة باید۔ (کتبات صفحہ ۳۲۳ جلد ۱)

ترجمہ = نہیں جانتے کہ محض کلمہ شہادت زبان سے پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ان تمام امور کی تصدیق لازمی اور ضروری ہے کہ جن کا دین سے ہونا قطعی طور پر ثابت ہو گیا ہو۔

البتہ جن امور کا ظنی طور پر دین سے ہونا ثابت ہو ان کے انکار سے کفر کے درجہ تک نہیں پہنچتا۔

ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطلب

ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا فقط یہ مطلب نہیں کہ حق تعالیٰ کی الوہیت اور آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کو ماننے اور اللہ تعالیٰ کو خدا اور آنحضرت کو نبی اور رسول ماننے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تمام احکام کو دل و جان سے ماننے، ورنہ خدا اور رسول کو ماننا اور ان کے کسی حکم کو نہ ماننا یا اس پر نکتہ چینی کرنا۔ یہ ایمان نہیں۔ بلکہ استہزاء اور تمسخر ہے۔ حکومت کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے احکام اور قوانین کو تسلیم کرے اور ان کو قابل اطاعت اور واجب العمل سمجھے۔ محض ذات کا ماننا کوئی ماننا نہیں۔ اصل ماننا حکم کا ماننا ہے۔

دنیا میں سب سے پہلا کفر

دنیا میں سب سے پہلا کفر ابلیس کا ہے جس نے حکم خداوندی کو خلاف حکمت اور خلاف مصلحت قرار دیا۔ حق تعالیٰ نے جب فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم

علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب سجدہ میں گر پڑے۔ مگر ابلیس نے خدا تعالیٰ کے اس حکم پر یہ اعتراض کیا۔

انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔

ترجمہ = میں آدم سے بہتر ہوں آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔۔ اور آگ مٹی سے بہتر ہے اس لیے بہتر کو کمتر کے لیے سجدہ کا حکم مناسب نہیں۔

ابلیس حق تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت اور خالقیت کا منکر نہ تھا بلکہ حق تعالیٰ کے ایک حکم کو خلاف حکمت سمجھتا تھا اس لیے وہ کافر گردانا گیا۔ ابی و استکبر و کان من الکافرین اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مطرود اور مرجوم اور مردود بنا کر بارگاہ خداوندی سے نکال باہر کیا گیا۔

معلوم ہوا کہ حکم خداوندی پر اعتراض کرنا اور اس کو خلاف حکمت اور غیر مناسب تصور کرنا یہ بھی کفر ہے۔ خدا وحدہ لا شریک لہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نہ ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک اور سیم ہے اور نہ اس کے حکم میں کوئی اس کا شریک اور سیم ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا کافر اور مشرک اعظم شیطان ہے جس نے اپنے زعم فاسد اور خیال کاسد کو خداوند ذوالجلال کے حکم کے برابر نہیں۔ بلکہ اس سے بہتر سمجھا۔

شیطان نے نہ خدا کی تکذیب کی اور نہ اس کی وحدانیت کا انکار کیا اور نہ حضرت آدم کی خلافت اور نبوت کا انکار کیا صرف ایک حکم خداوندی پر اعتراض کرنے کی وجہ سے کافر اور ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود بنایا۔ فاخرج فانک من الصاغریں وان علیک لعنتی الی یوم الدین۔

فائدہ

شیطان نے فقط کفر ہی نہیں کیا۔ بلکہ حماقت بھی کی کہ بے دلیل آگ کے مٹی سے بہتر ہونے کا دعویٰ کیا۔ شیطان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ جس سے وہ

آگ کا مٹی سے بہتر ہونا ثابت کر سکے۔ بلکہ مٹی کے بہتر ہونے کے دلائل بہت ہیں۔

۱- زمین تمام خیرات و برکات اور تمام ارزاق اور اقوات اور تمام فواکہ اور ثمرات کا منبع اور سرچشمہ ہے جس پر تمام عالم کی حیات موقوف ہے۔

۲- زمین ہی تمام زندوں اور مردوں کا ماوی اور مسکن ہے۔ زندہ اس پر زندگی بسر کرتے ہیں اور مردے اس میں دفن ہوتے ہیں۔

۳- عنصر ترابی کی ہر انسان اور حیوان کو ہر وقت ضرورت ہے۔ عنصر ناری کی کبھی ضرورت پیش آتی ہے۔

۴- آگ بالطبع منفذ اور مہلک ہے اور زمین نہ مہلک ہے اور نہ محرق بلکہ محافظ ہے۔

۵- آگ کی طبیعت میں سخت اور حدت ہے اور تپش ہے اور زمین کی طبیعت میں سکون اور وقار اور رزانت ہے۔

علاوہ ازیں حق جل شانہ مالک مطلق اور خالق مطلق ہیں۔ جس طرح کائنات کا وجود اس کا رہن منت ہے۔ اسی طرح کائنات کی فضیلت بھی اس کی مشیت کے تابع ہے۔ جس کو چاہیں افضل بنائیں اور جس کو چاہیں مفضول بنائیں۔ جس کو چاہیں ساجد بنائیں اور جس کو چاہیں مجبور بنائیں۔

تو	کر از	ہرہ	آنکہ	از	تیم	تو
تو	کشاید	زبان	جزبہ	حلیم	تو	تو
تو	زیاں	تازہ	کردن	باقرار	تو	تو
تو	لیگین	علت	از	کار	تو	تو

لایسٹل عما یفعل وہم یسئلون اور جس کا وجود بھی اپنا نہیں وہ سوال کیسے کر سکتا ہے۔ طایکہ اللہ (اللہ کے فرشتے) جانتے تھے کہ ہم نور سے پیدا کئے گئے اور ہر لمحہ اور ہر لحظہ سانس کی طرح اللہ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس و تجید ہم سے جاری ہے۔ اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے اور ان کی اولاد زمین میں فساد ہی

پھیلانے گی۔ مگر بایں ہمہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے سجدہ کا حکم کیا۔ فوراً سجدہ میں گر گئے اور سمجھے کہ تمام عزتیں اور فضیلتیں ان کے حکم کے تابع ہیں اور حکم خداوندی سے سرتابی کے برابر کوئی ذلت نہیں اور اعتراض نہیں کیا کہ ہم نور سے پیدا کئے گئے اور آدم مٹی سے۔

مسئلہ تکفیر اہل قبلہ

آئمہ دین میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ اہل قبلہ کی تکفیر جائز نہیں سو جاننا چاہیے کہ اہل قبلہ کا لفظ اصطلاح میں اہل ایمان کے لیے بولا جاتا ہے اور اصطلاح شریعت میں اہل قبلہ وہی لوگ کہلاتے ہیں کہ جو تمام قطعیات اسلام اور ضروریات دین پر ایمان رکھتے ہوں۔ کیونکہ جو لوگ ضروریات دین کے منکر ہوں۔ مثلاً شراب اور زنا کو حلال سمجھتے ہوں۔ وہ شریعت میں اہل قبلہ ہی نہیں۔ اہل قبلہ کے یہ معنی نہیں کہ جو شخص فقط قبلہ رخ نماز پڑھتا ہو۔ اگرچہ وہ کسی حکم قطعی کا منکر ہو۔

اہل قبلہ کی تکفیر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل قبلہ کی گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے تکفیر نہیں کی جائے گی جیسا کہ خوارج اور معتزلہ کا مذہب ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل سنت و الجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اہل قبلہ کی زنا کاری اور شراب خواری کی وجہ سے تکفیر نہیں کی جائے گی۔ یا مثلاً کوئی شخص دیدہ و دانستہ نماز کو ترک کر دے۔ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ بلکہ فاسق و فاجر کہا جائے گا۔

ہاں البتہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز بیخ گانہ کو فرض نہیں سمجھتا یا چوری اور زنا کو حلال سمجھتا ہوں۔ تو یہ شخص بالاجماع کافر ہو گا۔ علامہ خیالی فرماتے ہیں۔

معنی هذه القاعدة ان لا يكفر في المسائل الاجتهادية الا لانزاع في كفر من انكر ضروريات الدين۔

ترجمہ = اہل قبلہ ۱ تکفیر نہ کرنے کا جو قاعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل اجتہاد یہ میں اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ جو شخص ضروریات دین کا انکار کرے اس کے کفر میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس قاعدے کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کی طرح قبلہ رخ نماز پڑھتے ہیں اگر ان سے بے خبری میں کوئی کلمہ ایسا نکل جائے کہ جس سے کفر لازم آتا ہو تو ان کی تکفیر نہ کی جائے گی۔ جب تک صاف طور پر یہ نہ معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اس کا التزام کرتے ہیں۔ کیونکہ لزوم کفر کفر نہیں۔ التزام کفر کفر ہے۔ خوب سمجھ لو۔

ضروریات دین میں تاویل مسموع نہیں

تاویل وہاں معتبر ہے کہ جہاں کوئی اشتباہ ہو اور قواعد عربیت اور قواعد شریعت میں اس کی گنجائش ہو۔ یعنی وہ تاویل کتاب و سنت اور اجماع امت کے خلاف نہ ہو اور جو حکم شرعی ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جو قطعی الثبوت اور قطعی الدالات بھی ہو اس میں تاویل معتبر نہیں۔ بلکہ ایسے امور میں تاویل کرنا انکار کے ہم معنی ہے۔

مثلاً اگر کوئی عین نصف النہار کے وقت جس وقت کوئی ابر اور غبار بھی نہ ہو اور دھوپ نکل رہی ہو یہ کہے کہ اس وقت دن نہیں ہے۔ بلکہ رات ہے۔ ممکن ہے اس وقت آسمان پر کوئی بجلی کوند رہی ہو اور یہ روشنی اس کی ہو۔ جس کو لوگ دھوپ سمجھے ہوئے ہیں کیا کوئی عاقل اس تاویل کو تاویل کہے گا۔ بلکہ یہ کہے گا کہ ایک محسوس اور مشاہدہ چیز کا انکار کر رہا ہے۔ اس طرح کی تاویلیں اگر معتبر ہوں تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے گا۔ اور دہریہ اور منکرین توحید اور منکرین رسالت بھی کافر نہ ہوں گے۔ آخر وہ بھی کسی دلیل اور تاویل ہی کی بنا پر توحید و رسالت کے منکر ہیں۔

علماء اسلام کی فتوائے تکفیر میں احتیاط

علماء ربانین نے فتوائے تکفیر میں کبھی عجلت نہیں کی۔ فردعی مسائل میں کسی کو کافر نہیں بتایا۔ جب تک روز روشن کی طرح کسی کا کفر واضح نہیں ہو گیا۔ اس وقت تک کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ بلکہ قاعدہ مقرر فرما دیا کہ اگر مسلمان کے کلام میں ننانوے وجہیں کی ہوں اور ایک ادنیٰ سا احتمال صحیح معنی کا بھی ہو تو جب تک قطعی طور پر یہ نہ معلوم ہو جائے کہ متکلم نے معنی کفر ہی مراد لیے ہیں۔ اس وقت تک اس کے کفر کا فتویٰ دینا جائز نہیں۔ ہاں اگر کسی جگہ قطعی اور یقینی طور پر کفر ثابت ہو جائے تو پھر کفر کا فتویٰ دینا فرض اور واجب ہو گا۔

مرزا صاحب ہی کو لے لیجئے کہ ابتداء میں علماء نے مرزا صاحب کے کلام کی تاویل کی مگر جب مرزا صاحب کا کفر اس درجہ واضح ہو گیا کہ تاویل کی گنجائش نہ رہی تو چارو تا چار تکفیر کرنی پڑی تاکہ مسلمان گمراہ نہ ہوں۔ ایمان اور کفر کا فرق واضح کرنا علماء کا فریضہ ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ان پر عائد ہے۔ اگر علماء اس قدر احتیاط نہ کرتے تو آج کفر اور اسلام میں امتیاز نہ رہتا۔ جس طحہ کا جی چاہتا وہ اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام بتاتا۔ اللہ تعالیٰ علماء دین کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے کفر اور اسلام کے فرق کو واضح کیا۔

اور جب کبھی کسی عالم نے غلطی یا کسی خود غرضی کی وجہ سے کوئی غلط فتویٰ دیا۔ اسی وقت اس کی تردید کی لہذا چند غلط فتوؤں کی بنا پر تمام صحیح فتوؤں کا رد کرنا سراسر خلاف عقل ہے۔

بعض فتوؤں کے دانتے یا ناوانتے غلط ہونے سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سب فتوے غلط ہیں۔ اور تکفیر کا کوئی فتویٰ قابل اعتبار نہیں۔ لہذا مرزائیوں کے کفر کا فتویٰ بھی قابل اعتبار نہیں۔ یہ نتیجہ نکالنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ چونکہ بعض حکام عدالت نے دانتے یا ناوانتے غلط فیصلے کئے ہیں اور کر رہے ہیں اور روزانہ ان کی اپیلیں ہو رہی ہیں ادھر فیصلہ اور ادھر اپیل۔ لہذا عدالت کا کوئی فیصلہ

قابل اعتبار نہیں یا یہ کہے کہ پولیس کے چالان بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں۔ لہذا عدالت یا پولیس کا کسی کے متعلق یہ کہنا کہ یہ مجرم ہے یا یہ شخص چور یا بد معاش ہے صحیح نہیں۔

تو کیا دنیا کے مجرم یہ کہہ کر رہا اور بری ہو سکتے ہیں کہ بعض حکام فیصلہ میں غلطی کرتے ہیں یا بدنیت ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کارخانہ عالم درہم و برہم ہو جائے۔ مرزا صاحب کی طرح دنیا میں بہت سے کذاب مدعی ہوئے ہیں۔ تو کیا کوئی شخص سچے نبیوں کی اس بنا پر تکذیب کر سکتا ہے۔ کہ سلسلہ مدعیان نبوت میں بہت سے کاذب بھی ہیں۔ لہذا ہم کسی نبی کو نہیں مانتے۔

پس جس طرح دنیا میں صدق اور کذب کی پڑتال کی جاتی ہے۔ اسی طرح قنادائے تکفیر کو بھی دیکھنا چاہیے جو کتاب و سنت کے معیار پر صحیح اترے اس کو قبول کیا جائے اور جو اس معیار پر نہ اترے اس کو قبول نہ کیا جائے۔

محض اتنا کہہ دینے سے کہ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی تکفیر کرتا ہے یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ کہ دنیا میں کوئی کافر اور مرتد نہیں۔

کیا ڈاکٹروں اور بیرٹروں کے اختلاف سے یہ فیصلہ کرنا جائز ہے کہ ڈاکٹروں اور بیرٹروں کا کوئی قول اس لیے قابل اعتبار نہیں کہ ان میں اختلاف ہے۔ لہذا دنیا میں اب کوئی مریض نہیں۔

اصل وجہ یہ ہے کہ بے دین اور بد دین لوگ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ عوام کو علماء سے بدظن کیا جائے اور مسئلہ تکفیر کو آڑ بنا کر علما کا تسخر کیا جائے اور لوگوں کے جذبات کو ان کے خلاف ابھارا جائے تاکہ لوگ دین سے بیزار ہو جائیں اور علماء اتنے ذلیل ہو جائیں کہ ایمان اور کفر اور حلال اور حرام کی کوئی بات زبان ہی سے نہ نکال سکیں۔ ان بیچارے بے دینوں کو علماء سے کوئی ذاتی عداوت نہیں اور نہ ذاتی عداوت کی کوئی وجہ موجود ہے بلکہ نفرت و حقارت کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ علماء حلال و حرام کا نام کیوں لیتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں جو چاہیں کریں۔ یہ گروہ ہماری رشوت ستانی اور شراب خوری اور بے پردگی وغیرہ وغیرہ کو

کیوں حرام اور ناجائز کہتا ہے۔

مسئلہ تکفیر میں احتیاط کا دوسرا پہلو

مسئلہ تکفیر نہایت نازک ہے۔ جس میں غایت درجہ احتیاط کی ضرورت ہے جس طرح کسی مسلمان کو بلا قطعی اور واضح دلیل کے کافر کہنا وبال عظیم ہے اسی طرح جس شخص کا کفر دلیل قطعی سے واضح ہو جائے اس کو مسلمان کہنا بھی نہایت خطرناک ہے۔ اس زمانہ میں ایک جماعت تو وہ ہے کہ جس کا مسلک یہ ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ بات میں مسلمانوں کی تکفیر کی جائے اور اس کے بالمقابل ایک دوسری جماعت تعلیم یافتہ اور آزاد خیال لوگوں کی ہے۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ جو شخص اسلام کا مدعی ہو اور اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتا ہو کسی طرح اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ اگرچہ وہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام کا منکر ہو اور اسلام پر نکتہ چینی کرتا ہو۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح مسلمان کو بے دلیل کافر کہنا کفر ہے۔ اسی طرح کافر کو مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے مسلمان ہونے کے لیے فقط مدعی اسلام ہونا کافی نہیں جب تک کہ اسلام کے تمام احکام کو دل و جان سے نہ مانے۔

حکومت کا وفادار دہی ہے کہ جو حکومت کے تمام قوانین اور آئین کو واجب العمل تسلیم کرتا ہو۔ محض زبان سے وفاداری کا دعویٰ کافی نہیں۔ جو شخص حکومت کی وفاداری کا مدعی ہو اور قانون شکنی کو بھی جائز قرار دیتا ہو اور علی الاعلان لوگوں کو قانون شکنی پر آمادہ کرتا ہو یا قانون کے ایسے جدید اور نئے معنی بیان کرتا ہو کہ جو اب تک وزراء حکومت اور حکام عدالت کے حاشیہ خیال میں بھی نہ گزرے ہوں تو ایسا شخص حکومت کے نزدیک وفادار نہیں بلکہ جھوٹا اور مکار ہے اور فریبی اور عیار ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص توحید و رسالت کا تو اقرار کرے۔ مگر شراب اور زنا کی حرمت کا انکار کرے یا یہ کہے کہ میں ارکان اربعہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض نہیں سمجھتا۔ تو جو شخص شراب اور زنا کے حرمت کے منکر کو اور علی ہذا ارکان اربعہ کی فرضیت کے منکر کو کافر نہ سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ

فحش بھی شراب و زنا کی حرمت اور ارکان اربعہ کی فرضیت کا منکر ہے۔ اگر یہ خود منکر نہ ہو تا تو منکر کو ضرور کافر سمجھتا۔ جو فحش انبیاء کرامؑ کے گالیاں دینے والے کو کافر نہیں سمجھتا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ فحش بھی انبیاء کرام کی توہین اور گستاخی کو جائز سمجھتا ہے۔ جو فحش میلہ کذاب کو کافر نہ سمجھے اس کا صاف مطلب ہے کہ دعوائے نبوت اس فحش کے نزدیک بھی جائز ہے۔

مسئلہ تکفیر کی غرض دعائیت یہ ہے کہ اسلام اور کفر کی حدود ملتبس نہ ہونے پائیں۔ اور خدا کے وفادار اور باغی دوست اور دشمن ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہو جائیں۔ لیسیمیز اللہ الخبیث من الطیب لہذا جو فحش بے وجہ مسلمان کو کافر اور ضروریات دین کے منکر کو مسلمان بتاتا ہے۔ وہ اسلام کو کفر کی حدود میں۔ اور کفر کو اسلام کی حدود میں داخل کرنا چاہتا ہے دنیا کی تمام عدالتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ عدل اور ظلم کی حدود ملتبس نہ ہونے پائیں۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ ایمان اور کفر کی حدود ملتبس نہ ہونے پائیں اور ایمان و توحید کا آب طہور، کفر اور شرک کی نجاست کی آمیزش سے پاک اور صاف رہے۔ قال تعالیٰ انما المشرکون نجس۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔

ایمان۔ احکم الحاکمین کی بے چون و چرا اطاعت اور حلف و قناری کے نام ہے اور کفر، اللہ رب العالمین سے بغاوت کا نام ہے۔ کفر کی حقیقت یہ ہے کہ احکم الحاکمین نے جو قانون اور حکم اپنے خلفاء اور وزراء کے توسط سے بندوں پر اتارا ہے اس کو واجب العمل نہ سمجھے اور قانون حکومت کو واجب العمل نہ سمجھتا یہی بغاوت ہے۔

خلاصہ یہ کہ

مسئلہ تکفیر کی حقیقت صرف یہ ہے کہ احکم الحاکمین کے وفادار اور باغی کے فرق کو واضح کر دیا جائے اور مفتی۔ مستفی کو یہ بتلا دے کہ تو اس قول یا اس فعل

سے خدا کے وفاداروں میں نہیں رہا یا خدا کے باغیوں میں جا ملا۔

علماء کسی کو کافر بناتے نہیں البتہ بتاتے ہیں

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کسی کو کافر نہیں بناتے اور نہ کوئی کسی کو کافر بنا سکتا ہے۔ کافر تو خود اپنے قول اور فعل سے بنتا ہے۔ البتہ علماء اس کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس قول اور فعل سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ کافر بنانا علماء کے اختیار میں نہیں اور بتا دینا جرم نہیں۔

اگر کوئی وکیل یا بیرسٹر کسی تقریر یا تحریر کے متعلق یہ بتاوے کہ یہ تقریر اور تحریر قانوناً بغاوت اور شدید ترین جرم ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وکیل نے اس کو باغی بنایا۔ بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس قابل اور نکتہ رس وکیل نے تیری بغاوت کو بتا دیا اور تیرے باغی ہونے کو جتلا دیا تاکہ تو پکڑا نہ جائے۔ بالفرض اگر اس وکیل کی رائے صحیح بھی نہ ہو تب بھی یہ وکیل قابلِ تکرار ہے کہ اس نے متنبہ تو کر دیا۔

ارتداد -- الحاد -- زندقہ -- کے احکام و تعریفات

ارتداد کی تعریف

ارتداد کے معنی لغت میں لوٹ جانے اور پھر جانے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جانے کے ہیں۔

امام راغب اصفہانی مفردات میں لکھتے ہیں۔

هو الرجوع من الاسلام الى الكفر

ترجمہ = اسلام سے کفر کی طرف پھر جانے کا نام ارتداد ہے۔

اور یہ امر وضاحت کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے کہ کفر کے لیے یہ ضروری

نہیں کہ مذہب بھی تبدیل کرے۔ بلکہ شریعت کے کسی ایک حکم قطعی کے انکار سے بھی کافر ہو جاتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ ارتداد کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ علانیہ طور پر تبدیل مذہب کر دے۔ مثلاً ترک اسلام کر کے یہودی یا عیسائی ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نہ تو تبدیل مذہب کرے۔ اور نہ توحید و رسالت کا انکار کرے۔ لیکن شریعت کے کسی حکم کا انکار کرے۔ مثلاً یہ کہے کہ میں نماز اور زکوٰۃ کو ضروری اور فرض نہیں سمجھتا اور حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا ضروری نہیں سمجھتا بلکہ مثلاً قادیان یا ربوہ کا جناح کے قائم مقام ہو سکتا ہے تو ایسا شخص بلاشبہ کافر اور مرتد ہے۔ اور واڑہ اسلام سے قطعاً خارج ہے۔ اگرچہ یہ شخص خدا کی تمام صفات کاملہ پر ایمان رکھتا ہو اور صدق دل سے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت کا اقرار کرتا ہو۔ اس لیے کہ جو حکم قرآن کریم اور حدیث متواتر سے ثابت ہو چکا ہے اس کا انکار۔ انکار رسالت کے مترادف اور ہم معنی ہے۔ جس طرح سرے ہی سے حکومت کو نہ تسلیم کرنا بغاوت ہے۔ اسی طرح ایک قانون شاہی کی قانون شکنی اور انکار بھی بغاوت ہے۔ اگرچہ وہ اس قانون کے سوا حکومت کے اور تمام احکام اور قوانین کو تسلیم کرے۔

شیطان کا کفر اور ارتداد بھی اسی قسم کا تھا کہ وہ خدا کی توحید اور ربوبیت کا مقرر اور معترف تھا۔ اور یا رب.... کہہ کہ حق تعالیٰ سے درخواست کرتا تھا۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ قال رب بما اغویتسنی مگر حکم سجد کو قابل عمل نہیں سمجھتا تھا۔

ابن ابی اسکبر وکان من الکافرین ○

ترجمہ = ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی پہلے مسلمان تھا اب کافر ہو گیا اور اسلام کے بعد کافر ہونے کو ارتداد اور ہونے والے کو مرتد کہتے ہیں۔

چنانچہ حافظ ابن تیمیہ "الصارم المسلول علی شاتم الرسول" ص ۳۶۷ میں

کہتے ہیں۔

كما ان الردة تنجر د عن السب فكذلك تنجر د عن قصد تبديل الدين ولراة التکذيب بالر رسالة كما تنجر د كفر ابليس عن قصد التکذيب بالر بوبيف

ترجمہ = یعنی ارتداد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ نبی کی شان میں سب و شتم کرے یا تبدیل مذہب کرے یا نبوت و رسالت کی تکذیب کرے۔ بغیر اس کے بھی ارتداد متحقق ہو سکتا ہے جیسا کہ شیطان ملعون کا ارتداد حکم خداوندی کے نہ ماننے کی وجہ سے تھا خدا کی وحدانیت اور ربوبیت کے انکار کا ارادہ بھی نہ تھا۔

مرزا صاحب کے نزدیک ایمان اور کفر کی حقیقت

گزشتہ سطور میں یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ ایمان کے لیے تمام ضروریات دین کا ماننا لازم ہے مگر کفر اور ارتداد کے لیے تمام ضروریات دین کا انکار ضروری نہیں بلکہ بعض ضروریات دین کا انکار بھی ویسا ہی کفر ہے جیسا کہ کل ضروریات دین کا انکار کفر ہے کفر اور ارتداد کے لیے اسلام یا توحید و رسالت کا انکار ضروری نہیں۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کفر و ارتداد کے بارہ میں مرزا صاحب کا یہی مسلک ہے۔

مرزا صاحب نے اپنی تصانیف میں ڈاکٹر عبدالحکیم کو بار بار کافر اور مرتد بتایا ہے۔ (حقیقت الہی ص ۱۵۹ روحانی خزائن ص ۱۶۳ ج ۲۲) حالانکہ ڈاکٹر عبدالحکیم سوائے مرزا صاحب کی نبوت کے سلام کے کسی حکم کے منکر نہ تھے۔ معلوم ہوا ارتداد کفر کے لیے صرف ایک امر کا انکار بھی کافی ہے اگرچہ وہ تاویل ہی سے کیوں نہ ہو اور علی ہذا جو لوگ مرزا صاحب کی نبوت کے منکر یا حرد ہیں۔ وہ بھی مرزا صاحب کے نزدیک کافر ہیں۔ بلکہ مرزا صاحب اپنے منکر اور رسول اللہ ﷺ کے منکر کا کفر ایک ہی قسم کا بتاتے ہیں۔ (حقیقت الہی ص ۱۷۹ روحانی خزائن ص ۱۸۵ ج

(۲۲) معلوم ہوا کہ مرزائیوں کے نزدیک بالاتفاق ایک امر قطعی کا انکار بھی کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔

حیرت اور صد حیرت ہے کہ پنجاب کے میلہ کذاب کے متبعین اور اذتاب ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اہل قبلہ اور کلمہ پڑھنے والوں کی کیوں تکفیر کرتے ہو اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر نہیں دیکھتے کہ تم تمام روئے زمین کے اہل قبلہ کو قادیان کے ایک دہقان کے نہ ماننے کی وجہ سے کافر بتلاتے ہو۔

الحاد اور زندقہ کی تعریف

جو امور بدیہی اور قطعی طور پر دین سے ثابت ہوں۔ ان میں تاویل کرنا اور ان کے ایسے معنی بیان کرنا جو اجماعی عقیدہ کے خلاف ہوں۔ قرآن کریم میں اس کا نام الحاد اور حدیث میں اس کا نام زندقہ ہے اور اصطلاح شریعت میں طحہ اور زندقہ اس فہض کو کہتے ہیں۔ کہ جو الفاظ تو اسلام کے کئے مگر معنی ان کے ایسے بیان کرے۔ جس سے اس کی حقیقت ہی بدل جائے جسے صلوة اور زکوٰۃ میں یہ تاویل کرے کہ قرآن میں صلوة سے فقط دعا اور ذکر کے معنی مراد ہیں اور اس خاص ہیئت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں۔ اور زکوٰۃ سے تزکیہ نفس مراد ہے ایک معین نصاب سے مال کی خاص مقدار کا دینا مراد نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی فہض قانون کی کن دفعہ کی ایسی شرح کرے۔ جو اس کے مشاکے مطابق اور تمام عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف ہو اور یہ دعویٰ کرے کہ اب تک ججوں نے جو اس دفعہ کا مطلب سمجھ کر فیصلہ کیا وہ سب غلط تھا۔

اس فہض کے متعلق عدالت کا فیصلہ یہ ہو گا کہ یہ فہض تاویلات فاسدہ سے حکومت کے لڑیچ اور اس کے قانون کی حقیقت کو پلٹنا اور بدلنا چاہتا ہے اور صدہا سال کے عدالتوں کے فیصلوں کو غلط اور تمام گزشتہ فاضل اور مسلم عاقل ”وانا ججوں کو نادان اور ناسمجھ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اور جو فہض مسلم عاقلوں اور نادانوں کو ناسمجھ اور نادان ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہی اس کے نادان ہونے کی واضح اور

روشن دلیل ہے۔

کافر اور منافق اور زندیق میں فرق

جو شخص ظاہر اور باطن میں دین اسلام کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور جو ظاہر میں مقرر اور باطن میں منکر ہو وہ منافق ہے، اور جو شخص دین اسلام کا تو دل سے مقرر ہو مگر ضروریات دین میں ایسی تاویلیں کرتا ہو جس سے شریعت کی حقیقت اور غرض و غایت ہی بدل جائے تو ایسا شخص اصطلاح شریعت میں طہ اور زندیق کہلاتا ہے اور جس طرح منافق کا حکم کافر سے اشد ہے اسی طرح طہ اور زندیق کا حکم منافق سے اشد ہے اور الحاد اور زندقہ درحقیقت نفاق کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ جس طرح منافق طہ کاری سے کام لیتا ہے۔ اسی طرح طہ اور زندیق اپنے عقائد کفریہ پر تاویل فاسد کے ذریعہ اسلامی صورت کا طہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اسلام کے دھوکہ میں اس کے باطنی کفر کو قبول کر لیں۔ جیسا کہ علامہ شامیؒ رد المحتار میں لکھتے ہیں۔

فان الزندیق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجهافي

الصورة الصحيحة (شامی صفحہ ۳۳۲ جلد ۳ باب الردۃ)

ترجمہ = تحقیق طہ اور زندیق اپنے کفر پر اسلام کا طہ کرتا ہے تاکہ اپنے عقیدہ فاسدہ کو اس طہ کاری کے ذریعہ لوگوں میں رائج کر سکے اور اپنے اس فاسد عقیدہ کو عمدہ صورت میں پیش کر سکے۔

حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا مقصد

ایمان اور کفر کی تقسیم

خداوند ذوالجلال نے کائنات ارضی اور سماوی کے پیدا کرنے کے بعد سب سے اخیر میں ہمارے والد بزرگوار محترم سیدنا حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور مسجد ملائکہ بنایا اور اپنی خلافت و نیابت کا تاج ان کے سر پر

رکھا اور نبوت و رسالت کا خلعت ان کو پہنایا اور اپنا نائب خلیفہ بنا کر سرزمین ہند پر آمارا (حضرت آدم کے ہندوستان میں اترنے کی روایتیں تفسیر درمنثور جلد اول قصہ حضرت آدم میں مذکور ہیں۔ اہل علم درمنثور کی طرف مراجعت فرمائیں) تاکہ اس شہنشاہ مطلق اور احکم الحاکمین کے احکام کے مطابق تمام عالم پر حکمرانی فرمائیں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کو وزارت عظمیٰ کا منصب جلیل عطا فرماتے ہیں تو فوجوں کو سلامی کا حکم دیتے ہیں۔ ملائیکہ ارضی و سماوی۔ یہ خداوند احکم الحاکمین کے فوج اور لشکر ہیں۔ اس لیے ان کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ ہمارے خلیفہ اور نائب ہیں۔ ان کا حکم ہمارا حکم ہو گا۔ اور ان کی اطاعت ہماری اطاعت ہو گی۔

حضرت آدم علیہ السلام حق تعالیٰ شانہ کے پہلے نبی اور پہلے رسول اور خلیفہ ہیں اور سرور عالم سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ حق تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول اور آخری خلیفہ ہیں۔ اول سے آخر تک تمام انبیاء کرام فقط رضا اور غیر رضا کا فرق بتلانے کے لیے دنیا میں آئے کہ کونسا کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق ہے اور کونسا کام اس کی مرضی کے خلاف ہے اور کونسی چیز اللہ کے نزدیک مستحسن اور پسندیدہ ہے اور کونسی چیز اللہ کے نزدیک قبیح اور ناپسند ہے جس نے حضرت انبیاء کے اعتماد اور بھروسہ پر اللہ کے احکام کو قبول کیا۔ وہ مومن بنا اور جس نے قبول نہ کیا وہ کافر بنا۔ اس طرح عالم دو قسموں پر منقسم ہوا یعنی مومن اور کافر۔

هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مومن

ترجمہ = اسی نے تمہیں پیدا فرمایا پس تم سے مومن ہیں اور تم میں سے کافر۔

اور حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وقت سے ایمان اور کفر کی جنگ شروع ہو گئی۔ اور قوم دو قسموں پر منقسم ہو گئی۔ آخری فتح ایمان اور اہل ایمان کی ہوئی۔

حضرات انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد۔ حق اور باطل۔ ہدایت اور

ضلالت۔ سعادت اور شقاوت کا فرق واضح کرنا اور پھر اہل ایمان اور اہل ہدایت کو ساتھ لے کر اہل باطل سے جہاد و قتال کرنا ہے۔ تاکہ خدا کے دوستوں اور دشمنوں میں امتیاز ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حزب اللہ اور حزب الرحمن کا لقب عطا کیا اور کافروں کو حزب الشیطان کے نام سے موسوم کیا اور ہر فریق کے احکام جدا جدا بتلا دیئے۔ تاکہ دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ یکساں معاملہ نہ ہو۔

کفر کے احکام

کفر کے مطلق دو قسم کے احکام ہیں ایک اخروی اور ایک دنیوی۔ اخروی حکم یہ ہے کہ کفر کی سزا دوزخ کا دائمی عذاب ہے۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کما قال تعالیٰ

ان الذین کفروا و صلوا عن سبیل اللہ تم ماتوا و ہم کفار فلن یغفر
اللہ لہم

ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء

ان الذین کفروا و ظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم و لا لیہدیہم
طریقا۔

ترجمہ = جو لوگ منکر ہوئے اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے پھر مر گئے
اور وہ منکر رہے تو ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ

بیک اللہ نہیں بخشا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشا ہے اس کے
بچے کے گناہ جس کے چاہے۔

جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا رکھا ہرگز اللہ بخشے والا نہیں ان کو اور نہ
دکھلا دے گا ان کو سیدھی راہ۔

اور یہی مضمون احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور اسی پر تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے جس طرح دنیا میں بغاوت کی سزا جس

دوام ہے اسی طرح کفر کی سزا اللہ کے یہاں دائمی عذاب ہے اس لیے کہ کفر اللہ تعالیٰ کی بغاوت ہے۔

کفر کے دنیوی احکام

(۱) ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ کفر اور کافروں سے تبری اور بیزاری ہو۔ یعنی کافروں کو خدا کا دشمن سمجھے۔ اور کوئی دوستانہ تعلق ان سے نہ رکھے۔
قال تعالیٰ

قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لوالقومهم
اتنا برؤ امنكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و ببلدنا و
بينكم العداوة و البغضاء ابدا و حتى تؤمنوا بالله و حده

ترجمہ = تم کو چال چلنی چاہیے اچھی ابراہیم کی اور جو اس کے ساتھ تھے
جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو ہم الگ ہیں تم سے اور ان سے جن کو تم
پوچتے ہو۔ اللہ کے سوائے ہم منکر ہوئے تم سے اور کھل پڑی ہم میں
اور تم میں دشمنی اور بیدہیشہ کو یہاں تک کہ تم یقین لاؤ اللہ اکیلے پر۔

اس کے علاوہ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں۔ جس میں کافروں سے
موالات یعنی دوستانہ تعلقات کی ممانعت اور حرمت صراحتاً مذکور ہے اور علماء نے
کافروں سے ترک موالات پر مستقل کتابیں لکھیں ہیں۔

(۲) کافروں سے مناکحت حرام ہے۔

(۳) کافر، مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں۔

(۴) کافر کی نماز جنازہ میں شریک ہونا یا اس کی قبر پر جانا بھی جائز نہیں۔

لا تصل علی احد منہم مات ابدا و لا تنقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ
ورسولہ و ماتوا لوہم فاسقون۔

ترجمہ = اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی اور نہ کھڑا ہو
اس کی قبر پر وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مر گئے

تا فرمان۔

- (۵) مسلمان کے جنازہ میں کافر کو شرکت کی اجازت نہیں وہ وقت رحمت کا ہے اور کافر سے لعنت آتی ہے۔
- (۶) مردہ کافروں کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں اگرچہ قریبی رشتہ دار ہوں۔ قال تعالیٰ۔

ماکان للنبی والذین امنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا
لولی قریبی الایۃ۔

ترجمہ = لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اور
اگرچہ وہ ہوں قرابت والے۔

(۷) کافر کا بیچہ اور شکار مسلمان کے لیے حلال نہیں۔

(۸) کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔

- (۹) جو کافر دارالاسلام میں مسلمانوں کی رعایا ہوں۔ ان کو فوج میں بھرتی
کر کے جہاد میں ساتھ لے جانا جائز نہیں معلوم نہیں کہ سازش کر کے دارالحرب
کے کافروں سے جا ملیں۔ کما قال تعالیٰ

ولو خرجوا فیکم مازاد وکم الا خبا لا ولا وضعوا خلالکم
ییفونکم الفتنة و فیکم سماعون لهم

ترجمہ = اگر نکلتے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لیے مگر خرابی اور
گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بگاڑ کروانے کی تلاش میں اور تم میں
بعضے جاسوس ہیں ان کے۔

حدیث میں ہے انا لانستعین بمشرک الا ان یکنوا تابعین لنا
اذلاء۔

ترجمہ = ہم مشرک کی مدد نہیں لینا چاہتے مگر اس صورت میں کہ وہ
ہمارے تابع اور مدلل ہو کر رہیں۔

(۱۰) جو کافر اسلامی حکومت میں رہتے ہوں ان سے جزیہ لیا جائے گا۔

حتى يعطو الجزية عن يدهم صاغرون

ترجمہ = یہاں تک کہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر۔ اور مسلمان سے جزیہ نہیں لیا جاسکتا۔

(۱۱) کسی کافر کو کوئی وزارتی یا فوجی یا افزری کسی قسم کا کلیدی عمدہ دینا ہرگز جائز نہیں اور نہ کافروں سے سیاسی اور مملکتی امور میں مشورہ لینا جائز ہے۔ اس بارے میں فاروق اعظمؓ اور ابو موسیٰ اشعریؓ کا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں۔

(ابو موسیٰ اشعریؓ) قلت لعمر ان لی کاتبانصرانیا

ترجمہ = ابو موسیٰ کہتے ہیں۔ میں نے فاروق اعظمؓ سے عرض کیا اے امیر المومنین میرے پاس ایک نصرانی کاتب ملازم ہے۔

(فاروق اعظمؓ) مالک قاتلک اللہ اما سمعت اللہ یقول یا ایہا الذین امنوا لاتتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض الا اتخذت حنیفا۔

ترجمہ = اے ابو موسیٰ تجھے کیا ہوا خدا تعالیٰ تجھے ہلاک اور برباد کرے۔ کیا تو نے حق تعالیٰ کا یہ حکم نہیں سنا کہ یہود اور نصاریٰ کو اپنا دوست اور معین اور مددگار نہ بناؤ (تمام کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تمہارا کوئی دوست نہیں۔ کسی مسلمان کو کون نہ ملازم رکھا۔)

(ابو موسیٰ) یا امیر المومنین ان لی کاتبته وله دینہ۔

ترجمہ = ابو موسیٰ نے عرض کیا اے امیر المومنین مجھ کو تو فقط اس کے حساب و کتاب سے مطلب ہے اس کا دین اس کے لیے ہے۔

عمر فاروقؓ۔ لا اکر مهم اذہانہم اللہ ولا اعزہم اذا ذلہم اللہ ولا اذینہم اذا قضاہم اللہ تعالیٰ۔ (اتقاء العرطہ السقیم)

ترجمہ = فاروق اعظمؓ نے فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں کا ہرگز اعزاز اور اکرام نہ کروں گا جن کو خدا نے ذلیل اور حقیر قرار دیا۔ اور ان لوگوں کو ہرگز اپنے قریب جگہ نہ دوں گا۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے دور رکھنے

کا حکم دیا ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ فاروق اعظمؓ نے ابو موسیٰؓ کو اس پر زجر اور توبیح کی اور یہ فرمایا۔

لَا تَدْنُهُمْ وَقَدْ أَقْصَاهُمْ اللَّهُ وَلَا تَكْرِمُهُمْ وَقَدْ لَهَا نَهْمُ اللَّهِ وَلَا تَأْمَنُهُمْ
وَقَدْ خُونُهُمْ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَسْتَعْمَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحْلُونَ
الرِّشَاوَةَ اسْتَعِينُوا عَلَىٰ أُمُورِكُمْ وَعَلَىٰ رِعْيَتِكُمْ بِالَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهَ
تَعَالَىٰ۔

(تفسیر قرطبی صفحہ ۱۷۹ جلد ۴)

ترجمہ = کافروں کو اپنے قریب جگہ مت دو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو دور رکھنے کا حکم دیا ہے ان کا اعزاز اور اکرام نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اہانت کا حکم دیا ہے۔ ان کو امین اور امانت دار نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خائن بتلایا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہود اور نصاریٰ کو کوئی عمدہ نہ دو۔ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلہ میں رشوت لینے کو حلال سمجھتے ہیں۔ امور سلطنت اور امور رعیت میں ایسے لوگوں سے امداد لو جو خدا ترس ہوں۔

امام ابو بکر رازی احکام القرآن صفحہ ۳۷۷ جلد ۲ میں لکھتے ہیں۔

وقد روی عن عمر انه بلغه ان ابا موسى استكتب رجلا من اهل
الذمة فكتب اليه يعنفه وتلا۔ يا ايها الذين امنوا اتخذوا بطانة من
دونكم الايت۔

ترجمہ = ایک روایت میں ہے کہ فاروق اعظمؓ کو یہ خبر پہنچی کہ ابو موسیٰؓ نے ایک نصرانی کو اپنا کاتب مقرر کیا ہے۔ فاروق اعظمؓ نے اسی وقت ان کو ایک تونبی اور تمیدیٰ خط لکھا۔ اور اس میں یہ آیت لکھی۔

مسئلہ کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ہم پوری آیت مع ترجمہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

ياايها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفى صدورهم اكبر قدبيننا لكم الآيات ان كنتم تعقلون ها انتم لولاء تجبو نهم و لا يحبونكم وتو منون بالكتاب كله واذا القوكم قالوا امنا و اذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ان تمسككم حسنة تسؤهم و ان تصبكم سيئة يفر جوابها وان تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط ○

ترجمہ = اے ایمان والو نہ بناؤ بھیدی کسی کو اپنوں کے سوا۔ وہ کمی نہیں کرتے تمہاری خرابی میں۔ ان کی خوشی ہے۔ تم جس قدر تکلیف میں رہو۔ نکل پڑتی ہے۔ دشمنی ان کی زبان سے اور جو کچھ مخفی ہے ان کی جی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ ہم نے بتا دیئے تم کو پتے۔ اگر تم کو عقل ہے۔ سن لو! تم لوگ ان کے دوست ہو اور وہ تمہارے دوست نہیں اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو۔ اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر اٹھکیاں غصہ سے تو کہہ مرو تم اپنے غصہ میں۔ اللہ کو خوب معلوم ہیں دلوں کی باتیں۔ اگر تم کو سے کچھ بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو اور اگر تم پر پہنچے کوئی برائی تو خوش ہوں اس سے اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو۔ تو کچھ نہ بگڑے گا تمہارا ان کے فریب سے۔ بیشک جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ سب اللہ کے بس میں ہے۔

(ترجمہ شیخ الندبہج فوائد مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہما)

حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فاروق اعظم کا وہ اثر جو ہم نے نقل کیا ہے ذکر کر کے فرماتے ہیں۔

ففي هذا الاثر مع هذه الاية دليل على ان اهل الذمة لا يجوز

استعمالہم فی الکتابۃ النبی فیہا استنطالۃ علی المسلمین و
اطلاع علی دواخل امور ہم التی یخشی ان یفشوہا الی الاعداء
من اهل الحرب ولہذا قال تعالیٰ لایالونکم خیبالا و دوا ما عنتم
(تفسیر ابن کثیر صفحہ ۲۷۴ جلد ۲)

ترجمہ = فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول میں بیع آیت کریمہ اس
امر پر دلیل ہے کہ اہل الذمہ کو ایسے تحریری کاموں میں ملازم رکھنا جس
کی وجہ اہل اسلام پر ان کی تعدی لازم آتی ہو اور مسلمانوں کے داخلی
امور پر مطلع ہونے کے بعد کفار اور دشمنان اسلام کی طرف جاسوسی کا
خطرہ ہو جائز اور حلال نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ لایالونکم
خیبالا۔ الخ

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس بصیرت افروز اور سیاست آموز مکالمہ
سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ غیر مسلموں پر اعتماد فقط شریعت ہی کے خلاف نہیں۔
بلکہ تدبیر اور سیاست کے بھی خلاف ہے اور یہ واضح فرما دیا کہ غیر مسلم کو ملازمت
دینے کے لیے یہ عذر کہ ہم کو صرف ان کی خدمات درکار ہیں۔ ان کے مذہب سے
کوئی سروکار نہیں۔ یہ عذر سراسر پوچ اور بیکار ہے۔ تم کو دین اسلام سے کوئی
سروکار نہیں۔ تو اس کافر کو تو اپنے مذہب سے سروکار ہے اور تمہارے مذہب سے
اس کو خصومت اور پیکار ہے۔ تم بے خبر اور غافل ہو اور وہ بڑا ہوشیار ہے۔ اس
کافر کو ہر وقت یہ فکر ہے کہ اس کی قوم عزیز اور سر بلند ہو اور اسلام اور مسلمان
ذلیل اور خوار ہوں۔ قال تعالیٰ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔

مرتد کا شرعی حکم

اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے جو قرآن کریم اور حدیث نبوی اور اجماع
سے ثابت ہے۔ مرتدین کا سزائے ارتداد پر شور و غوغا ایسا ہی ہے جیسا کہ چور اور
ڈاکو کو قلع ید (ہاتھ اور پیر کاٹنے) اور سولی پر لٹکانے کی سزا پر شور و غوغا برپا کرتے

ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چور اور ڈاکو کے ہاتھ اور پیر کاٹنا خلاف تہذیب ہے۔ سبحان اللہ حق تعالیٰ نے چوروں اور ڈاکوؤں کی جو سزا تجویز فرمائی وہ تو ان حضرات کے نزدیک خلاف تہذیب ہے مگر چوری ان حضرات کے نزدیک خلاف تہذیب نہیں۔ اور علی ہذا زنا کاری اور شراب خوری کی سزا جلد اور رجم بھی ان کے نزدیک خلاف تہذیب ہے مگر زنا اور شراب خوری۔ بے حیائی اور بد مستی خلاف تہذیب نہیں۔ اور قانون مارشل لاء۔ حکومت کے مرتد کی سزا ہے ادنیٰ عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ تمکواری سے فقط مرتد کی گردن اڑا دینا اتنا شدید نہیں جتنا کہ زندوں پر بے دریغ گولیاں چلانا اور ان پر آگ برسانا۔

اگر کوئی شخص سرے ہی سے اسلام میں داخل نہ ہو تو اسلام کی توہین نہیں۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہونے میں اسلام کی زیادہ توہین ہے۔ جس طرح رعایا بن جانے کے بعد باغی ہو جانے میں حکومت کی زیادہ توہین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رعایا بن جانے کے بعد باغی کی سزا سخت ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ جو اس سلطنت کی رعایا ہی نہیں بلکہ کسی دوسری سلطنت کی رعایا ہے۔ جو شخص ابتدا ہی سے مخالف ہو وہ اتنا مضر نہیں جتنا کہ محبت اور موافقت کے بعد۔ مخالفت کرے۔ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی بات تو ہو گی کہ دوستی کے بعد دشمنی پر آمادہ ہوا۔ چنانچہ بعض یہودیوں نے اسلام کو اسی طرح بدنام کرنے کی کوشش کی۔

وقالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا
وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔

ترجمہ = یہودیوں کی ایک جماعت نے بطور چالاکی یہ کہا کہ کچھ آدمی صبح کے وقت مسلمانوں کی کتاب پر ظاہراً "ایمان لے آئیں اور شام کے وقت مکر ہو جائیں اور لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمیں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ وہ نبی نہیں کہ جن کی توریت میں بشارت دی گئی۔

شاید اس طریق سے بہت سے ضعیف الایمان اسلام سے مرتد ہو جائیں۔

اور سمجھ لیں کہ اسلام میں ضرور کوئی عیب دیکھا ہو گا کہ اسلام میں جو داخل ہونے کے بعد پھر اس سے نکلے۔ غرض یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہونا اس میں اسلام کی سخت توہین اور تذلیل ہے اس لیے شریعت میں مرتد کی سزا بھی سخت ہے۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اس مقام پر بعض لوگ ان آیات قرآنیہ کو پیش کرتے ہیں۔ جن میں مرتد کی سزا فقط لعنت اور حبط اعمال ذکر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ قتل مذکور نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ قتل عمد کے متعلق فقط لعنت اور غضب کا ذکر فرمایا ہے مگر قصاص کا ذکر نہیں فرمایا۔ تو یہ اس کی دلیل نہیں بن سکتا کہ قتل عمد پر قصاص نہیں کما قال تعالیٰ ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاءہ جہنم خالدًا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعدلہ عذابا عظیمًا۔ پس جس طرح قتل عمد کی سزا یعنی قصاص دوسری جگہ ہے اس غضب اور لعنت کے ساتھ شامل کر لیا گیا۔ اسی طرح ان آیات مرتد بن کے ساتھ جن میں فقط لعنت اور حبط اعمال کا ذکر ہے ان آیات اور احادیث کو بھی شامل کر لیا جائے جن میں قتل مرتد کا ذکر ہے۔

اب ہم مسئلہ زیر بحث یعنی قتل مرتد کے دلائل بالترتیب ذکر کرتے ہیں۔

مرتدین کے حق میں قرآن کریم کا فیصلہ

یا ایہا الذین امنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف ینال اللہ بقوم یحبہم و یحبونہ اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین یجاہلون فی سبیل اللہ ولایخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ واسع علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین امنوا الذین یقیمون الصلوۃ و یؤتون الزکوۃ و ہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین امنوا فان حزب اللہ ہم الغالبون ○

ترجمہ = اے ایمان والو جو تم سے اپنے دین سے پھر جائے گا تو مرتد ہو کر اپنا ہی نقصان کرے گا دین اسلام کو کوئی ضرر نہ ہو گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان مرتدین کے مقابلہ کے لیے ایسی قوم لائے گا کہ جن کو اللہ محبوب رکھتا ہو اور وہ اللہ کے عاشق ہوں گے خدا کے محبین اور عاشقین یعنی مسلمانوں کے حق میں نرم اور متواضع اور کافروں کے حق میں جنہوں نے خدا اور رسول کے مقابلہ میں سر اٹھا رکھا ہے ان کے حق میں سخت اور زبردست ہوں گے خدا کی راہ میں ان مرتدین سے جہاد و قتال کریں گے اور مرتدین کے مقابلہ اور مقاتلہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہ ڈریں گے۔ مثلاً اگر مرتدین کے جہاد و قتال پر کوئی یہ طعنہ دے کہ قتل مرتد خلاف انسانیت ہے تو ان کو اس ملامت اور طعن کی ذرہ برابر پرواہ نہ ہوگی۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے محبین اور محبوبین کو مرتدین سے جہاد و قتال کی توفیق دی۔ جس کو چاہتا ہے اس کو اس قسم کی توفیق دیتا ہے۔ اور اللہ بڑی بخشش والا اور خبردار ہے خوب جانتا ہے کہ کون اس اعزاز اور اکرام کا مستحق ہے کہ اس کے ہاتھ سے مرتدین کی سرکوبی کرائی جائے۔ اور اے مسلمانو تم یہود اور نصاریٰ کی موالات اور ان کے تعلقات پر ہرگز نظر نہ کرنا۔ جزایں نیست کہ تمہارا ولی اور معین و مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ہیں۔ یعنی وہ اہل ایمان جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے اور اس کے دشمنوں سے بے دغدغہ ملامت۔ عاشقانہ اور والمانہ جہاد و قتال کرے تو ایسا شخص بلاشبہ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت سے ہے اور انجام کار اللہ ہی کی جماعت شیطان کی جماعت پر غالب رہتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرہ نے اس آیت شریفہ کے متعلق

اپنی کتاب ازالۃ الخفاء میں مفصل کلام فرمایا۔ اس وقت ہم اس کا خلاصہ اور اقتباس پیش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین امنوا من یرتد الایۃ اس آیت سے دو چیزوں کا بیان کرنا مقصود ہے ایک اس حادثہ اور فتنہ کی خبر دینا ہے کہ جو حضورؐ کے وفات سے پچھتر پیش آیا اور بعد میں ترقی کر گیا۔ یعنی فتنہ ارتداد اور دوسرے اس فتنہ کے انداد کی تدبیر بتلانا کہ جو اللہ تعالیٰ نے غیب الغیب میں اس کے لیے مقرر فرمائی ہے تاکہ جس وقت وہ فتنہ نمودار ہو تو دل مضطرب اور پریشان نہ ہو۔ پیش آنے سے پہلے ہی اس سے واقف اور باخبر ہوں اور تاکہ جس وقت وہ ظاہر ہو تو اس کو انداد کے لیے اس تدبیر کو اختیار کریں جو حق تعالیٰ نے بتلائی ہے اور اپنی ہمت اور سعی اور جدوجہد سے دریغ نہ کریں اور اس تدبیر کو حد اتمام تک پہنچانے کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔

اس حادثہ اور فتنہ کی شرح تو یہ ہے کہ حضور کے اخیر زمانہ میں عرب کے کچھ فرقے مرتد ہو گئے۔ بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی قوم نے اس کی تصدیق کی اور ایک فتنہ عظیم برپا کیا۔ جیسے اسود حنسی اور مسیلہ کذاب اور علیہ اسدی اور پھر شاہ صاحب نے مختصراً "ان مدعیان نبوت کے دعوائے نبوت اور ان کے قتل کا حال بیان فرمایا جس کو عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ مدعیان نبوت کے باب میں مفصل ذکر کریں گے۔

اور عرب کے بعض فرقے اسلام سے مرتد ہو کر اپنے قدیم مذہب کی طرف لوٹ گئے۔ اور ایک فرقہ نے فقط زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ باقی اسلام کی کسی اور چیز کا انکار نہیں کیا نہ توحید کا نہ رسالت کا نہ نماز کا اور نہ روزہ کا اور نہ حج کا اور الذکر دو فریق کے قتل و قتال میں صحابہ کرامؓ کو کوئی تردید نہ ہو۔ اس آخری فرقہ یعنی مہمیین زکوٰۃ کے بارہ میں حضرت عمرؓ کو تردید ہو اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے کیسے قتال کرتے ہیں۔ صدیق اکبرؓ نے فرمایا خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا (یعنی نماز کا اقرار کرے اور زکوٰۃ کا انکار کرے) میں ضرور اس سے جماؤ قتال کروں گا۔ یعنی اگرچہ وہ لا الہ الا

اللہ پڑھتا ہو اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ایک بکری کا بچہ یا رسی بھی جو رسول اللہ کے زمانہ میں دیا کرتے تھے نہ دیں گے تو میں ان سے جہاد و قتال کروں گا۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں آگیا کہ یہی حق ہے۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔

(راجع احکام القرآن للجصاص ص ۸۲ ج ۳ و عمدة القاری ۸۲-۸۱ ج ۲۳ باب قتل من ابی قول الفرائض)

اور اس تدبیر کی شرح جو حق جل شانہ نے اس حادثہ میں مقرر فرمائی یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے مرتدین سے جہاد و قتال کا داعیہ صدیق اکبر کے قلب معطر پر القا فرمایا اور ان کے دل میں اس کا اہتمام اور فکر خاص طور سے ڈال دیا اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا جو آنحضرت ﷺ نے اس فتنہ کے بارہ میں فرمایا۔
العصمة فیہا السیف رواہ حذیفہ فتنہ ارتداد میں بچنے کی صورت صرف تکواری ہے۔

اکثر صحابہؓ اس تیسرے فرقہ یعنی مانعین زکوٰۃ کے جہاد و قتال کے بارہ میں ابتداءً متردد تھے کہ یہ لوگ اہل قبلہ ہیں اور کلمہ گو ہیں۔ ان سے کیسے جہاد و قتال کیا جائے۔ مگر جب صدیق اکبرؓ نے اپنی تکواری زیب دوش کی اور تھانگنے کے لیے تیار ہو گئے اس وقت صحابہؓ نے دیکھ لیا کہ سوائے جہاد میں جانے کے کوئی مفر نہیں تو عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ آپ بیٹھے ہم جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ابتداءً میں ہم مانعین زکوٰۃ سے لڑنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن بعد میں جب ہم پر حقیقت منکشف ہوئی تو ہم ابو بکرؓ کے شکر گزار ہوئے۔

(کذانی ازاد الخفاء ص ۲۳، ۲۴، ۲۵)

حافظ عسقلانی فتح الباری صفحہ ۳۴۴ جلد ۱۲ میں لکھتے ہیں کہ مرتد ہونے والے تین قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو شرک اور بت پرستی کی طرف لوٹ گئے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو کسی مدعی نبوت کے پیرو ہو گئے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو اسلام پر قائم تھے۔ لیکن صرف زکوٰۃ کے منکر تھے اور یہ

تاول کرتے تھے کہ زکوٰۃ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مخصوص تھی اور خدمن اموالہم صدقۃ نظہر ہم و تزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم کا خطاب (جس میں زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم ہے) نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ فاروق اعظمؓ کو اس تیرے گروہ کے قتال کے بارہ میں کچھ ترس تھا۔ صدیق اکبرؓ اس گروہ کے قتال اور جہاد پر تلے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ پھر میری سمجھ میں آگیا اور مجھ کو شرح صدر ہو گیا کہ یہی حق ہے۔

(بخاری صفحہ ۲۳۴ جلد ۱۲، صفحہ ۲۳۵ جلد ۱۲)

یعنی یہ سمجھ میں آگیا کہ فرائض دین اور شعائر اسلام اور ضروریات دین میں ایسی مہمل تاول کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسی تاولیوں کی وجہ سے آدمی کفر اور ارتداد سے نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے اس پر ایک باب قائم فرمایا۔ وہ یہ ہے۔ باب من ابی قبول الفرائض و مانسبوا الی الردف جو شخص فرائض دین میں سے کسی ایک فریضہ کو بھی قبول نہ کرے تو وہ کافر اور مرتد ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کے لیے محض کلمہ گو اور مدعی اسلام ہونا کافی نہیں جب تک کہ تمام احکام کو قبول نہ کرے۔

امام ابن جریر طبریؒ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبرؓ نے ان مانعین زکوٰۃ کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے ایک لشکر روانہ کیا:

حتی سببی و قتل و حرق بالنیران انا ساء لوتد و اعن الاسلام و
منعوا الزکوٰۃ فقاتلہم حتی اقر و ابا الماعون (تفسیر ابن جریر ص ۱۸۳)
(۱۷)

یہاں تک ان لوگوں کو قید کیا اور قتل کیا اور ان کے گھروں میں آگ لگائی جو اسلام سے مرتد ہوئے اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تا آنکہ انہوں نے اس امر کا اقرار کیا کہ حقیر سے حقیر چیز بھی نہ روکیں گے۔

امام محمد بن حسن شیبانی سے منقول ہے کہ جو بستی ترک اذان یا ترک ختان پر متعلق ہو جائے یعنی اس پر متعلق ہو جائے کہ ہم بغیر اذان کے نماز پڑھیں گے اور

ختمہ نہیں کرائیں گے تو بادشاہ اسلام کے ذمہ ان سے جہاد و قتال واجب ہے۔
امام ابو بکر رازی احکام القرآن صفحہ ۸۲ جلد ۳ سورہ توبہ کی تفسیر میں
فرماتے ہیں۔

قد كانت الصحابة سبب ذراری مانعی الزكوة وقتلت مقاتلتهم و
سموهم اهل الردة لانهم امتنعوا من التزام الزكوة و قبول وجوبها
فكانوا مرتدين بذلك لان من كفر بآية من القرآن فقد كفر به
كله و على ذلك اجري حكمهم ابو بكر الصديق مع سائر
الصحابة حين قاتلواهم و بدل على انهم مرتدون بامتناعهم من
قبول فرض الزكوة ماروى معمر عن الزهري الخ ثم ساق
الروايات فى ذلك اتى ان قال فاخبر جميع هؤلاء الرواة ان الذين
لرئدوا من العرب انما كان ردتهم من جهة الخ

صحابہ رضی اللہ عنہم نے مانعین زکوٰۃ کی اولادوں کو قید کر لیا تھا اور ان
کے مردوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور انہیں اہل ردة کا لقب دیا تھا۔ کیونکہ
انہوں نے زکوٰۃ کے التزام اور تسلیم و جوب سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر
انہیں مرتد قرار دیا گیا تھا۔ کیونکہ جو شخص ایک آیت قرآنی کے ساتھ
انکار کر لے تو اس نے تمام قرآن کا انکار کر دیا۔ (جیسا کہ سرکاری ایک
قانون کا انکار بغاوت سمجھا جاتا ہے) ابو بکر صدیق ؓ نے بھی تمام صحابہ
کے اتفاق کے ساتھ اس وجہ سے ان پر حکم قتل جاری کر دیا۔

ان کے زکوٰۃ کے فریضہ کو انکار و عدم قبول کی وجہ سے مرتد ہو جانے
پر دلیل وہ روایات ہیں جو زہری سے معمر نے روایت کی ہیں۔ اس کے
بعد علامہ ابو بکر رازی نے وہ روایات نقل فرمائی ہیں۔ پھر یہ فرمایا کہ ان
تمام روایان حدیث کے بیان سے معلوم ہوا۔ کہ جو لوگ عرب کے مرتد
ہوئے تھے۔ ان کا ارتداد بوجہ انکار زکوٰۃ کے تھا۔

لطائف و معارف

(۱) فسوف یاتی اللہ بقوم الخ یعنی اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک قوم لائے گا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو قوم مرتدین سے جماد و قتال کرے گی۔ وہ قوم خدا تعالیٰ کی آوروہ اور پسندیدہ ہوگی۔

(۲) پھر آئندہ آیت میں اس قوم کی چھ صفیتیں ذکر فرمائیں اول و دوم (یحسبہم) یحبونہ یعنی اللہ تعالیٰ انکو محبوب رکھے گا۔ اور وہ اللہ کو محبوب رکھیں گے۔ یہ دو صفیتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق خدا اور بندہ کے درمیان ہے۔ سوم و چہارم اذلت علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یعنی مسلمانوں کے حق میں نرم اور کافروں کے حق میں گرم ہوں گے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم جیسے جبریل امین اہل ایمان کے لیے باعث رحمت ہیں اور کافروں کے لیے موجب ہلاکت ہیں۔ بنزلہ جارحہ ایہ کے ہیں، کبھی رحمت و برکت کا ظہور ہوتا ہے اور کبھی اہلاک و اخلاف کا صدور ہوتا ہے ان دو صفتوں کا تعلق بندوں کے باہمی روابط اور تعلقات سے ہے۔ صفت پنجم، جماد فی سبیل اللہ یعنی خدا سے سرکشی اور گردن کشی کرنے والوں کی سرکوبی اور گردن کشی میں اپنی پوری جدوجہد کو پانی کی طرح سے بے دریغ بہا دینا یہ حقیقت ہے جماد کی۔ صفت ششم کسی ملامت اور طعن کی پرواہ نہ کرنا بسا اوقات آدمی کسی چیز کو حق سمجھتا ہے مگر بدنامی اور لوگوں کی ملامت اور طعن و تشنیع کی وجہ سے حق کی نصرت اور حمایت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس صفت میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مرتدین سے جماد و قتال کرنے والی قوم خدا کی ایسی عاشق و جان نثار اور نشہ عشق و محبت میں ایسی سرشار ہوگی کہ مرتدین سے جماد و قتال کے بارہ میں ان کو ذرہ برابر کسی ملامت اور طعن کا خیال بھی نہ آئے گا۔

گرچہ بدنامی است نزد عاقلان
مانی خواہیم ننگ و نام را
واذا الفتی عرف الرشاد لنفسه

هانت عليه ملامة العدل

بلکہ بعض مرتبہ غلبہ محبت میں ملامت لذیذ معلوم ہونے لگتی ہے۔

اجد الملامة في هواك لذیذة

حبا لذكرک فلیلمتی اللوم

مرتدین کے اصل مارنے والے اور عذاب دینے والے حق جل شانہ

ہیں۔ اور مجاہدین کے ہاتھ بمنزلہ تیر اور تلوار کے ہیں۔ قال تعالیٰ

قاتلوهم یعذبهم اللہ بایدیکم

ترجمہ = تم ان کافروں سے قتل کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فٹا یہ ہے کہ ان

کافروں کو تمہارے ہاتھ سے سزا دلائے۔

مگر چونکہ اصل مارنے والا یعنی حق تعالیٰ شانہ نظروں سے پوشیدہ ہے اس

لیے قاصر الفہم ان مجاہدین پر طعن اور ملامت کے آوازے کتے ہیں کہ تم کس

وحشت اور بربریت پر کمر بستہ ہو۔ مجاہدین کہتے ہیں کہ اے نادانوں۔ ہم تو خداوند

کردگار کے تیر اور تلوار ہیں ہمیں کیا طعن اور کیسی ملامت، کیا کسی عاقل نے تیر

اور تلوار کو بھی ملامت کی ہے۔ کسی کا شعر ہے۔

فانت حسام الملک واللہ ضارب۔۔۔ وانت لواء الدین واللہ عاقد

ترجمہ = تو تو بادشاہ کی تلوار ہے اور اللہ مارنے والے ہیں۔ اور تو دین کا

علم ہے اس کے نصب کرنے والے اڑا۔ تعالیٰ ہی ہیں۔

اور انما ولیکم اللہ ورسولہ سے مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے کہ تم

اپنی کمزوری کی وجہ سے پریشان اور مضطرب نہ ہونا۔ اللہ اور اس کا رسول اور اس

کے مومن بندے تمہارے معین اور مددگار ہیں۔

قتل مرتد پر اعتراض کرنے والے بھی عجب نادان ہیں۔ ایک معمولی بادشاہ

اور صدر جمہوریہ کی بغاوت پر ہر قسم کی بربادی اور بمباری کو فقط جائز ہی نہیں

رکھتے بلکہ اس کو عین سیاست اور عین حکمت اور فرائض سلطنت اور حقوق مملکت

سے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ صدر جمہوریہ جاہلوں کی ایک جم غفیر اور احمقوں کی ایک

بھیڑ کے دوٹوں سے صدر بنا ہے ایسے صدر جمہوریہ کے باغیوں کے لیے سخت سے سخت سزا ان روشن خیالوں کے نزدیک روا ہے۔ اور احکم الحاکمین سے بغاوت کرنے والوں اور اس کے خلفاء اور وزراء یعنی حضرات انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے مقابلہ اور مقابلہ کرنے والوں سے جہاد و قتال خلاف تہذیب اور خلاف انسانیت ہے نبوت اور بادشاہت میں بس یہی فرق ہے۔ بادشاہ ملک اور سلطنت اور دنیاوی مصالح کے لیے جنگ کرتا ہے۔ اور نبی جو کچھ کرتا ہے وہ محض اللہ کے لیے کرتا ہے۔ سیدنا داؤد و سیدنا سلیمان کی بے مثال حکومت ان کی نبوت کا معجزہ تھا اور خداوند ذوالجلال کی بے چون و چگون حکومت کا ایک معمولی سا عکس اور پرتو تھا۔ نام داؤد اور سلیمان کا تھا اور اندرونی طور پر تمام احکام احکم الحاکمین کے تھے۔ خلفاء راشدین کا دور خلافت حضرت سلیمان کی حکومت کا ایک نمونہ تھا۔ اب اس نمونہ کا اعادہ امام مہدی علیہ الرحمۃ کے ظہور اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول پر ہو گا انشاء اللہ تعالیٰ (تبرکالات علیقا)

مرتد کا فیصلہ حدیث رسول ﷺ سے

(۱) صحیح بخاری شریف باب حکم المرتد والمرتدة (بخ الباری ۲۲۷ ج

۱۲) میں حضرت عکرمہ سے مروی ہے۔

انسی علی بزنادقة فاحرقہم

ترجمہ = حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے چند زندیق۔ اور ملحد لوگ حاضر کئے گئے آپ نے سب کو آگ میں جلانے کا حکم دیا اور جلا دیئے گئے۔

اور سنن ابی داؤد صفحہ ۵۹۸ جلد ۲ کتاب الحدود باب الحکم فی من ارتد میں

یہ لفظ ہیں۔

عن عکرمۃ ان علیا احرق اناسا ارتدوا عن الاسلام۔

ترجمہ = حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان چند آدمیوں کو آگ میں جلا دیا جو اسلام سے مرتد ہو گئے تھے۔

معلوم ہوا کہ یہ زنادقہ مرتدین تھے۔ حضرت ابن عباسؓ کو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس عمل کی خبر ہوئی تو یہ فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو آگ میں نہ ڈالتا۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہے۔

لا تعذبوا بعذاب اللہ

اللہ کے عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو یعنی آگ میں نہ ڈالو۔ کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔

بلکہ میں ان مرتدین کے قتل پر اکتفا کرتا..... کیونکہ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے۔

من بدل دینہ فاقتلوه جو شخص دین اسلام کے بدلہ دوسرا دین اختیار کر

لے، اس کو قتل کر ڈالو۔ (سنن ابی داؤد صفحہ ۵۹۸ جلد ۲ میں ہے)

فبلغ ذلك عليا فقال وضح ابن عباس۔

ترجمہ = ابن عباسؓ کا یہ قول حضرت علیؓ کو پہنچا تو یہ فرمایا شاباش ہو، ابن عباسؓ کو۔

حافظ عسقلانی ابوداؤد کی اس زیادتی کو نقل کر کے فرماتے ہیں ممکن ہے کہ حضرت علیؓ کا یہ قول وضح ابن عباسؓ تصویب اور استحسان کے لیے ہو اور وضح کے معنی واہ واہ کے ہوں۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ کلمہ وضح اس مقام میں اظہار ناپسندیدگی کے لیے معنی افسوس ہو یعنی افسوس ابن عباسؓ پر کہ بغیر تامل اور تفکر کے مجھ پر اعتراض کر دیا۔

اور مقصود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ہوا کہ بے شک آگ میں جلانا پسندیدہ امر نہیں لیکن حرام بھی نہیں۔ اور اگر زجر و توبخ کے لیے اس قسم کے مجرمین کو آگ میں ڈلوا یا جائے تو کوئی مضائقہ بھی نہیں اور ممکن ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ مذہب ہو کہ امام کو اختیار ہے کہ کسی مرتد کو مخطیظ اور تشدید کے لیے آگ میں جلا دے جیسا کہ ہم عنقریب معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعریؓ سے نقل کریں گے کہ ان کے نزدیک بھی عبرت کے لیے مرتد کو آگ میں ڈالنا جائز

تھا۔ (فتح الباری صفحہ ۲۳۹ جلد ۱۲ باب حکم المرتد و المرتدة)

تنبیہ

قتل کر کے آگ میں ڈال دینا بالاتفاق جائز ہے۔ کلام احراق حسی میں ہے۔ بظاہر حضرت علیؑ نے قتل کے بعد جلایا۔ مسئلہ تعذیب حیواں بالنار کے لیے شرح سیر کبیر صفحہ ۲۷۳ جلد ۲ کی مراجعت کی جائے۔

(۲) یمن فتح ہونے کے بعد حضور پر نورؐ نے یمن کے ایک علاقہ پر ابو موسیٰ اشعریؓ کو اور ایک علاقہ پر معاذ بن جبلؓ کو مقرر فرمایا دونوں اپنے اپنے علاقہ میں کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبلؓ بغرض ملاقات ابو موسیٰ اشعریؓ کے پاس گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص سامنے بندھا کھڑا ہوا ہے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، ابو موسیٰ نے کہا کہ یہ شخص مرتد ہے پہلے یہودی تھا۔ مسلمان ہو گیا تھا۔ پھر یہودی ہو گیا۔ اور آپ تشریف رکھے اور ایک نکیہ بھی معاذ بن جبلؓ کے لیے رکھ دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔

لاجلس حتی یقتل قضاء اللہ ورسولہ ثلاث مرات فامر بہ فقتل
وفی رواۃ ابوب بعد قوله قضاء اللہ ورسولہ ان مع رجوع عن دینہ
لور قال بدل دینہ فاقتلوه وفی رواۃ عنہ

ترجمہ = کہ میں اس وقت تک ہرگز نہ بیٹھوں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے۔ مرتد کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کا یہی فیصلہ ہے کہ جو دین اسلام سے مرتد ہو جائے اس کو قتل کر ڈالو۔ اس لفظ کو تین بار فرمایا۔ اسی وقت اس کے قتل کا حکم دیا گیا۔ اور وہ قتل کر دیا گیا۔

اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

واللہ لا تعد حتی تضرب بوا عنقه فاضرب عنقه وفی رواۃ الطبرانی
التی اشترت الیہا فاتی بحطب فالہب فیہ النار فکتفہ و طرحہ
فیہا ویمکن الجمع بانہ ضرب عنقہ ثم القاہ فی النار و یوخذمنہ
ان ابا موسیٰ و معاذا کانا یریان جوار التعذیب بالنار و احراق

المیت بالنار مبالغۃ فی اہانتہ وترہیباً عن الاقتداء بہ۔

(بخاری صفحہ ۲۳۳ جلد ۱۲ باب عم المرتد و المرتدة)

ترجمہ = خدا کی قسم میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا۔ جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑادو۔ چنانچہ اسی وقت اس کی گردن اڑادی گئی۔ اور مجھ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ ایمن لایا گیا۔ اور آگ سلگائی گئی اور اس شخص کے ہاتھ پیر باندھ کر اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس روایت اور گزشتہ روایت میں کوئی منافات نہیں ممکن ہے کہ پہلے گردن ماری گئی ہو اور بعد میں آگ میں ڈالا گیا ہو۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاذ بن جبل اور ابوموسیٰ اس کے قاتل تھے کہ مرتد کو آگ میں جلاتا جائز ہے تاکہ مرتد کی خوب اچھی طرح توہین اور تذلیل ہو جائے اور لوگ اس کی پیروی سے ڈر جائیں۔

مختلف روایات سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے تھی کہ زندق اور مرتدین کو عبرت ناک سزا دی جائے۔ اول قتل فرماتے اور پھر آگ کے گڑھے میں ڈالتے۔ کما قاتل

انی اذاریت امر امنکم۔ او قدت ناری و دعوت قبراً

ترجمہ = جب میں برا اور اوپر اکام (مثلاً ارتداد) دیکھتا ہوں تو آگ جلاتا ہوں اور سزا کے لیے تمبر کو (غلام کا نام ہے) بلاتا ہوں۔

(کذا فی بخاری صفحہ ۲۳۸ جلد ۱۲)

(۳) سنن ابی داؤد صفحہ ۵۹۹ جلد ۲۔ وعن العبود ص ۲۲۵ ج ۳ اور سنن نسائی صفحہ

(۶۲۷ میں ہے)

عن ابن عباس قال کان عبداللہ بن سعد بن ابی السرح کان یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزالہ الشیطان فلحق بالکفار فامر بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل یوم الفتح فاستجار لہ عثمان فاجارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

ترجمہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن سعد - نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کاتب وحی تھے۔ شیطان نے بہکایا مرتد ہو کر کافروں سے جا ملے۔ حضور پر نورؐ نے فتح مکہ کے دن حکم دیا کہ عبد اللہ بن سعد کو قتل کر دیا جائے عبد اللہ بن سعد تائب ہو کر حاضر ہوئے اور حضرت عثمانؓ کی سفارش سے حضورؐ نے ان کو توبہ قبول کی۔ اور ان سے بیعت کی جیسا کہ ابو داؤد کی دوسری مفصل روایت میں اس کا ذکر ہے۔

اور سنن نسائی صفحہ ۶۲۹ میں ہے کہ ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہلوا و صبروا ان ربك من بعدھا الغفور الرحیم یہ آیت عبد اللہ بن سعد کے بارہ میں اتری۔

(۴) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس زمانہ میں اپنے مکان میں محصور تھے تو ایک دن یہ فرمایا کہ یہ بلوائی مجھ کو قتل کی دھمکی دیتے ہیں نہ معلوم کس بنا پر مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔

وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لایحل دم امری مسلم الا باحدی ثلاث۔ رجل کفر بعد اسلامه لوزنی بعد احصائه لو قتل نفسا بغير حق۔ واللہ ما زینت فی جاہلیة ولا اسلام قط ولا قتلت نفسا ولا تمنیت بدینی بدلا مذهبانی اللہ عزوجل للاسلام فبیم یقتلوننی۔

(سنن نسائی صفحہ ۶۲۳ باب ما سئل بہ دم المسلم سنن کبری امام بیہقی صفحہ ۱۹۳ جلد ۸ باب قتل من ارتد عن الاسلام)

ترجمہ = حالانکہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے (۱) کوئی شخص اسلام کے بعد کافر اور مرتد ہو جائے (۲) یا محسن یعنی شادی کے بعد زنا کرے (۳) یا کسی کو ناحق قتل کرے۔ خدا کی قسم

میں نے نہ کبھی زمانہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ زمانہ اسلام میں اور نہ کسی کا ناحق خون کیا۔ اور دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد کبھی دل میں یہ خطرہ بھی نہیں گزرا کہ دین اسلام کے بدلہ میں کسی اور دین میں داخل ہو جاؤں پھر کس لیے مجھ کو قتل کرتے ہیں۔

(۵) صحیح بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

لا یحل دم امری الا باحدی ثلاث الشیب الزانی والنفس بالنفس
والنارک لدینہ المفارق للجماعة۔

ترجمہ = مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین باتوں میں سے ایک بات کی وجہ سے (۱) عمن یعنی شادی شدہ اگر زنا کرے تو رجم (سنگسار) کیا جائے (۲) قصاص (۳) جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر جماعت مسلمین سے علیحدہ ہو گیا ہو۔

حافظ عسقلانی شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ترک دین سے دین اسلام سے مرتد ہونا مراد ہے اور مفارقت جماعت سے۔ جماعت مسلمین سے علیحدہ ہونا مراد ہے۔ جو مرتد ہو وہ زمرہ اسلام اور جماعت مسلمین سے خارج ہوا۔ اور المفارق للجماعة کی صفت۔ التارک لدنیہ کا تمہ اور تکلمہ ہے۔ ورنہ موجبات قتل تین نہ رہیں گے بلکہ چار ہو جائیں گے۔ (فتح الباری صفحہ ۱۷۷ جلد ۲ کتاب الدیات باب قول اللہ تعالیٰ ان النفس بالنفس والعین بالعیین)

حافظ ابن رجب حنبلی۔ جامع العلوم والحکم صفحہ ۸۷ میں فرماتے ہیں۔
والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين
المسلمين۔

ترجمہ = ان تین امور میں سے ہر وجہ سے قتل کرنا تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہے۔

اور پھر تفصیل کے ساتھ تینوں باتوں پر کلام فرمایا۔ جزاء اللہ خیرا۔

تشریحات و توضیحات

(۱) آیت شریفہ مذکورہ اور احادیث مسطورہ سے یہ امر بخوبی واضح ہو گیا کہ واجب القتل ہونے کی علت فقط مرتد ہونا ہے جو مرتد ہوا وہ واجب القتل ہوا۔ خواہ محارب اور برسر پیکار ہو یا نہ ہو تنہا ہو یا جماعت ہو ارتداد کی سزا قتل ہے۔ ارتداد علیحدہ جرم اور محاربہ (یعنی برسر پیکار ہونا اور فساد مچانا) یہ علیحدہ جرم ہے۔ شریعت میں دونوں کی سزائیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ مرتد کی سزا تو قتل متعین ہے۔ اور محارب کی سزا وہ ہے جو سورہ مائدہ کی آیت محاربہ میں مذکور ہے قال تعالیٰ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا لو تقطع ایديہم ولرجلہم من خلاف لو یمنفَعوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرة عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد اور بد امنی پھیلاتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ اگر انہوں نے بد امنی میں فقط کسی کا خون کیا ہے اور مال نہیں چھینا تو ان کو قتل کیا جائے۔ اور اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو ان کو سولی پر چڑھایا جائے اور اگر فقط مال چھینا ہے مگر کسی کو قتل نہیں کیا تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں اور اگر نہ قتل کر سکے اور نہ مال چھین سکے۔ صرف تیاری ہی میں تھے کہ گرفتار ہو گئے تو جلاوطنی کی سزا دی جائے گی یعنی یا تو جیل خانہ میں ڈال دیا جائے گا۔ یا دارالاسلام سے نکال دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے۔ اور آخرت میں توبہ ہی بڑا عذاب ہے۔ مگر جن لوگوں نے تمہارے قابو پانے اور گرفتار کرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ کی حد معاف ہو جائے گی۔ اللہ بڑے غفور رحیم ہیں توبہ سے اللہ تعالیٰ کا حق معاف ہو جاتا ہے مگر بندوں کا حق توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ اگر قتل کیا ہے تو قصاص لیا جائے گا اور اگر مال لیا ہے تو اس کا ضمان دینا ہو گا۔ ان چیزوں کے معاف کرنے کا حق صاف صاحب مال اور ولی مقتول کو ہے۔

یہ محارب یعنی بد امنی اور فساد مچانے والے کا حکم ہے جو مومن اور کافر

سب کے لیے عام ہے۔ بخلاف مرتد کے کہ اس کا حکم محارب کے حکم سے بالکل جدا ہے۔ مرتد بالاتفاق قتل کیا جاتا ہے۔ مرتد کے لیے جلاوطنی اور ہاتھ پیر کاٹے جانے کی سزا نہیں۔

نیز پکڑے جانے کے بعد محارب کی توبہ مقبول اور معتبر نہیں محارب اگر پکڑے جانے سے پہلے توبہ کرے تو وہ معتبر ہے بخلاف مرتد کے کہ اس کی توبہ ہر حال میں قبول کی جائے گی خواہ پکڑے جانے سے پہلے ارتداد سے توبہ کرے یا پکڑے جانے کے بعد۔

نیز اگر محارب نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر فقط مال لوٹا ہو تو فقط ہاتھ اور پیر قطع کئے جائیں گے محارب کو قتل نہیں کیا جائے گا اور مرتد ارتداد کی وجہ سے بہر حال واجب القتل ہے۔

تشریح دوم

یہ حدیث یعنی لایحل دم امری مسلم الخ مشہور و معروف حدیث ہے۔ متعدد صحابہؓ سے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ ہم اس اختلاف کو واضح کرنا چاہتے ہیں تاکہ صحیح مراد میں کوئی التباس نہ رہے۔ بعض روایات میں زنا محسن اور قصاص کے بعد فقط ارتداد اور کفر بعد الاسلام کا ذکر ہے محاربہ کا کوئی ذکر نہیں جیسا کہ عثمان غنیؓ کی حدیث میں ہے۔

لایحل دم امری مسلم الا باحدى ثلاث رجل ارتد بعد اسلامه
لوزنی بعد احصائه لو قتل نفسا بغير نفس۔

(نسائی شریف صفحہ ۶۲۳ ذکر ما سئل یہ دم المسلم۔)

ترجمہ = حلال نہیں کسی مسلمان کا خون بہانا بغیر تین چیزوں کے ایک وہ شخص جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے یا بعد شادی شدہ ہونے کے زنا کرے یا کسی انسان کو ناحق قتل کرے۔

اور عثمان غنیؓ کی ایک روایت میں ہے لو ارتد بعد اسلامه فعليه القتل۔
(نسائی صفحہ ۶۲۹ اللهم فی المرتد)

اور اسی طرح عائشہ صدیقہؓ کی ایک روایت میں بھی یہی لفظ آیا ہے۔ لایحل دم امری مسلم الارجل زنی بعد احصانہ لو کفر بعد اسلامہ والنفس بالنفس (کذانی سنن النسائی صفحہ ۶۲۳) حافظ عسقلانی فرماتے ہیں۔ وقع فی حدیث عثمان لو یکفر بعد اسلامہ اخرجہ النسائی بسند صحیح وفي لفظ له صحیح ایضاً ارتد بعد اسلامہ وله من طریق عمر و بن غالب عن عائشہ لو کفر بعد ما اسلم وفي حدیث ابن عباس عند النسائی مرتد بعد ایمان

(فتح الباری صفحہ ۱۷۷ جلد ۱۲ کتاب الديات)

اور بعض روایات میں بجائے ارتداد اور کفر بعد الاسلام کے فقط محاربہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہؓ کی ایک روایت میں ہے لایحل دم امری مسلم الا فی احدى ثلاث رجل زنی بعد احصان فانه یرجم ورجل خرج محارباً باللہ ورسوله فانه یقتل اور یصلب لو ینفی من الارض لو یقتل فیقتل بہا۔ (ابوداؤد شریف کتاب الہود صفحہ ۵۹۸ باب الہم ین ارتد۔) عائشہ صدیقہؓ کی اس روایت میں بجائے کفر بعد اسلامہ کے رجل خرج محارباً الخ کا ذکر ہے۔ ارتداد کا ذکر نہیں فقط محاربہ کا ذکر ہے۔ اور جزا اور سزا بھی وہی مذکور ہے جو آیت محاربہ میں محاربین اور مفیدین کی ذکر کی گئی ہے یعنی قتل اور صلب اور نفی من الارض اور بعض روایات میں ارتداد اور محاربہ دونوں کا ذکر ہے۔ جیسا کہ سنن نسائی صفحہ ۶۲۷ باب الصلب میں عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے۔

لایحل دم امری مسلم الا باحدى ثلاث خصال زان محصن یرجم
لو رجل قتل رجلاً متعمداً فیقتل او جل یرجم من الاسلام
یحارب اللہ عزوجل ورسولہ فیقتل او یصلب او ینفی من
الارض انتھی۔

ترجمہ = کسی مسلمان آدمی کا خون بہانا جائز نہیں۔ بجز تین باتوں کے (۱) شادی شدہ ہو کر زنا کرے (۲) یا کسی آدمی کو ناحق قتل کرے تو بھی قتل کیا جائے گا۔ (۳) یا اسلام سے خارج ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے

ساتھ لڑائی کرے تو بھی قتل کیا جائے گیا یا سولی چڑھایا جائے گا۔ یا ملک سے جلادطن کر دیا جائے گا۔

اور صحیح بخاری کی کتاب الديات باب التسمتہ میں یہ لفظ ہیں۔ اور رجل حارب اللہ ورسولہ ولرند عن الاسلام دیکھو فتح الباری صفحہ ۲۱۲ جلد ۱۲ یہ تمام روایتیں صحیح اور درست ہیں۔ جن روایات میں فقط ارتداد کا ذکر ہے۔ وہاں اس کی سزا فقط قتل ذکر کی گئی ہے۔ اور جن روایات میں فقط محاربہ کا ذکر ہے۔ وہاں فقط قتل کا ذکر نہیں بلکہ اس سزا کا ذکر ہے کہ جو آیت محاربہ میں محاربین کی ذکر کی گئی ہے یعنی قتل اور صلب (سولی چڑھانا) اور نفی من الارض اور جن روایتوں میں ارتداد اور محاربہ دونوں کو ملا کر ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرتد کے واجب القتل ہونے کے لیے محارب ہونا بھی شرط ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر ارتداد کے ساتھ محاربہ بھی جمع ہو جائے تو پھر اس مرتد کی سزا فقط قتل نہ ہوگی۔ بلکہ اس مرتد کی سزا محاربین کی سی ہوگی۔ بادشاہ اسلام کے لیے اس مرتد کا قتل یا صلب اور قطع ایدی اور ارجل سب جائز ہوگا۔ اگر فقط مرتد ہوتا اور محارب نہ ہوتا تو فقط ارتداد کی سزا ملتی۔ اور جب ارتداد کے ساتھ محاربہ بھی جمع ہو گیا تو پھر قتل کے ساتھ صلب بھی جمع ہو سکے گا۔ خوب سمجھ لو واللہ تعالیٰ حداک اسی وجہ سے حضرات محدثین نے اول الذکر روایات کو باب المرتد میں ذکر فرمایا۔ یعنی جن میں فقط ارتداد کا ذکر تھا۔ ان کو باب حکم المرتد میں ذکر فرمایا اور جن روایات میں محاربہ کا ذکر تھا۔ ان کو کتاب المحاربین میں ذکر فرمایا۔

(راجع احکام لقرآن۔ للبحاس صفحہ ۳۰۹ جلد ۲ تفسیر القرطبی صفحہ ۱۳۷ جلد ۶ جامع العلوم والحکم

صفحہ ۸۹)

(تشریح سوم) یا ایک شبہ اور اس کا ازالہ

مرزائیوں کا یہ گمان ہے کہ قتل۔ نفس ارتداد کی سزا نہیں۔ نفس ارتداد کی سزا صرف دی ہے کہ جو نفس کفر کی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور اگر کسی مرتد کو قتل کی سزا دی گئی ہے تو وہ عارضی اسباب اور سیاسی اغراض کی وجہ سے دی

گئی ہے۔ مثلاً اس کے محارب اور برسر پیکار ہونے کی وجہ سے یا دشمنان اسلام سے ساز باز کرنے کی وجہ سے یا مخبری یا جاسوسی کی وجہ سے یا دوسروں کو خلاف اسلام جنگ پر آمادہ کرنے کی وجہ سے۔

جواب

یہ سراسر تلیس اور مغالطہ ہے۔ قرآن کریم اور حدیث میں لفظ ارتداد کے ساتھ مرتد کی سزا کو بیان فرمایا ہے کہ جو مرتد ہو گیا اس کو قتل کر ڈالو۔ ان صاف اور صریح الفاظ میں یہ تاویل کرنا کہ یہ سزا نفس ارتداد کی وجہ سے نہیں بلکہ محارب اور برسر پیکار ہونے کی وجہ سے ہے یہ ایسی ہی تاویل ہے۔ جیسے کوئی الزانیة والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة اور السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما میں یہ تاویل کرے کہ جلد (درے لگانے) اور قطع ید کی سزا محض زنا اور چوری کی وجہ سے نہیں بلکہ عارضی اسباب اور محارب ہونے کی وجہ سے ہے تو کیا کوئی عاقل اس کو تسلیم کر سکتا ہے۔

نیز اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ارتداد اور نفس کفر کی جزاء میں کوئی فرق نہیں تو پھر جن آیات میں کافروں سے جہاد و قتال کا ذکر ہے۔ اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنانے اور ان کی تمام املاک کو مجاہدین پر تقسیم کرنے کا ذکر ہے۔ وہاں کیا تاویل کریں گے کہ یہ جہاد و قتال کا حکم نفس کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ عارضی اسباب کی وجہ سے ہے۔ ہجرت کے بعد جو تمام روئے زمین کے کافروں سے جہاد و قتال کا حکم نازل ہوا کیا وہ محض کفر کی وجہ سے نہ تھا۔ ابھی اسلام کی کوئی حکومت ہی قائم نہیں ہوئی۔ جس کی بنا پر تمام کافروں پر فوج کشی کی وجہ محارب اور برسر پیکار ہونا قرار دی جائے۔

جس طرح نفس کفر کی وجہ سے کافروں سے جہاد ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ برسر پیکار نہ ہوں۔ اسی طرح نفس ارتداد کی وجہ سے مرتد کی سزا قتل ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ برسر پیکار نہ ہوں۔

جس طرح چوری اور زنا مستقل جرم ہیں اور محارب ہونا اور دشمنان

اسلام سے ساز باز کرنا ایک جداگانہ جرم ہے۔ اسی طرح نفس کفر اور نفس ارتداد مستقل جرم ہیں اور محارب اور باغی ہونا جداگانہ جرم ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہر جرم کی سزا جداگانہ ذکر کی گئی ہے۔ محاربین کا حکم علیحدہ ہے۔ جو آیت محاربہ میں مذکور ہے اور باغیوں کا حکم آیت بغاۃ میں مذکور ہے اور کافروں کا حکم علیحدہ ہے جو آیات جہاد و قتال میں مذکور ہے اور ارتداد جو کہ کفر کی ایک خاص قسم ہے اس کا حکم آیت ماندہ میں مذکور ہے۔

ارتداد اور کفر کا ایک حکم قرار دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی یہ کہے کہ قذف (تہمت لگانا) جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ لہذا قذف پر کوئی حد نہیں۔ جس طرح کاذب اللہ کا ملعون ہے اسی طرح کاذف بھی اللہ کا ملعون ہے۔ قذف کے لیے فقط اللہ کی لعنت کافی ہے بلکہ کسی گناہ پر شرعی طور پر کوئی سزا ہی نہ ہونی چاہیے۔ بلکہ جو عام گناہ کا حکم ہے وہی اس کا ہونا چاہیے۔

کیا ایک شخصی اور انفرادی باغیانہ تقریر پر بغاوت کا مقدمہ نہیں چل سکتا۔ جب تک اس مقرر کا محارب اور برسر پیکار ہونا یا اور دشمنان حکومت سے ساز باز کرنا ثابت نہ ہو جائے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ محارب ہونے کے لیے فقط تلوار سے جنگ کرنا ضروری نہیں۔ بلکہ زبان سے یا کسی قول اور فعل سے اللہ اور اس کے رسول کے مقصد کو ناکام بنانا یہ بھی حارب اللہ و رسولہ میں داخل ہے تو ہم کہیں گے کہ ارتداد میں بھی اسلام کی توہین اور تذلیل ہے اور اسلام کو اپنے مقصد میں ناکام بنانا ہے۔ اور جبکہ ہمارے مخالفین کے نزدیک مسلمانوں کی مخبری کرنا حارب اللہ و رسولہ کے حد میں داخل ہے۔ تو مرتد ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو لوگوں کی نظر میں حقیر اور بے اعتبار بنانا حارب اللہ و رسولہ.... کی حد میں کیوں داخل نہیں ہو سکتی۔

علاوہ ازیں صحابہ کرامؓ اور خلفاء راشدینؓ نے مرتدین سے جہاد و قتال کیا اور یہ کہہ کر کیا کہ تم مرتد ہو گئے ہو اس لیے تم سے جہاد و قتال کیا جاتا ہے اور جو یہود و نصاریٰ مسلمانوں کی قلمرو میں رہتے تھے ان سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ معلوم

ہوا کہ ارتداد کا حکم کفر سے کچھ ممتاز ہے اور ابتداء میں مرتدین نے فوج و لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا اس لیے صحابہؓ نے بھی ان کا مقابلہ کیا۔ یہاں ارتداد کے ساتھ محاربہ بھی جمع ہو گیا۔ جیسا کہ عرینین کے قصہ میں ارتداد اور محاربہ اور سرقہ اور رہزنی سب جمع ہو گئے تھے۔ بعد میں جب فتنہ ارتداد ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بھی جو لوگ تنہا مرتد ہوئے وہ بھی قتل کئے گئے اور محض ارتداد کی بنا پر ان کو قتل کی سزا دی گئی۔ حالانکہ وہ محارب اور برسرِ پیکار نہ تھے اور نہ انہوں نے خلافت کے خلاف باغیانہ متحدہ محاذ بنایا تھا۔

خلافت راشدہ اور مرتدین کا قتل

خلافت راشدہ میں مرتدین کا قتل تفسیر اور حدیث کے اور تاریخ کے مسلمات میں سے ہے کوئی تفسیر اور حدیث اور تاریخ کی کتاب ایسی نہیں جس میں خلفاء راشدینؓ کا مرتدین کو قتل کرنا مذکور نہ ہو۔

خلافت راشدہ میں سرزمین عرب کا وسیع رقبہ مرتدین کے خون سے رنگین ہوا لیکن اسلام کی ترقی کی رفتار اس قدر سریع اور تیز رہی کہ جس سے دنیا آج تک حیران ہے۔ سوائے اس کے کہ دین اسلام کا ایک مجرہ تھا۔ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔

معلوم ہوا کہ قتل مرتد کا مسئلہ اسلام کی ترقی میں حائل اور حارج نہیں۔ خلافت راشدہ میں بے شمار یہود و نصاریٰ اور مجوسی اور مشرکین اسلام کے حلقہ بگوش بنے۔ مگر قتل مرتدین کو دیکھ کر اسلام سے بدگمان نہیں ہوئے۔ یہ تمام یہود و نصاریٰ اسی خلافت راشدہ کے زیر سایہ آزاوند زندگی بسر کر رہے تھے اور اپنے مذہب پر قائم تھے۔ معلوم ہوا کہ قتل مرتد کا مسئلہ اسلام کو زہریلے جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ تاکہ ایمان داروں کے ایمان اس کے ارتداد سے مسموم اور متاثر نہ ہو جائیں اور سادہ لوح مسلمان اس کو دیکھ کر فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے اس فتنہ کے انداؤ کے لیے پوری قوت کے استعمال کا حکم دیا۔

قتل مرتدیر علماء امت کا اجماع

کتاب و سنت کے بعد اجماع امت کا درجہ ہے آج کل کے قوانین تو کثرت رائے سے طے پاتے ہیں اور منفرد رائے کو کالعدم سمجھتے ہیں اور اجماع امت کا درجہ تو کثرت رائے سے لاکھوں درجہ بڑھ کر ہے یہ امت کے علماء اور صلحاء کا اجماع ہے۔ جو کتاب و سنت کی روشنی اور نور تقویٰ اور نور فراست کی چاندنی میں منعقد ہوا کیسے حجت نہ ہوگا؟

(حافظ عسقلانی فتح الباری صفحہ ۱۷۷ جلد ۱۲ کتاب الديات میں فرماتے ہیں)

قال ابن دقيق العيد الردة سبب لباحة دم المسلم بالاجماع فى الرجل واما المرأة ففيها خلاف

ترجمہ = علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرتد ہونا یعنی دین اسلام سے پھر جانا بالاتفاق مرد کے حق میں موجب قتل ہے البتہ اگر عورت دین اسلام سے پھر جائے تو اس کے قتل میں اختلاف ہے حافظ بدر الدین عینی شرح بخاری میں لکھتے ہیں۔

وقال شيخنا فى شرح الترمذى وقد اجمع العلماء على قتل المرتد اذا لم يرجع الى الاسلام واصر على الكفر واختلفوا فى قتل المرتدة فجعلها اكثر العلماء كالرجل المرتد و قال ابو حنيفة لا تقتل المرتدة لعموم قوله نهى عن قتل النساء و الصبيان۔

(عمدة القارى صفحہ ۴۱ جلد ۲۳ کتاب الديات باب قوله تعالى النض بالنض والعين بالعين)

ترجمہ = ہمارے شیخ نے شرح ترمذی میں فرمایا ہے۔ علماء نے قتل مرتد پر اجماع فرمایا ہے جب کہ وہ ارتداد پر قائم رہے اور اسلام کی طرف نہ لوٹے۔ اور کفر پر مداومت اختیار کرے اور مرتد عورت کے قتل میں اختلاف ہے۔ اکثر علماء نے مرتد عورت کو بھی مثل مرد کے واجب القتل قرار دیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مرتد عورت کو قتل نہ کیا

جائے۔ بوجہ عموم قول پیغمبر علیہ السلام کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا ہے۔

شیخ عبدالوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ میزان کبریٰ میں فرماتے ہیں۔

قد اتفق الاثمة علی ان من ارتد عن الاسلام وجب قتله۔

ترجمہ = ائمہ نے اتفاق فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام لا کر اس سے پھر جائے تو اس کا قتل واجب ہے۔

موجبات ارتداد

یعنی وہ امور جن کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے

بارگاہ خداوندی میں گستاخی اور حضرت انبیاء کرام علیہم السلام

کی توہین و تنقیص اور اس کا شرعی حکم

حق جل جلالہ و عم نوالہ کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمہ زبان سے نکالنا بالاجماع کفر اور ارتداد ہے۔

قال القاضي ابو الفضل لا خلاف فی ان ساب اللہ تعالیٰ کافر

حلال الدم اختلف فی استتابته (نیم الریاض صفحہ ۵۰۵ جلد ۴)

ترجمہ = قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ

خداوند ذوالجلال کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور واجب القتل

ہے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر یہ شخص توبہ کرے تو اس کی توبہ دنیا

میں بھی قبول کی جائے گی یا نہیں آخرت میں توبہ قبول ہوگی۔ لیکن کیا

اس کی توبہ کی وجہ سے دنیا میں اس سے قتل ساقط ہو گا یا نہیں اس میں

اختلاف ہے۔

جمہور کا قول یہی ہے کہ دنیا میں اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور قتل اس

سے ساقط ہو جائے گا۔

علامہ قاری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی شرح میں فرماتے ہیں۔ لاخلاف فی ان ساب اللہ تعالیٰ بنسبۃ الکذب لوالعجزالیہ ونحو ذلک من المسلمین کافر قلت و من الذمیین ایضا کافر حربی حلال الدم بل واجب السفک واختلف فی استتسابتہ ای قبول توبتہ الخ

(کذافی شرح الخفاء للطائفة القاری صفحہ ۳۹۱ جلد دوم)

تیسری صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ قرطبہ میں ایک شخص نے حق تعالیٰ شانہ کی شان رنج میں کچھ نازیبا الفاظ زبان سے نکالے۔ شیخ ابن حبیب مالکی اور ابن خلیل نے اس شخص کے قتل کا فتویٰ دیا۔ قرطبہ کے بعض علماء نے یہ کہا کہ فقط تادیب اور تنبیہ کافی ہے۔ اس پر شیخ عبدالملک بن حبیب نے فرمایا۔

ایبشتم رب عبدنا ثم لاتنصر له انا اذن بعبيد سوء ومانحن له
بعابدين ثم بکسى۔

(نیم الرياض صفحہ ۵۸۱ جلد ۲)

ترجمہ = کیا یہ ممکن ہے کہ اس پروردگار کو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ گالیاں دیں جائیں۔ اور جس پر ہم اس کا کوئی بدلہ انتقام نہ لیں۔ اگر ایسے گستاخ سے ہم نے اپنے خدا کا بدلہ نہ لیا تو ہم بہت ہی نالائق اور برے بندے ہیں اور ہرگز ہرگز ہم اس کے سچے پرستار نہیں۔ ابن حبیب یہ کہہ رو پڑے۔

بعد ازاں یہ واقعہ امیر اندلس عبدالرحمن بن حکم اموی متوفی ۲۳۸ھ کے دربار میں پیش ہوا۔ اسی وقت شیخ ابن حبیب اور ابن خلیل کے فتوے کے مطابق وہ شخص قتل کیا گیا اور قتل کر کے عبرت کے لیے پھانسی پر لٹکایا گیا اور جن علماء نے اس بارہ میں مداخلت کی تھی۔ ان کو سخت تنبیہ کی گئی۔ اور جوان میں سے قاضی تھے۔ ان کو معزول کیا گیا۔

دعویٰ ہذا جو شخص حضرات انبیاء مطہم السلام کی شان میں گستاخی کرے وہ

بھی بالا جماع کافر ہے۔ علامہ ابن حزم کتاب الفصل میں فرماتے ہیں۔
 صحیح بالنص ان کل من استهزأ باللہ تعالیٰ لو یملک من الملائکة
 لو نبی من الانبیاء علیہم السلام لو آية من القرآن لو یفریضة من
 فرائض الدین فہی کلہا آیات اللہ تعالیٰ بعد بلوغ الحجۃ الیہ فہو
 کافر۔

ترجمہ = نقص قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا
 کسی فرشتہ یا کسی نبی یا کسی آیت یا کسی فرض کے ساتھ استہزاء اور تمسخر
 کرے وہ قطعاً کافر ہے۔

ناموس رسول اکرم ﷺ

مابقاء الامۃ بعد شتم نبیہا (امام مالک و شرح شفا للطائفة القاری ص ۳۱۱ ج ۴)
 اس امت کی کیا زندگی ہے جس کے نبی پر گالیاں پڑتی ہوں۔
 ایمان کا جزو لاینفک یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام طہیم السلام کی تعظیم و
 توقیر کی جائے۔ ان حضرات کی شان میں ایک اونٹ توہین اور گستاخی بھی کفر اور
 موجب لعنت ہے۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں۔

اجمع العلماء علی ان شاتم النبى صلی اللہ علیہ وسلم
 والمتنقص له کافر مرتبہ وبالوعد الذی مر علیہ جار علیہ
 بعذب اللہ له لقوله تعالیٰ لهم عذاب الیم فی الآیة و حکمة عند
 الامۃ ای لمة الاجابة القتل و من شک کفرہ و عذبه کفر لان الرضی
 بالکفر کفرو لتکذیبہ القرآن فی قوله تعالیٰ والذین یؤنون
 رسول اللہ لهم عذاب الیم۔ الخ

(کذا فی نسیم الریاض صفحہ ۳۷۳ جلد ۳ و شرح ملاحظی قاری صفحہ ۳۹۴ جلد ۲)

ترجمہ = علماء نے اتفاق کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کو گالی بکنے والا اور
 ان کی شان میں تنقیص کرنے والا مرتد اور وارثہ اسلام سے خارج ہو جاتا
 ہے۔ اور وعید اس پر جاری ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا

کیا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ ان توہین انبیاء مطہم السلام کرنے والوں کے لیے عذاب دردناک ہے اور ایسے توہین کرنے والے کا انجام امت کے نزدیک قتل ہے۔ جو شخص بھی اس کے کفر اور عذاب میں شک کرے۔ وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اور اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تکذیب کی۔ **والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب الیم۔** اور جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ ان کے لیے عذاب دردناک ہے۔

یہودی لوگ ازراہ تمسخر ذومعنی الفاظ استعمال کرتے تھے اور بعض مسلمان بھی ازراہ ناواقفیت لفظ راعنا کے ساتھ آنحضرت ﷺ کو خطاب کرتے لگے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قال تعالیٰ یا ایہا الذی امنوا لاتقولوا راعنا و قولوا انظرنا واسمواوا للکافرین عذاب الیم۔

ترجمہ = اے ایمان والوں لفظ راعنا نہ کہا کرو (جس کا معنی ہے کہ ہماری رعایت فرمادیں۔ لیکن اس میں دوسرے غلط معنی کا احتمال بھی ہے اس کے بجائے) کہا کرو۔ انظرنا (یعنی ہمارے حال پر شفقت اور نظر کرم فرمائیے) اور توجہ سے سنا کرو اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ اس آیت میں نبی ﷺ کے توہین کرنے والے کو کافر بتاتے ہوئے۔ عذاب مہین (ذلت والے عذاب) کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔

وقال تعالیٰ ان الذین یؤذون اللہ ورسوله لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ الی۔ ان قال۔ ملعونین اینما ثقفواخذوا و قتلوا تقنیلا سنة اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنة اللہ تبديلا۔

ترجمہ = تحقیق جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ لعنت ہے ان پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں اور یہ ملعون اور موزی جہاں بھی پائے جائیں۔ پکڑے اور خوب اچھی طرح قتل کئے جائیں۔ خوب قتل

کرتا۔ اللہ کی اس سنت کو لازم پکڑو۔ اور اللہ کی سنت میں کوئی تغیر اور تبدیل نہ پاؤ گے۔

(تفصیل کے لیے حیم الریاض ص ۳۸۳ ج ۳۔ و شرح ملا علی قاری ص ۳۰۱ ج ۲ کی مراجعت فرمائیں)

جاننا چاہیے کہ قتلوا تقتیلا۔ باب تفعیل کا صیغہ جو تکثیر اور مبالغہ پر دلالت کرتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا بے دریغ قتل واجب ہے اور آئمہ بلاغت نے یہ تفریح کر دی ہے کہ مفعول مطلق تاکید کے لیے اور مجاز کے احتمال کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ مثلاً قتلتہ میں احتمال ہے کہ ضرب شدید کو مجازاً قتل سے تعبیر کر دیا گیا ہو۔ لیکن اگر قتلتہ قتلہ کہیں، تو مفعول مطلق کے اضافہ سے مجاز کا احتمال باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح آیت شریفہ میں قتلوا کے بعد مقتولین مفعول مطلق لانے میں اس طرف اشارہ ہے متھیل حقیقی مراد ہے فافہم ذالک واستم۔

خلیفہ ہارون رشیدؒ نے امام مالکؒ سے نبی اکرم ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم دریافت کیا اور یہ بھی کہا کہ بعض علماء عراق نے جلد یعنی کوڑے مارنے کا فتویٰ دیا ہے جو شریعت میں قذف یعنی تہمت لگانے کی سزا ہے۔

امام مالکؒ اس خفیف سزا کو سنتے ہی برہم ہو گئے اور نہایت غصہ کے لہجہ

میں یہ فرمایا۔

مابقاء الامۃ بعد شتم نبیہا

ترجمہ = اس امت کی کیا زندگی اور کیا جینا ہے کہ جس کے نبی پر گالیاں پڑتی ہوں۔

من شتم الانبیاء قتل ومن شتم اصحاب النبی جلد

ترجمہ = جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کو گالیاں دے۔ اس کو قتل کیا جائے اور جو شخص صحابہؓ کو سب و شتم کرے۔ اس کے تعزیری کوڑے

لگائے جائیں۔

علامہ خفاجی اس کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں۔

فلا یحل لاحد سماعه الا قتل قائله او یذل روحه فی جهادم۔

(تیمم الریاض ۳۹۹ ج ۲)

ترجمہ = پس کسی کے لیے روا نہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی سے بجز اس کے کہ یا تو اس گستاخ کی جان لے لے یا اپنی جان خدا کی راہ میں دے۔

مسئلہ ختم نبوت اور اس کی اہمیت

خداوند ذوالجلال و لا اکرام کی توحید کے بعد سرور عالم سیدنا محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے جس طرح بغیر توحید کے اقرار کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بغیر ختم نبوت کے اعتراف کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بلکہ توحید کا اقرار شرعاً وہی معتبر ہے جو خاتم الانبیاء ﷺ کے کہنے سے خدا تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ مانے ورنہ جو شخص یہ کہے کہ میں حق تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہ سمجھتا ہوں اور محمد رسول اللہ ﷺ کو خدا کا آخری نبی مانتا ہوں مگر حضور پر نورؐ کے کہنے سے میں خدا کو ایک نہیں سمجھتا۔ بلکہ میری ذاتی تحقیق یہی ہے کہ خدا ایک ہے تو یہ شخص شرعاً مسلمان نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو رسول اللہ کے کہنے سے خدا کو ایک مانے۔

اب یہ ناچیز مختصراً اس مسئلہ کی اہمیت بتلانا چاہتا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت بارگاہ خداوندی میں کس درجہ اہم ہے اور آسمان اور زمین اور عالم ارواح اور عالم اجسام اور عالم مثال اور عالم برزخ میں کس کس طرح اس مسئلہ کا اعلان ہوا ہے اور قیامت کے دن کس طرح میدان حشر میں حضور پر نور کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان ہو گا۔

آنحضرت ﷺ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے خاتم النبیین تھے

عن العریاض بن ساریة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ

(رواہ احمد والبیہقی و الحاکم و قال صحیح الاسناد و زر قانی شرح مواہب صفحہ ۳۱ جلد ۱)

ترجمہ = حضرت عریاض بن ساریہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں تھے۔ یعنی ان کا ابھی پتلا ہی تیار نہ ہوا تھا۔ اس حدیث کو امام احمد اور بیہقی اور حاکم نے روایت کیا۔ اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے (زر قانی)

مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی حضور کی روح مبارک کو حقیقتہً "خاتم النبیین" بنا دیا گیا تھا۔ اگرچہ ظہور اس کا بعثت کے بعد ہوا۔ جیسے کسی کو آج پروانہ وزارت مل جائے۔ مگر کام ایک ہفتہ کے بعد شروع کرے بارگاہ خداوندی کا ایک ہفتہ سات ہزار سال کا ہوتا ہے۔ کما قال تعالیٰ۔
وان یوما عند ربک کالالف سنة مما تعدون۔

ترجمہ = ایک دن تیرے رب کے نزدیک تمہاری شمار کے لحاظ سے ایک ہزار سال کے برابر ہوتا ہے۔

آسمان سے سرزمین ہند پر حضرت آدم علیہ السلام کا ہبوط اور نزول اور ختم نبوت کا اعلان

احادیث معتبرہ اور روایات صحیحہ سے یہ امر ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے سرزمین ہند پر مقام سرفسپ میں اترے اور یہیں وفات ہوئی اور یہیں مدفون ہوئے۔

تحقیق اور تفصیل کے لیے حضرات اہل علم تفسیر و منشور صفحہ ۵۵ تا ۶۰

جلد اول کی مراجعت فرمائیں۔ میرا مقصد اس وقت صرف ایک روایت کو پیش کرنا ہے۔ وہ روایت یہ ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل آدم بالہند واستوحش فنزل جبریل فنادی باذان اللہ اکبر اللہ اکبر مرتین اشہدان لا الہ الا اللہ مرتین اشہدان محمدا رسول اللہ مرتین قال آدم لجبریل من محمد قال آخر ولدک من الانبیاء۔

(رواہ ابن عساکر خصائص کبری للیوطی صفحہ ۸ جلد اول وکنز العمال صفحہ ۱۱۳ جلد ۶ و تفسیر درمنثور صفحہ ۵۵ جلد اول)

ترجمہ = حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام ہندوستان کی زمین پر اترے اور تھمائی کی وجہ سے گھبرائے تو جبریل امین آسمان سے اترے اور اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ کہا۔ اشہدان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہدان محمد رسول اللہ دو مرتبہ حضرت آدم نے جبریل امین سے کہا کہ محمد ﷺ کون ہیں تو جبریل امین نے یہ کہا کہ انبیاء میں آپ کے سب سے آخری بیٹے ہیں۔ یعنی ان کے بعد آپ کی اولاد میں کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔

اس روایت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آنحضرت ﷺ سے پہلے پیدا ہوئے اور آپ سے پہلے نبی بنائے گئے اور آپ سب نبیوں کے بعد پیدا ہوئے۔ اور سب کے بعد آپ کو نبوت ملی لہذا آپ ہی آخری نبی ہوئے۔ آخری بیٹا وہ ہے جو سب سے اخیر میں پیدا ہو نہ وہ کہ جس کی عمر زیادہ ہو۔

حیرت اور صد حیرت کا مقام ہے کہ مرزائیوں کے نزدیک گزشتہ نبی کا تو

زندہ رہنا بھی ختم نبوت کے متافی ہے۔ مگر ایک نئے نبی کا پیدا ہو جانا ختم نبوت کے متافی نہیں۔ جس برگزیدہ نبی کی مدح اور توصیف سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ اس کے دوبارہ آنے سے تو نبوت کی مرثوتی ہے۔ مگر ایک مرزا اور پٹھان اور قادیان کے ایک چودھری اور دہقان کے آنے سے نبوت کی مر نہیں ٹوتی

ع بریں عقل و دانش نیاید گریست

حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر خاتم النبیین لکھا ہوا تھا

اخرج ابن عساکر من طریق الی الزبیر عن جابر قال بین کتفی
آدم مکتوب محمد رسول اللہ خاتم النبیین

(خصائص کبری للیوطی صفحہ ۷ جلد ۱)

ترجمہ = ابن عساکر نے حضرت جابر سے روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان میں یہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین۔

عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہم السلام سے خاتم النبیین

کی نصرت و حمایت کا عہد و میثاق

قال اللہ تعالیٰ واذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم و اخذتم علی ذالکم اصری قالوا اقررتنا۔ قال فاشهدوا وانا معکم من الشہدین۔ فمن تولی بعد ذالک فاولئک ہم الفاسقون۔

ترجمہ = اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتائے تمہاری پاس دالی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا۔ اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا۔

بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو اب گواہ رہو۔ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نادان۔
عالم ارواح میں حق جل شانہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد اور میثاق لیا کہ تم سب کے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا۔ تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا سب نے اس کا اقرار کیا۔

اس آیت شریفہ نے تمام انبیاء کرام کو مخاطب بنا کر یہ فرمایا تم جاء کیم رسول تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا۔ یہ اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اس رسول کی آمد تمام انبیاء کے بعد ہوگی۔ اور یہ رسول آخری نبی ہوگا۔

وعن قتادة انه اخذ الله ميثاقهم بتصديق بعضهم بعضا والاعلان بان محمدا رسول الله واعلان رسول الله بان لانبى بعده۔

(کذا فی الدر المشور وغیرہ)

ترجمہ = قنابہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے وعدہ لیا کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ اور خصوصی طور پر یہ اعلان کریں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

بشارات انبیاء سابقین

در بارہ ظہور خاتم الانبیاء والمرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضرت مسیح بن مریم کے زمانہ تک تمام انبیاء مسلسل اس کی بشارت دیتے آئے کہ اخیر زمانہ میں ایک نبی ظاہر ہوگا۔ وہ نبی خاتم الانبیاء ہوگا۔

واخرج ابن عساكر عن عبادة بن الصامت قال قيل يا رسول الله اخبرنا عن نفسك قال نعم انادعوة ابى ابراهيم وكان آخر من

بشر بنی عیسیٰ بن مریم علیہما السلام (خصائص کبریٰ صفحہ ۹ جلد اول)
ترجمہ = عبادة بن الصامتؓ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ
اپنی نبوت کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ
ابراہیم کی دعا ہوں اور میرے ظہور کی آخری بشارت دینے والے عیسیٰ
بن مریم ہیں۔

اس حدیث میں حضرت ابراہیم کی اس دعا کی طرف اشارہ ہے جو حضرت
ابراہیم نے بناء کعبہ کے وقت کی تھی۔ وہ دعا یہ ہے۔

ربنا وابعث فیہم رسولا منهم ینلوا علیہم ایاتک وبعلمہم
الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ○
ترجمہ = اے پروردگار ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں کا
ہے کہ پڑھے ان میں تیری آیتیں اور سکھلاوے ان کو کتاب۔ اور تہ کی
باتیں اور پاک کرے ان کو بے شک تو ہی ہے۔ زبردست بڑی حکمت
والا۔

ابوالعالیہ سے مروی ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا۔

قد استجیب لک ہو کائن فی آخر الزمان

(خصائص کبریٰ صفحہ ۹ جلد اول)

ترجمہ = اے ابراہیم تمہاری دعا قبول ہوئی وہ نبی اخیر زمانہ میں ظاہر ہو
گا۔

چنانچہ توریت اور انجیل اور زبور میں خاتم الانبیاء کے ظہور سراپا نور و
سرور کی بشارتیں اب بھی موجود ہیں جس پر علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں
اور اس ناچیز نے بھی ایک رسالہ اسی بارہ میں لکھا ہوا ہے۔ جو عرصہ ہوا کہ بشارت
التسین، ظہور خاتم الانبیاء والمرسلین کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس وقت صرف
چند بشارتیں ہدیہ ناظرین کرتا ہوں۔

بشارت اول

(از تورات سفر استثناء باب ۱۸ آیات ۱۸)

۱۸۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کہا سو اچھا کہا۔ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں تجھ سانی برپا کروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ ۱۹۔ اور ایسا ہو گا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کے کہے گا۔ نہ سنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ ۲۰۔ لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ ۲۱۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ میں کیونکر جانوں کہ یہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں تو جان رکھ کہ جب نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور وہ جو اس نے کہا ہے واقع نہ ہو تو وہ بات خداوند نے نہیں کہی۔ اسی

اہل اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ بشارت خاص سرور عالم سیدنا محمد ﷺ کے لیے ہے اور یہود کا یہ خیال ہے کہ یہ بشارت یوشع علیہ السلام کے لیے ہے اور نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ اس بشارت کا مصداق بجز خاتم الانبیاء کے کوئی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اول تو اس بشارت میں یہ مذکور ہے کہ میں ان کے (یعنی نبی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ نبی بنی اسرائیل میں سے نہ ہو گا اس لیے کہ اگر یہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوتا تو یہ فرماتے کہ خود تم میں سے ایک نبی پیدا ہو گا کما قال تعالیٰ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولاً من انفسہم اور یہ نہ فرماتے کہ خود تمہارے بھائیوں میں سے وہ نبی ظاہر ہو گا کما قال تعالیٰ خطابتا لنبی اسرائیل وجعل فیکم انبیاء

فرض یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تمام نبی اسرائیل کو بلا کسی تخصیص کے یہ خطاب فرمانا کہ وہ نبی موعود تمہارے بھائیوں میں سے ہو گا۔ اس امر کی صاف دلیل ہے کہ وہ نبی موعود نبی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسرائیل میں سے ہو گا۔

اور ظاہر ہے کہ حضرت یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل میں سے ہیں اور اس بشارت کا مصداق صرف وہی نبی ہو سکتا ہے کہ جو بنی اسرائیل میں سے ہو۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی پیغمبر اس بشارت کا مصداق نہیں ہو سکتا۔

دوم یہ کہ اس بشارت میں یہ مذکور ہے کہ تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مانند نہ یوشع علیہ السلام ہیں اور نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس لیے کہ یہ دونوں حضرات بنی اسرائیل میں سے ہوئے اور تورات میں ہے کہ ”نبی اسرائیل میں موسیٰ کے مانند کوئی نبی نہیں اٹھا۔“

علاوہ ازیں حضرت یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تلمیذ تھے۔ تابع و متبوع کیسے مماثل ہو سکتے ہیں۔ نیز حضرت یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام اس وقت موجود تھے اور اس بشارت میں یہ مذکور ہے کہ ایک نبی برپا کروں گا جس سے صاف ظاہر ہے کہ اس نبی کا وجود زمانہ مستقبل میں ہو گا۔ نیز یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کے زمانہ میں نبی ہو چکے تھے۔ پس وہ اس بشارت کا جس میں آئندہ نبی کی خبر دی گئی ہے۔ کیسے مصداق ہو سکتے ہیں۔

علیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مماثل نہیں اس لیے کہ نصارائے حیاری کے نزدیک تو وہ ابن اللہ یا خود خدا ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ اللہ نہ ابن اللہ بلکہ خدا کے ایک بندے ہیں۔ پس بندے اور خدا میں کیا مماثلت۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بہ اعتقاد نصاریٰ مقتول و مصلوب ہو کر اپنی امت کے لیے کفارہ ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ مقتول و مصلوب ہوئے اور نہ کفارہ ہوئے۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شریعت حدود و قصاص زواجر و تعزیرات غسل و طہارت کے احکام سے ساکت ہے۔ بخلاف شریعت موسویہ کے وہ

ان تمام امور پر مشتمل ہے۔ ہاں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں مماثلت ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صاحب شریعت مستقل تھے اسی طرح ہمارے نبی اکرم ﷺ کی شریعت غراء بھی مستقل اور کامل اور علی وجہ الاتم حدود و تعزیرات جماد و قصاص۔ حلال و حرام کے احکام کو جامع ہے۔

جس طرح موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجہ سے نکال کر عزت دی اس سے بدرجما زائد نبی اکرم ﷺ نے عرب کو روم اور فارس کی قید سے چھڑا کر اللہ کا کلمہ پڑھایا اور قیصر و کسری کے خزان کی کنجیاں ان کے سپرد کیں۔ نیز جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نکاح کیا اسی طرح ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی انبیاء سابقین علیہم السلام کی سنت نکاح پر عمل فرمایا۔ اور اسی مماثلت کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہے۔

انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون

○ رسولاً

ترجمہ = ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ تم پر گواہی دینے والا جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔

نیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی اس مماثلت کا دعویٰ بھی نہیں فرمایا اور اگر یہ کہا جائے کہ مماثلت سے یہ مراد ہے کہ وہ نبی موعود موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرح نبی اسرائیل میں سے ہو گا۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یوشع علیہما الصلوٰۃ والسلام کی کیا تخصیص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اسرائیل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے۔ اس لحاظ سے ہر نبی انبیاء اسرائیل میں سے اس بشارت کا مصداق بن سکتا ہے اور اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت یوشع علیہما الصلوٰۃ والسلام کے لیے کسی درجہ میں مماثلت تسلیم کر لی جائے تو اس مماثلت کو اس مماثلت سے کہ نبی اکرم

ﷺ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل ہے کوئی نسبت نہیں۔
سوم یہ کہ اس بشارت میں بھی مذکور ہے کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں
ڈالوں گا یعنی اس نبی پر الواح تورات و زبور کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل نہ ہوگی
بلکہ فرشتہ اللہ کی وحی لے کر نازل ہوگا۔ اور وہ نبی امی ہوگا۔ فرشتہ سے سن کر اللہ
کا کلام یاد کرے گا اور اپنے منہ سے پڑھ کر امت کو سنائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ
بات بجز نبی امی فداہ نفسی و ابی دانی کسی پر صادق نہیں آتی۔

چہارم یہ کہ اس بشارت میں اس امر کی بھی تصریح ہے کہ جو اس نبی
موعود کے حکم کو نہ مانے گا۔ میں اس کو سزا دوں گا اور ظاہر ہے کہ اس سزا سے
اخروی عذاب مراد نہیں اس لیے کہ اس میں اس نبی موعود کے نہ ماننے والے کی
کیا خصوصیت، اخروی عذاب ہر نبی کے نہ ماننے والے کے لیے ہے بلکہ اس سے
دنوی سزا یعنی جہاد و قتال اور حدود و قصاص کا جاری کرنا مراد ہے اور یہ بات نہ
عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہوئی اور نہ یوشع علیہ الصلوٰۃ والسلام کو۔ البتہ
خاتم الانبیاء سرور عالم سیدنا محمد ﷺ کو علی وجہ الاثم حاصل ہوئی۔ لہذا وہی
اس بشارت کا مصداق ہو سکتے ہیں۔

پنجم یہ کہ اس بشارت میں یہ بھی تصریح ہے کہ اگر وہ نبی عیاذ باللہ افتراء
کرے گا اور خدا کی طرف غلط بات منسوب کرے گا تو وہ نبی قتل کیا جائے گا۔ اور
ظاہر ہے کہ ہمارے نبی اکرم ﷺ بعد دعوائے نبوت کے قتل نہیں کئے گئے۔
دشمنوں نے ہر طرح کی کوشش اور تدبیر کی مگر سب برباد ہوئی۔ کما قال اللہ تبارک
و تعالیٰ۔

واذ یمکربک الذین کفرو الیشتوک او یقتلوک او یخرجوک و

یمکرون و یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین ○

ترجمہ = اے محمد ﷺ اللہ کی اس نعمت کو یاد کیجئے۔ کہ کافر جب
آپ کے ساتھ مکر کرتے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا مار ڈالیں یا نکال
دیں وہ اپنی تدبیریں کرتے تھے۔ اور اللہ اپنی تدبیر فرماتا تھا اور اللہ ہی

بہترین تدبیر فرماتے والا ہے۔

اور حسب وعدۃ النبی واللہ یعصمک من الناس آپ بالکل محفوظ اور مامون رہے اور بجائے اس کے کہ کسی قسم کا حادثہ فاجح پیش آتا آپ کی شان و شوکت بلند ہوتی گئی۔ پس آنحضرت ﷺ اگر وہ نبی موعود نہ ہوتے تو ضرور قتل کئے جاتے ہاں حسب زعم نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مقتول و مصلوب ہوئے۔ پس اگر حضرت مسیح بن مریم ﷺ کو اس بشارت کا مصداق قرار دیا جائے تو علیٰ زعم انصاریٰ عیاذ باللہ ان کا کاذب ہونا لازم آتا ہے اور قرآن عزیز میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے

كما قال اللہ تعالیٰ شانہ

ولولا ان ثبتنک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قليلا اذا لا ذنک

ضعف الحیوة و ضعف الممات ثم لا تجدک علینا نصیرا ○

ترجمہ = اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ قریب تھے کہ ان کی جانب اقل قلیل مائل ہو جاتے۔ اس وقت ہم آپ کو زندگی اور موت کا دو چند عذاب چکھاتے پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ دوسری جگہ فرمایا۔

ولو نقول علینا بعض الاقوال لاخذ نامنہ بالیمین ثم لقطعنا

منہ الونین ○

ترجمہ = اگر محمد ﷺ ہم پر کچھ افتراء کرتے تو ہم ان کا داہنا پکڑ لیتے۔ اور ان کی شہ رگ کو کاٹ دیتے۔

ایک ضروری تنبیہ

قتل نہ ہونا علی الاطلاق صادق ہونے کی دلیل نہیں ورنہ ان انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کہ جو دشمنوں کے ہاتھ سے قتل کئے گئے زیر تامل ہو گی۔ كما قال اللہ تعالیٰ ویقتلون النبیین بغیر الحق خصوصا " نصاریٰ کو اپنے عقیدہ فاسدہ کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت ثابت کرنا بہت دشوار

ہو جائے گی۔

بلکہ خاص اسی نبی موعود کا نہ قتل ہونا اس کے صادق ہونے کی علامت ہے جیسا کہ تورات کی اس عبارت سے ظاہر ہے وہ نبی ایسی گستاخی کرے گا اے وہ قتل کیا جائے گا اور دونوں جملوں میں وہ کی ضمیر خاص اس نبی موعود کی طرف راجع ہے۔

ششم۔ یہ کہ بشارت میں یہ بھی مصرح ہے کہ اس نبی موعود کے صادق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کا کہا پورا ہو گا یعنی اس کی تمام پیشین گوئیاں صادق ہوں گی۔ سو الحمد للہ ثم الحمد للہ کہ اس صادق مصدوق کی کوئی پیشین گوئی آج تک ذرہ برابر بھی غلط ثابت نہ ہوئی۔ اور ہم پورے دعوے کے ساتھ بہ بانگِ دہل اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک بھی کوئی حاسد اس صادق مصدوق کی کسی پیشین گوئی کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔

اور یہ وصف تو آنحضرت ﷺ میں ایسا نمایاں اور اجلی تھا۔ کہ آپ کے دشمنوں اور حاسدوں کو بھی بجز صادق امین کہنے کے کوئی چارہ نظر نہ آتا تھا۔ ہفتم۔ یہ کہ کتاب الاعمال باب سوم آیت ہفت دہم کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی منظر حضرت عیسیٰ اور ایلیا علیہما الصلوٰۃ والسلام بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ ہے اور آخری نبی ہے اخیر زمانہ میں مبعوث ہو گا۔ اور وہ عبارت یہ ہے۔

اب اے بھائیوں میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ نادانی سے کیا جیسے تمہارے سرداروں نے بھی۔ پر جن باتوں کی خدا نے اپنے سب نبیوں کی زبان سے آگے سے خبر دی تھی کہ مسیح دکھ اٹھائے گا سو پوری کیں۔ ۱۹ پس توبہ کرو اور متوجہ ہو کہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں تاکہ خداوند حضور تازگی بخش ایام لائے۔ ۲۰۔ اور یسوع مسیح کو پھر بھیجے جس کی منادی تم لوگوں کے درمیان آگے سے ہوئی ۲۱۔ ضرور ہے کہ آسمان اسی کے لیے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک

نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں۔ ۲۲۔ کیونکہ موسیٰ نے بابِ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی تیری مانند اٹھادے گا جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو۔ ۲۳۔ اور ایسا ہو گا کہ ہر نفس کہ جو اس نبی کی نہ سنے وہ قوم سے نیست کیا جاوے گا۔ ۲۴۔ بلکہ سب نبیوں نے سو ایل سے لے کر پچھلوں تک جتنوں نے کلام کیا ان دنوں کی خبر دی ہے۔ ۲۵۔ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے ہو جو خدا نے باپ دادوں سے باندھا ہے جب ابراہام سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پاویں۔

اس عبارت میں اول حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت اور ان کی اس تکلیف کا جو ان کو علی زعم یهود لعنم اللہ سے پیش آئی ذکر ہے اور ان کے نزول من السماء کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اس نبی کی بشارت کا ذکر ہے کہ جس کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ

خداوند عالم تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجے والا ہے۔ اور علاوہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام نبیوں نے اس نبی موعود کے آنے کی خبر دی ہے اور جب تک یہ وعدہ ظہور میں نہ آئے گا۔ اس وقت تک یہ زمین و آسمان ضرور قائم رہیں گے اور اسی زمانہ میں خدا کا وعدہ بھی پورا ہو گا۔ کہ جو اس نے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا تھا کہ تجھ سے دنیا کے سارے گھرانے برکت پائیں گے۔

الحاصل حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت کو ذکر کر کے یہ کہنا (سو پوری کیوں) اور جس نبی کی موسیٰ اور ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تمام انبیاء کرام علیہم الف الف صلوٰۃ و الف الف سلام نے بشارت دی ہے اس کے انتظار کو ان الفاظ سے ظاہر کرنا کہ ”ضرور ہے کہ آسمان اس کے لیے رہے کہ اس وقت کہ

سب چیزیں کہ جن کا ذکر کہ خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آئیں۔

اس امر کی صاف دلیل ہے کہ یہ نبی مبشر اور رسول مظهر ان تمام انبیاء و رسل کے علاوہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام تک گزرے۔ لہذا اس بشارت کا مصداق حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ کے زمانہ تک کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ”پس حضرت یوشع، حضرت مسیح بن مریم علیہما السلام کو اس بشارت کا مصداق قرار دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔

ہفتم یہ کہ انجیل یوحنا باب اول آیت انیسویں میں ہے۔

جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہنوں اور لادویوں کو بھیجا کہ اس کو پوچھیں کہ تو کون ہے اور اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں مسیح نہیں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا تو اور کون ہے اور کیا تو الیاس ہے اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ پس آیا تو وہ نبی ہے اس نے جواب دیا نہیں۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کو حضرت مسیح اور ایلیا علیہما الصلوٰۃ والسلام کے سوا بھی ایک نبی کا انتظار تھا۔ اور وہ نبی ان کے نزدیک ایسا معروف و معبود تھا کہ اس کے نام کے ذکر کرنے کی بھی حضرت مسیح اور حضرت ایلیاء علیہما السلام کے نام کی طرح حاجت نہ تھی۔ بلکہ فقط ”وہ نبی“ کا اشارہ ہی اس کے لیے کافی تھا۔

پس اگر حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی اس بشارت کا مصداق تھے تو پھر ان کو انتظار کس کا تھا۔ وہ نبی جس کا کہ ان کو انتظار تھا۔ وہ ہمارے نبی اکرم ﷺ ہیں۔ اور اسی وجہ سے کہ اہل کتاب نبی اکرم سیدنا محمد ﷺ کے لیے ”وہ نبی“ کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ سے اہل اسلام نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آں حضرت (جو بینہ وہ نبی کا ترجمہ ہے بولتے ہیں) ہم یہ کہ انجیل یوحنا باب ہفتم کی آیت چہلم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے

کہ وہ نبی موعود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ ہے۔ چنانچہ انجیل میں ہے۔

۳۰۔ ”تب ان لوگوں میں سے بہیروں نے یہ سن کر کما فی الحقیقت یہی وہ نبی ہے اوروں نے کہا یہ مسیح ہے۔“ نبی مجبور کو حضرت مسیح کے مقابلہ میں ذکر کرنا اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ وہ نبی موعود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علاوہ ہے پس اگر ”وہ نبی“ سے آنحضرت ﷺ مراد نہ ہوں تو وہ پھر کونسا نبی ہے کہ جس کا ان کو انتظار تھا۔

دہم یہ کہ تورات سفیریدائش باب ۴۹ میں ہے۔

(۱) اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ اپنے کو جمع کرو تاکہ میں اس کی جو پچھلے دنوں تم پر بیتے گا تمہیں خبر دوں (۲) اے یعقوب کے بیٹے اپنے کو اکٹھے کرو اور سنو اور اپنے باپ اسرائیل کی سنو اور پھر آیت دہم میں ہے۔
یہوداہ سے ریاست کا عصا جدا نہ ہو گا۔ اور نہ حاکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا۔ جب تک کہ شیلانہ آدے۔ اور قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی۔

آیات مسطورہ میں اس امر کی خبر دی گئی ہے کہ جب تک کہ اخیر زمانہ میں شیلانہ کا ظہور نہ ہو۔ اس وقت تک یہوداہ کی نسل سے حکومت و ریاست منقطع نہ ہو گی۔

اہل اسلام کے نزدیک شیلانہ آنحضرت ﷺ کا لقب ہے۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا لقب قرار دیتے ہیں۔ مگر نصاریٰ کا یہ خیال صحیح نہیں۔ اس لیے کہ اس عبارت کا سیاق اس کو مقتضی ہے کہ شیلانہ کو ’نسل یہوداہ سے خارج مانا جائے اس لیے کہ شیلانہ کے ظہور سے نسل یہوداہ کی حکومت و ریاست کا انقطاع جب ہی متصور ہو سکتا ہے کہ جب شیلانہ نسل یہوداہ سے نہ ہو۔ ورنہ اگر شیلانہ نسل یہوداہ سے ہو تو اس کا ظہور تو بقائے حکومت یہوداہ کا باعث ہو گا نہ کہ انقطاع حکومت یہوداہ کا۔

اور بائبیل کے ابواب بلکہ انجیل متی کے پہلے ہی صفحہ پر ذرا غور کرنے سے یہ بات بخوبی منکشف ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نسل یوداہ سے خارج نہیں اس لیے کہ آپ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل سے ہیں اور حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام بالا جماع یوداہ کی نسل سے ہے۔

لذا شیلا کا مصداق وہی نبی ہو سکتا ہے کہ جو نسل یوداہ سے خارج میں ہو اور اس کا ظہور آخر زمانہ میں ہو جیسا کہ آیت اول کے اس جملہ سے ظاہر ہے۔

تاکہ میں اس کی جو پچھلے دنوں میں تم پر بیٹے گا تمہیں خبر دوں۔“

اور یہ دونوں امر آنحضرت ﷺ ہی پر صادق آسکتے ہیں کہ آپ یوداہ کی نسل سے بھی نہ تھے۔ بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے اور آپ کا ظہور بھی خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اخیر زمانہ میں ہوا۔

اور آپ کی بعثت کے بعد سے یوداہ کی نسل میں جو کچھ حکومت و ریاست تھی وہ سب جاتی رہی۔ قرآنے نبی نصیر اور خیر سب آپ ہی کے زمانہ میں فتح ہو گئے اور اس جملہ میں کہ

”قومیں اس کے پاس اکٹھی ہوں گی“

عموم بعثت کی طرف اشارہ ہے کما قال تعالیٰ شانہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمعیا۔

ترجمہ = اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔

بخلاف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کہ ان کی بعثت صرف نبی اسرائیل کے لیے تھی کما قال تعالیٰ شانہ ورسولاً الی نبی اسرائیل اور انجیل میں ہے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔

خاتم النبیین ﷺ کی ختم نبوت اور ذکر خیر پر مشتمل دوسری بشارت

(از زبور سیدنا داؤد علیہ السلام باب ۴۵)

(۱) میرے دل میں اچھا مضمون جوش مارتا ہے میں ان چیزوں کو جو میں نے بادشاہ کے حق میں بنائی ہیں بیان کرتا ہوں۔ میری زبان ماہر لکھنے والے کا قلم ہے۔
(۲) تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے۔ تیرے ہونٹوں میں لطف بٹایا گیا ہے۔ اسی لیے خدا نے تجھ کو ابد تک مبارک کیا (۳) اے پہلوان اپنی تلوار کو جو تیری حشمت اور بزرگواری ہے حمایل کر کے اپنی ران پر لٹکا (۴) اور اپنی بزرگواری سے سوار ہو اور سچائی اور ملامت اور صداقت کے واسطے اقبال مندی کے لیے آگے بڑھ۔ اور تیرا داہنا ہاتھ تجھ کو مہیب کام سکھلائے گا۔ (۵) تیرے تیر تیز ہیں۔ لوگ تیرے نیچے گرے پڑتے ہیں وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں (۶) تیرا تخت اے خدا ابد الابد رہے۔ تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے (۷) تو صداقت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے۔ اس سبب سے تیرے خدا نے تجھ کو خوشی کے تیل سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ مسح کیا (۸) تیرے سارے لباس سے مراد عود اور ریح کی خوشبو آتی ہے کہ جن سے ہاتھی دانت کے محلول کے درمیان انہوں نے تجھ کو خوش کیا ہے (۹) بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت والیوں میں ہیں۔ ملکہ اوفیر کے سونے سے آراستہ ہو کے تیرے داہنے ہاتھ کھڑی ہے۔

اور بارہویں آیت میں ہے

”اور صورت کی بیٹی ہدیئے لاوے گی۔ قوم کے دولت مند تیری خوشامد کریں

گے۔“

اور سولہویں آیت میں ہے

(۱۶) تیرے بیٹے باپ دادوں کے قائم مقام ہوں گے۔ تو انہیں تمام زمین کا سردار مقرر کرے گا (۱۷) میں ساری پشتوں کو تیرا نام یاد دلاؤں گا۔ اور سارے لوگ ابد الابد تک تیری ستائش کریں گے۔“

اس زبور میں حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک عظیم الشان و الشوکت رسول کی بشارت دے رہے ہیں۔ اور فرط محبت میں اس کو مخاطب بنا کر اوصاف بیان فرما رہے ہیں اوصاف حسب ذیل ہیں۔

- (۱) بادشاہ یعنی سب سے اعلیٰ اور افضل ہونا (۲) حسین ہونا (۳) ہونٹوں میں لطف کا ہونا۔ شیریں زبان اور فصیح اللسان ہونا (۴) مبارک الی الدہر ہونا (۵) پہلوان یعنی قوی ہونا (۶) شمشیر بند ہونا (۷) صاحب حق و صداقت ہونا (۸) اقبال مند ہونا (۹) اس کے دائیں ہاتھ سے کسی عجیب و غریب کرشمہ کا ظاہر ہونا (۱۰) تیرا انداز ہونا (۱۱) لوگوں کا اس کے نیچے گرے پڑنا یعنی خلق اللہ کا اس کے تابع ہونا (۱۲) تخت کا ابد الابد تک رہنا یعنی شریعت اور حکومت اسلام کا تاقیام قیامت باقی رہنا (۱۳) عصائے سلطنت کا عصائے راستی ہونا (۱۴) صداقت کا دست اور شرارت کا دشمن ہونا (۱۵) اس کے کپڑوں سے خوشبو کا آنا (۱۶) اس کے گھرانہ میں بادشاہوں کی بیٹیوں کا آنا (۱۷) ہدایا اور تحائف کا آنا (۱۸) اولاد کا بجائے باپ کے سردار اور حاکم ہونا (۱۹) تمام پشتوں میں قرنا“ بعد قرن اور نسلنا بعد نسل اس کا ذکر باقی رہنا (۲۰) ابد الابد تک لوگوں کا اس کی ستائش کرنا۔“

اہل اسلام کے نزدیک اس بشارت کا مصداق نبی اکرم رسول اعظم سید الادلین و الاخرین محمد ﷺ ہیں۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس بشارت کا مصداق سمجھتے ہیں۔ مگر یہ صحیح نہیں اس لیے کہ جو اوصاف اس

بشارت میں مذکور ہیں۔ وہ صرف نبی اکرم ﷺ پر صادق آتے ہیں۔
 (۱) بادشاہت کا ثبوت آنحضرتؐ کے لیے شمس فی نصف النہار سے زائد اجلیٰ اور روشن ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے آپؐ کو دین و دنیا دونوں کی بادشاہی عطا فرمائی۔ احکام خداوندی کو بادشاہوں کی طرح جاری فرمایا۔ جس طرح نصاریٰ کے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہود نصم اللہ تعالیٰ سے مقهور و مجبور تھے نبی اکرمؐ مجبور نہ تھے آپ نے تو ان کے حصون و قلاع ان کو نکال دیا الحاصل نبی اکرم ﷺ دین و دنیا کے بادشاہ تھے تمام انبیاء رسل سے افضل اور برتر تھے نہ کسی رسول کو قرآن کریم جیسی معجز کتاب عطا کی گئی اور نہ کسی کو آپؐ جیسی کامل و مکمل شریعت عطا کی گئی۔ کہ فلاح دارین اور نجات اور بہودی کی پوری پوری کفیل ہو جس نے عقائد و اعمال کی سنگین غلطیوں پر قبضہ کیا ہو خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ ایسا صاف کر دیا ہو کہ چلنے والوں کے لیے کوئی روڑا اٹکانہ رکھا ہو۔ تہذیب اخلاق اور تدبیر منزل سیاست ملکیہ اور مدنیہ کے لحاظ سے بھی نہایت کامل و مکمل ہو۔ غرض یہ کہ اس میں جامعیت کبریٰ کا وصف نمایاں ہو۔ ان تمام محاسن اور خوبیوں کا جامع صرف دین اسلام ہے کہ جس کو آنحضرت ﷺ خدا کے پاس سے لائے۔

ان الدین عند اللہ الاسلام

ترجمہ = بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے

یہی وہ کامل و مکمل دین ہے کہ اس کے طلوع ہوتے ہی سب اویان و مذاہب کے چراغ گل ہو گئے۔

رات محفل میں ہر اک مہ پارہ گرم لاف تھا

صبح کو خورشید جو نکلا تو مطلع صاف تھا۔

پس جس نبی کی کتاب بھی تمام کتب انبیاء اور صحف سماویہ سے افضل ہو اور اس کی شریعت تمام شرائع اور اویان سے بدرجہا برتر اور کامل اور اکمل ہو اس کے معجزات بھی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات سے بڑھے ہوئے

ہوں۔ اس کی امت بھی تمام امتوں سے علم اور عمل اعتقادات و اخلاق مکارم و شائکھ تہذیب و تمدن سیاست ملکیہ اور مدینہ کے لحاظ سے فائق اور برتر ہو۔ اس نبی کے سید الاولین و الاخرین اور بادشاہ دو جہاں ہونے میں کیا کلام اور شبہ ہو سکتا ہے۔

(۲) حسن و جمال میں آپ کا یہ حال تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے زاید کسی کو حسین اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ گویا کہ آفتاب آپ کے چہرہ مبارک میں گھومتا ہے اور جب تبسم فرماتے تو دندان مبارک کی چمک دیواروں پر پڑتی تھی۔
حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔

و احسن منك لم تر قط عینی
و اجمل منك لم تلد النساء
میری آنکھ نے آپ سے زائد حسین نہیں دیکھا
اور آپ سے زائد جمیل اور خوبصورت عورتوں نے نہیں جانا
خلقت مبرء من کل عیب
کانک قد خلقت کما نشاء
آپ ہر عیب سے پاک پیدا کئے گئے ہیں
گویا کہ آپ حسب فضا پیدا کئے گئے
نوٹ:- یہاں ایک نظم حسن و جمال مبارک پر درج کی جاتی ہے۔

حلیہ مبارک خاتم النبیین ﷺ
جس کا ذکر سابقہ کتب میں بھی موجود تھا

روایت کی امام باصفا نے
حسن سبط رسول مجتبیٰ نے

کہ ہند بن ابی ہالہ مرا خال

رسول اللہ کا تھا واصف حال

کیا میں نے سوال اس باخبر سے

خبر دے طیلہ خیر البشر سے

کہ ہوں مشتاق ان باتوں کا بے حد

بیان کر کچھ تو حال جد امجد

غرض میری ہے یہ سن کر وہ احوال

کہوں جو ہو سکے اسناد اعمال

کما قیس ہند نے یوں مجھ سے اس دم

رسول اللہ تھے فخم . مفخم

نگاہوں میں وہ یعنی خوش سیر تھے

دلوں میں بھی بزرگ و نامور تھے

تجلی روئے انور کی نہ پوچھو

قمر ہو جس طرح سے چودہویں کو

میانہ کب قد خیر الوری تھا

میانہ پن سے بھی وہ قد جدا تھا

اگر کوتاہ کہتے تھا نہ کوتاہ

غرض گم کیفیت نے کی یہاں راہ

قد بالا کا تھا ان کے یہ عالم

میانہ سے دراز اطول سے کچھ کم

بزرگی تھی سر عالی میں پیدا

نہایت حسن و موزونی ہویدا

خم پیچی عیاں بالوں میں کم تھی

کچھ اک ڈولیدگی لیکن بہم تھی

بکھرتے تھے جو فرق پاک پر بال
 دو فرقہ ان کو کر دیتے تھے فی الحال
 اگر از خود نہ بال ان کے بکھرتے
 تکلف سے نہ ہرگز فرق کرتے
 بحال دفرہ سر کے بال ان کے
 گزرتے نہ مہائے گوش سے تھے
 درخشانی کا عالم رنگ میں تھا
 کشادہ تھی جبین عالم آراء
 مقوس دونوں ابروئے مقوس
 مقدس دونوں ابروئے مقدس
 بانداز مناسب طاق ابرو
 نہ تھی پیوستگی آپس میں ان کو
 عجب خمدار و باریک و مطول
 بخوبی طاق تھا ثانی و اول
 میان ابروؤں اک رنگ ہویدا
 بہت ہوتی غضب کے وقت پیدا
 کون کیا جزا بنی کا عالم
 کہ تھے نوروں کے شعلے جس سے توام
 مٹے بنی خیر البشر تھی
 بانداز بلندی جلوہ گر تھی
 جو کوئی بے تامل دیکھتا تھا
 بلندی کا گماں ہوتا تھا پیدا
 ملائم آپ کے رخسار نیکو
 بھلا تشبیہ دوں میں کس سے اسکو

بزبانی کشادہ وہ دہن تھا
 کشادہ وہ دہن تھا اور زیبا
 کہوں دانتوں کا کیا وہ حسن سادہ
 سپید و صاف آپس میں کشادہ
 دقیق المسربة یعنی خط مو
 کھنچا سینے سے تھا تاناف کلبو
 بوصف گردن شایان معراج
 کہا راوی نے شکل صورت عاج
 مصفا یعنی وہ گردن تھی ایسی
 بشکل نقرہ بانور و ضیا تھی
 کہوں کیا عضو عضو ان کے بدن کا
 بوضع خود مناسب اور زیبا
 بخوبی تھے تہا در فخر عالم
 تمامی عضو تن مربوط باہم
 حکم سینہ صفائی میں برابر
 مگر سینہ عریض و پهن و خوشتر
 فراخی دونوں شانوں میں عیاں تھی
 ہر ہر استخوان میں تھی بزرگی
 بدن جو کچھ کھلا پوشاک سے تھا
 درخشندہ وہ نور پاک سے تھا
 گلوائے پاک سے تاناف والا
 خط مو تھا کھنچا باریک و زیبا
 سوا اس کے حکم سینہ سراسر
 معری مو سے تھا صافی برابر

کلائی دونوں شانے اور بازو
 وزن تھے بزیب کثرۃ مو
 و ان کے صدر عالی کی بلندی
 خط مو سے رکھے تھی ارجندی
 طویل الزند دونوں دست والا
 کشادہ تھی کف دست مصفا
 بزرگی اس کف پا میں عیاں تھی
 نمایاں دونوں قدموں میں بزرگی
 کشیدہ تھیں وہ انگشتان والا
 لقب ہے سائل الاطراف جن کا
 کف پا میں سائی تھی یہ خوبی
 کہ رہتی تھی زمین پر سے وہ اونچی
 ہوا وارو بوصف پائے اقدس
 کہ تھے پائے مبارک نرم و المس
 جدا رہتی زمین سے یوں کف پا
 کہ پانی اس کے نیچے سے گزرتا
 زمیں پر جب خراں آپ جاتے
 قدم کو اپنے برکنہ اٹھاتے
 انہیں ہوتا خیال مثل پیشیں
 یہ نرمی راہ جاتے سرور دیں
 ہوا یہ حال بھی وارو بہ اخبار
 کہ جس دم آپ جاتے تند رفتار
 تو اس دم تھے عیاں یہ صاف معنی
 بلندی سے ہے گویا میل پستی

انہیں جب دیکھنا منظور ہوتا
 نظر کرتے تھے حضرت بے عجباً
 بہت رہتے تھے آنکھوں کو جھکائے
 نظر یعنی سوئے باطن لگائے
 زمیں اکثر مشرف تھی نظر سے
 فلک کم بہرہ ور ہوتا بھر سے
 تامل سوچ تھا کیا ہی نظر میں
 سایا تھا لحاظ ان کی بھر میں
 بیان کرتا ہے راوی بعد اس کے
 کہ جب ساتھ آپ کے اصحاب ہوتے
 تو یہ ارشاد فرماتے تھے حضرت ﷺ
 چلو تم مجھ سے آگے کر کے سبقت
 عجب اخلاق تھے خیر الوریٰ کے
 کہ ہوں مخدوم پیچھے خادم آگے
 سنو یہ اور عادت مصطفیٰ کی
 کہ ہوتا جو کوئی ان سے ملاقی
 جناب پاک کرتے اس کو خوش گام

بتقدم اسلام دین اسلام

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ زنان
 مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے اگر وہ ہمارے
 حبیب محمد ﷺ کو دیکھتیں تو دلوں کے ٹکڑے کر ڈالتیں۔

اے زلیخا اس کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے

اس پہ سر کھٹتے ہیں دائم اور اس پر اٹھیاں

(۳) اور آپ کا خوش بیان اور شیریں زبان اور فصیح اللسان ہونا سب کو

حسین ہے۔ آپ کے انفاس قدسیہ اور کلمات طہیات اس وقت تک باسانید صحیحہ و جیدہ محفوظ ہیں۔ جن سے آپ کی فصاحت و بلاغت اور شیریں زبانی کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔

(۴) اور آپ مبارک الی الدہر بھی ہیں جیسا کہ بشارت دوم میں گزرا۔ مشرق و مغرب شمال و جنوب میں کروڑہا مسلمان نماز میں اور نماز کے بعد اور مختلف اوقات میں اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید ○

ترجمہ = اے اللہ برکت نازل فرما محمد ﷺ پر اور محمد ﷺ کی آل پر جیسے آپ نے ابراہیم اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی بلاشبہ آپ قابل ستائش اور بڑی بزرگی والے ہیں۔

پڑھتے ہیں۔ اس سے زائد اور کیا مبارک الی الدہر ہونے کی دلیل ہو سکتی ہے۔

(۵) قوت میں آپ کا یہ حال تھا کہ رکنا نہ پہلوان کو جو قوت میں اپنی نظیر نہ رکھتا تھا ایک روز آنحضرت ﷺ سے جنگل میں مل گیا اور یہ کہا کہ آپ مجھ کو پچھاڑ دیں تو میں آپ کو نبی برحق جانوں۔ آنحضرت ﷺ نے اس کو پچھاڑ دیا اس نے دوبارہ لڑنے کے لیے کہا آپ نے اس کو دوبارہ بھی پچھاڑ دیا۔ اس کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اگر تو اللہ سے ڈرے اور میرا اتباع کرے تو اس سے زائد عجیب چیز دکھلاؤں۔ اس نے پوچھا اس سے زائد کیا عجیب ہے۔ آپ نے ایک درخت کو بلایا آپ کے بلاتے ہی آپ کے سامنے آکھڑا ہو گیا۔ بعد ازاں یہ فرمایا کہ لوٹ جا، سو وہ درخت یہ سن کر اپنی جگہ لوٹ گیا۔

(۶) اور آپ کا شمشیر بند اور صاحب جہاد ہونا بھی مسلم ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہ شمشیر بند تھے۔ اور نہ صاحب جہاد۔ اور بقول نصاریٰ ان میں اتنی قوت بھی نہ تھی کہ وہ اپنے کو یہود سے پچا سکے۔

(۷) اور آپ صاحب حق و صداقت بھی تھے۔ کما قال تعالیٰ شانہ

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله
 ولو کره المشرکون بل جاء بالحق و صدق المرسلین ○
 ترجمہ = خدا ہی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے
 تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرکین کو ناگوار گزرے
 آنحضرت ﷺ شاعر و مجنوں نہیں۔ بلکہ حق کو لے کر آئے ہیں اور
 پیغمبروں کی تصدیق کی ہے۔

والذی جاء بالصدق و صدق به لولئک هم المتقون (سورہ زمر)
 ترجمہ = اور جو سچی بات لے کر آیا۔ اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی
 لوگ پرہیزگار ہیں۔

ایک مرتبہ ضربین الحارث نے قریش کو مخاطب بنا کر یہ کہا۔

قد کان محمد فیکم غلاما حدنا لرضاکم فیکم و احد فکم
 حدیثا و اعظمکم امانۃ حتی اذ لرایتم فی صدغیہ الشیب و جاءکم
 ما جاءکم قلتم انه ساحر لا و اللہ ما هو بساحر

ترجمہ = محمد ﷺ تم میں نوجوان تھے سب سے زائد پسندیدہ سب
 سے زائد سچے سب سے زائد امین۔ لیکن جب تم نے ان کے جانبین
 راس میں بڑھاپا دیکھا اور وہ تمہارے پاس یہ دین حق لے کر آئے تو تم
 ان کو ساحر اور جاود گر کہنے لگے ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم وہ ساحر نہیں۔

اور ہر قل شاہ روم نے جب ابوسفیان سے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ و التسلیم
 کے متعلق یہ دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی اس کو متمم یا کذب کیا ہے تو اس پر
 ابوسفیان نے یہ جواب دیا کہ ہم نے ان سے کبھی کوئی کذب نہیں دیکھا۔

(۸) اور اقبال مند ہونا بھی ظاہر ہے اس لیے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جیسا

آپ کو اقبال عطا فرمایا ایسا اقبال آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔

(۹) اور دائیں ہاتھ سے میب کام اور عجیب و غریب کرشمہ ظاہر ہونے

سے، معجزہ شق قمر کی طرف اشارہ ہے۔

چودستش بر آ بیعت شمشیر بیم
 بہ معجز میان قمر زود و بیم
 اور علی ہذا جنگ بدر اور جنگ حنین میں ایک مٹی خاک سے تمام مشرکین
 کو خیرہ کر دیا یہ بھی آپؐ کے دائیں ہاتھ کا میب کام تھا۔
 (۱۰) تیرا انداز ہونا بنی اسمعیل کا مشہور شعار ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے۔

لرموابنی اسمعیل فان اباکم کان رامیا
 ترجمہ = اے بنی اسمعیل تیرا انداز ہی کیا کرو اس لیے کہ تمہارا باپ تیر
 انداز تھا

اور دوسری حدیث میں ہے۔

من نعلم الرمیبی ثم ترکہ فلیس منا
 ترجمہ = جو تیرا انداز ہی سیکھ کر چھوڑ دے۔ وہ ہم میں سے نہیں۔
 (۱۱) اور لوگوں کا آپؐ کے نیچے گرنا۔ یعنی خلق اللہ کا آپؐ کے تابع ہونا یہ
 بھی اظہر من الشمس ہے۔ چند ہی روز میں ہزاران ہزار اسلام کے حلقہ بگوش بن
 گئے۔ کمال قال اللہ تعالیٰ شانہ

اذا جاء نصر اللہ والفتح ورايت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا
 ○ فسبح بحمد ربک استغفر لہ کان توبابا ○

ترجمہ = جب اللہ کی نصرت اور فتح آپؐ نے لوگوں کو اللہ کے
 دین میں جوق در جوق داخل ہوتے دیکھ لیا تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید
 کیجئے اور استغفار پڑھئے بے شک خدا بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔
 (۱۲-۱۳) اور آپؐ کی شریعت ابد الابد تک رہے گی، چنانچہ قرآن کریم

حسب وعدہ الہی ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ○

ترجمہ = بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
 تیرہ صدی سے بالکل محفوظ چلا آتا ہے۔ بجز اللہ اب تک اس کے ایک
 نقطہ اور ایک شوشہ میں بھی سرسوقاوت نہیں آیا۔ اور انشاء اللہ تعالیٰ تا قیام

قیامت اسی طرح رہے گا۔ اور یہود و نصاریٰ کو اپنی تورات و انجیل کا حال خوب معلوم ہے۔ لکھنے کی حاجت نہیں۔ اور آپؐ کی سلطنت کا عصا راستی اور صداقت کا عصا ہے ہمیشہ اس سے اتفاق حق اور ابطال باطل ہوتا رہتا ہے۔

(۱۴) اور آپؐ صداقت کے دوست اور شرارت کے دشمن تھے۔ کما

قال اللہ جل جلالہ

لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص

عليكم بالمومنين رؤف رحيم ○

ترجمہ = بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایسے رسول آگئے ہیں کہ جن پر تمہاری تکلیف شاق ہے تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہیں۔ مومنین پر نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔

ياايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلق عليهم

الابواب ترجمہ = اے نبی کریم کفار و منافقین سے جنگ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔

اور آپؐ کی امت کے یہ اوصاف ہیں۔

اشد آء على الكفار رحماء بينهم لزله على المومنين اعزة على

الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم

ترجمہ = کافروں پر بہت سخت اور آپس میں بہت مہربان مومنوں پر نرم

اور کافروں پر سخت۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کریں گے۔ اور کسی ملامت

کرنے والے کی ملامت کی بالکل پروا نہ کریں گے۔

اور عجب نہیں کہ شرارت سے ابو جہل مراد ہو کہ جو سرتاپا شرارت تھا

اور صداقت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوں جو سرتاپا صدق و

صداقت تھے اور بے شک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اہل تھے کہ ان

کو ظلیل و صدیق یعنی دوست بنایا جائے۔

(۱۵) اور آپؐ کے کپڑوں سے خوشبو بھی آیا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ ایک

عورت نے آپؐ کا پینہ مبارک اس لیے جمع کیا۔ تاکہ دلہن کے کپڑوں کو اس سے

معطر کرے۔

(۱۶) اور قرن اول میں بہت سی شہزادیاں مسلمانوں کی خادم بنی ہیں۔ چنانچہ شہربانو یزد و جروشہ کسری کی بیٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھی۔

(۱۷) نجاشی شاہ حبشہ اور منذر بن ساوی شاہ بحرین اور شاہ عمان اور بہت سے امیر و کبیر آپؐ پر ایمان لائے اور آپؐ کے حلقہٴ جگوش بنے اور آپؐ کی خدمت میں سلاطین و امراء نے ہدایا بھیج کر فخر و سرفرازی حاصل کی۔ چنانچہ مقوقس شاہ قبط نے آپؐ کی خدمت میں تین بانڈیاں اور ایک حبشی غلام اور ایک سفید نچر اور ایک سفید حمار اور ایک گھوڑا اور کچھ کپڑے بطور ہدیہ ارسال کئے۔

(۱۸) اور آپؐ کے بعد قریش میں خلافت رہی۔ آپؐ کی اولاد میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں صدہا خلیفہ اور حکمران ہوئے۔ حجاز و یمن، مصر و شام وغیرہ وغیرہ میں حکومت و سلطنت پر فائز رہے اور قیامت کے قریب امام مہدیؑ کا ظہور ہو گا۔ جو امام حسنؑ کی اولاد سے ہوں گے اور تمام روئے زمین کے خلیفہ ہوں گے۔

(۱۹-۲۰) اور آپؐ کی ستائش و ذکر خیر بھی ابد الابد تک رہے گا۔ ہر اذان میں اشہدان لا الہ الا اللہ کے ساتھ بلند آواز سے اشہدان محمد رسول اللہ روزانہ پانچ مرتبہ کروڑہا مسلمان پکارتے ہیں۔ کوئی وعظ اور خطبہ ایسا نہیں کہ جس میں آپؐ کا نام پاک محمد ﷺ نہ لیا جاتا ہو۔ محمد ﷺ اور احمدؑ کے معنی ستودہ کے ہیں۔ اس بشارت کے شروع میں یا احمد کا لفظ صراحتاً مذکور تھا۔ مگر حسد کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ مگر تاہم یہ اوصاف تو سوائے محمد ﷺ کے کسی پر صادق نہیں آتے۔

نصاری کے زعم و اعتقاد پر تو حضرت مسیح بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی طرح اس بشارت کا مصداق نہیں ہو سکتے اس لیے کہ نصاریٰ صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کے ترنویں باب کو مسیح علیہ السلام کی بشارت قرار دیتے ہیں اور وہ یہ ہے۔

”ہمارے پیغام پر کون اعتقاد لایا۔ اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا اس

کے ڈیل و ڈول کی کچھ خوبی نہ تھی اور نہ کچھ رونق کہ ہم اس پر نگاہ کریں اور کوئی نمائش بھی نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں وہ آدمیوں میں نہایت ذلیل و حقیر تھا اور پھر آیت پیغم میں ہے۔

”وہ ہمارے گناہوں کے سبب گھائل کیا گیا۔ اور ہماری بد کاریوں کے باعث پکلا گیا۔“

معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جب نصاریٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے تھے تو وہ اوصاف زبور کا جو بالکل اس کی ضد ہیں۔ کیسے مصداق ہو سکتے ہیں۔

ہمارے اعتقاد میں منجملہ دیگر تحریفات کے صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کا ترنواں باب قطعاً ”و یقیناً“ الحاقی اور اختزاعی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حاشا ثم حاشا ہرگز ایسے نہ تھے۔ وہ تو دنیا اور آخرت میں وجیہ (آبرو اور عزت والے) اور خدا کی مقربین میں سے تھے۔ لیکن بائیں ہمہ اس بشارت کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہیں اس لیے کہ نہ آپ شمشیر بند اور تیر انداز تھے اور نہ مجاہد اور نہ آپ کی شریعت دائمی ہے اور نہ آپ کی بعثت عام۔ اور نہ آپ کے گھرانہ میں کوئی شہزادی آئی کہ جو آپ کی بیوی یا لونڈی ہوتی اس لیے کہ آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ نیز آپ کے کوئی باپ دادا نہ تھا۔ آپ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

حضرت ملاکی - جبقوق - یسعیاہ - عیسیٰ علیہم السلام
کی خاتم النبیین ﷺ کے متعلق بشارتیں

بشارت سوم

از صحیفہ ملاکی علیہ الصلوٰۃ والسلام (باب سوم آیت اول)

دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے میری راہ کو درست کرے گا اور وہ خداوند جس کی تلاش میں تم ہو۔ ہاں ختنہ کا رسول جس سے تم خوش ہو وہ اپنی ہیکل میں ناگماں آوے گا دیکھو وہ یقیناً "آوے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے پر اس کے آنے کے دن کون ٹھہر سکے گا۔ اور جب وہ نمود ہو گا کون ہے جو کھڑا رہے گا۔ آم

اس بشارت میں ایسے رسول کی آمد و ظہور کا ذکر ہے کہ صاحب ختان ہو گا۔ اور اسی وجہ سے آپ کی بعثت سے قبل یہود و نصاریٰ کو رسول اللہ کا انتظار تھا۔ مگر آج کل نسخوں میں بجائے ختنہ کے رسول کے عہد کا رسول مذکور ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی عہد سے ختنہ ہی کا عہد مراد ہے جیسا کہ سفر پیدائش کے باب ہفدہم کی آیت وہم سے معلوم ہوتا ہے۔

اور میرا عہد جو میرے اور تمہارے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم یاد رکھو سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند زینہ کا ختنہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھلٹی کا ختنہ کرو۔ اور یہ اس عہد کا نشان ہو گا۔ جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔

بشارت چہارم

از صحیفہ جبقوق علیہ الصلوٰۃ والسلام (باب ۳ آیت ۳)

"خدا تمان سے اور وہ جو قدوس ہے۔ کوہ فاران سے آیا۔ اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا۔ اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی۔"

یہ بشارت سرور عالم ﷺ کے حق میں نہایت ہی ظاہر ہے سوائے آنحضرت ﷺ کے اور کون پیغمبر فاران سے مبعوث ہوا اور زمین اس کی حمد سے معمور ہوئی۔ چنانچہ ہر دوست اور دشمن کی زبان پر آپ کا نام محمد ﷺ اور احمد ﷺ ہے۔ اور ایک قدیم عربی نسخہ میں یہ لفظ ہیں۔

وامتلات الارض من تحمید احمد ﷺ

ترجمہ = یعنی تمام زمین احمدؑ مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی حمد سے بھر گئی۔
مگر حاسدین نے اس جملہ کا رہنا گوارا نہ کیا۔ اور بعد کی اشاعت میں اس
جملہ کو صحیفہ مذکور سے علیحدہ کر دیا۔

بشارت پنجم

از صحیفہ - سعياء عليه الصلوة والسلام باب (۲۸ آیت ۱۳)

”سو خداوند کا کلام ان سے یہ ہو گا حکم پر حکم۔ حکم پر حکم۔ قانون پر
قانون۔ قانون پر قانون توہڑا یہاں توہڑا وہاں۔“

چنانچہ قرآن عزیز اسی طرح نما ”نما“ نازل ہوا۔ اور تمام عالم کے لیے
دستور اور قانون بنا اور اسی قانون اور دستور سے قیصر و کسری کا تختہ الٹا گیا اور اسی
قرآن اور حدیث سے مسلمان روئے زمین پر حکومت کرتے رہے۔ رہی انجیل سو
وہ علماء مسیحین کے نزدیک منزل من اللہ ہی نہیں۔ بلکہ وہ حولہ بین کی
تصنیف ہے۔ اور صحیفہ مذکور کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب موصوف کا
منزل من اللہ ہونا ضروری ہے۔

اور ہمارے نزدیک جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوة والسلام کو دی گئی وہ
تمام کتاب ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ قرآن کریم کی طرح نما ”نما“ نازل نہیں
ہوئی۔ قال تعالیٰ شانہ

وقرانا فرقناہ لتقرآہ علی الناس علی مکث و نزلناہ تنزیلا
وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القران جملة واحدة کذلک
لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا ○

ترجمہ = قرآن کو ہم نے متفرق کر کے نازل کیا۔ تاکہ آپ لوگوں کے
سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔
کافر کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا کہہ دو کہ ہم نے
اسی طرح نازل کیا۔ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط رکھیں اس لیے ہم نے

ٹھہر ٹھہر پڑھ سنایا۔

بشارت ششم

از صحیفہ - سعیاہ علیہ الصلوٰۃ والسلام (باب ۴۲ آیت اول)

دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالتا میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے۔
میں نے اپنی روح اس پر رکھی۔ وہ قوموں کے درمیان عدالت جاری
کرائے گا۔

یہ بشارت بھی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے صریح ہے۔ اس لیے
کہ میرا بندہ یہ ترجمہ عبد اللہ کا ہے اور عبد اللہ بھی آپ کے ناموں میں سے ایک
نام ہے جیسا کہ قرآن عزیز میں ہے۔

لما قام عبد اللہ ترجمہ = جب عبد اللہ کھڑا ہوا۔
اور قرآن عزیز میں بکثرت عبد اللہ کے لقب سے آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔
کما قال تعالیٰ۔

سبحن الذی اسرى بعبدہ وقال تعالیٰ مما نزلنا علی عبدنا
ترجمہ = پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کر لے گیا۔ اس چیز سے جو ہم نے
اپنے بندے پر اتاری۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نصاریٰ کے اعتقاد میں خدا کے بندے
نہیں بلکہ خدا اور معبود ہیں۔ لہذا وہ اس کے مصداق نہیں ہو سکتے اور برگزیدہ بعینہ
ترجمہ مصطفیٰ کا ہے کہ جو آنحضرت ﷺ کا مشہور و معروف نام ہے اور جس
سے میرا جی راضی ہے۔ یہ ترجمہ مرتضیٰ کا ہے کہ جو آنحضرت ﷺ کا ایک نام
پاک ہے۔

اور بزعم نصاریٰ اس جملہ کا مصداق یعنی جس سے میرا جی راضی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ ان کے زعم میں
مصلوب و متحول ہوئے۔ اور جو متحول و مصلوب ہو جائے وہ نصاریٰ کے نزدیک

لمعون ہے جیسا کہ گیتوں کے تیرے خط کے تیرھویں درس سے معلوم ہوتا ہے۔
 مسج جو ہمارے لیے لعنتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت
 سے چھڑایا۔ کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا۔ وہ لعنتی ہے۔ اہ
 اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام
 سے نصاریٰ کے اس زعم باطل کی بنا پر معاذ اللہ خدا ان سے راضی نہیں۔
 الحاصل محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ رضی اللہ عنہما بے شبہ خدا کی برگزیدہ بندہ اور
 رسول ہیں جن سے خدا راضی ہے اور کتب سیر میں آپ کے اسماء مبارکہ میں آپ
 کا ایک نام نامی مرتضیٰ اور رضی بھی لکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 آپ کے صحابہ کرام کا خاص شعار ہے۔ کمال قال تعالیٰ شانہ

لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرة محمد
 رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء و بینہم رکعاً
 سجدا ینتغون فضلاً من اللہ و رضواناً سیما ہم فی وجوہہم من
 اثر السجود ذلک مثلہم فی النورۃ

ترجمہ = البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا جبکہ وہ اس درخت
 کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ محمد رضی اللہ عنہ کے رسول ہیں
 اور جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں مہربان ہیں
 آپ ان کو رکوع و سجود کرتے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا طلب کرتے
 دیکھیں گے۔ صلاح اور تقویٰ کی نشانی ان کے چہروں پر سجدہ کے اثر سے
 نمایاں ہے یہ ہے ان کی شان کہ جو توراہ میں مذکور ہے۔

اور روح سے مراد وحی الہی ہے کہ جس پر ارواح و قلوب کی حیات کا دار
 و مدار ہے کما قال تعالیٰ شانہ و كذلك لو حینا الیک روحاً من امرنا اسی
 طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اپنے حکم سے۔

سوالحمد اللہ کہ حق تعالیٰ شانہ نے آپ پر مردہ قلوب کی حیات اور زندگی
 کے لیے ایک روح یعنی قرآن عظیم کو اتارا جس نے نازل ہو کر مردہ قلوب کو حیات

اور بے شمار مریض دلوں کی شفا بخشی کما قال تعالیٰ شانہ۔

ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین
ترجمہ = اور اتارتے ہیں ہم ایسا قرآن کو جو مؤمنین کے لیے سراسر شفا
اور رحمت ہے۔

اور مبعوث ہو کر آپؐ نے باذن الہی عدالت کو بھی جاری فرمایا کما قال
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ

فلنلک فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهل آءہم وقل آمنت
بما انزل اللہ من کتاب و امرت لاعدل بینکم
ترجمہ = پس اسی طرف بلائیے اور اسی پر قائم رہیے جیسا کہ آپؐ کو حکم
کیا گیا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ فرمائیے اور یہ کہتے کہ میں ایمان
لایا اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر اور حکم کیا گیا ہوں کہ تمہارے درمیان
عدل و انصاف کروں۔ (سورہ شوری)

اور چونکہ عدالت کا جاری کرنا شوکت کو متقاضی ہے۔ اس لیے یہ وصف
بھی علی زعم انصاری حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر صادق نہیں۔ اس لیے کہ
انصاری کے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں تو اتنی قوت بھی نہ تھی کہ
جو اپنے کو قتل و صلب سے بچا سکتے۔ شوکت تو درکنار۔
پھر باب مذکور کی دوسری آیت میں ہے۔

کہ وہ نہ چلائے گا اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں
نہ سنائے گا۔

یہ جملہ بھی نبی کریم ﷺ پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ چنانچہ صحیح
بخاری کے باب کراہتہ التغلب فی الاسواق میں عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ
میں نے عبد اللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر یہ دریافت کیا کہ
رسول اللہ ﷺ کے وہ اوصاف جو توریت میں مذکور ہیں بیان فرمائیے۔ جواب
میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص نے بت سے اوصاف ذکر فرمائے۔ منہلہ ان کے یہ

فرمایا۔ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق

ترجمہ = وہ نبی نہ بد خواہ اور نہ سنگ دل ہو گا۔ اور نہ بازاروں میں شور کرنے والا۔

اور باب مذکور کی تیسری آیت میں ہے۔ ”وہ عدالت کو جاری کرائے گا کہ دائم رہے۔“

اس سے آنحضرت ﷺ کی شریعت خرا کا الی یوم القیامت باقی رہنا مراد ہے جس طرح آنحضرت ﷺ کی شریعت اب تک برابر محفوظ ہے اور انشاء اللہ ثم انشاء اللہ ہمیشہ رہے گی کوئی امت اس بارہ میں امت محمدیہ کی ہمسری نہیں کر سکتی کسی امت نے بھی اپنے نبی کی شریعت اور اس نبی کے اقوال و افعال کی حفاظت امت محمدیہ کے مقابلہ میں عشر عشر بھی نہیں کی۔ اور شریعت کے دائم ہونے سے خاتم الانبیاء ہونے کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ شریعت کا دوام اور بقا الی یوم القیامۃ جب ہی ہو سکتا ہے کہ اس نبی کے بعد اور کوئی نبی نہ بنایا جائے۔ ورنہ اگر اس کے بعد کوئی اور نبی بنایا جائے۔ تو شریعت سابقہ شریعت لاحقہ سے منسوخ ہو جانے کی وجہ سے دائمی نہ رہے گی۔

اور چوتھی آیت میں ہے۔

”اس کا زوال نہ ہو گا اور نہ مٹا جائے گا۔ جب تک راستی کو زمین پر قائم نہ کر لے۔“

چنانچہ نبی اکرم ﷺ کا وصال جب ہوا کہ

الیوم اکملت لکم دینکم و اتمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا

ترجمہ = آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے پسند کیا۔

کی بشارت نازل ہو گئی۔ اور انا فتحنا لک فتحا مبینا اور اذا جاء

نصر اللہ والفتح

ترجمہ = بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی۔ جب خدا کی مدد اور فتح آئی۔

کا وعدہ پورا ہو گیا اور عجب نہیں کہ راستی قائم کرنے سے خلافت صدیقیہ کی جانب اشارہ ہو۔ جیسا کہ بعض علماء کی رائے ہے اس لیے کہ راستی ترجمہ صدق کا ہے اور صدق کا اطلاق صدیق پر ایسا ہی ہے جیسا کہ عدل کا اطلاق زید پر۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے مرض الوفا میں صدیق اکبرؓ کو امام بنا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ میرے بعد صدیق اکبرؓ خلیفہ ہونے چاہیں۔ تاکہ صدق اور راستی قائم ہو۔ اور چھٹی آیت میں ہے۔ ”اور تیری حفاظت کروں گا۔“

یہ جملہ بھی سوائے آنحضرت ﷺ کے کسی اور پر صادق نہیں آتا۔ اس لیے کہ اللہ نے آپؐ سے وعدہ فرمایا تھا۔

واللہ یعصمک من الناس اللہ آپؐ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔
چنانچہ یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا۔

ہاں بزعم نصاریٰ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حفاظت نہیں ہوئی اور پھر چھٹی آیت میں جو نور کا ذکر ہے اس سے نور ہدایت اور نور شریعت مراد ہے۔ جیسا کہ قرآن عزیز میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے۔

یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نوراً مبیناً
(سورۃ نساء)

ترجمہ = اے لوگو! بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک برہان آچکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک نور (قرآن کریم) نازل کیا۔

فالذین امنوا بہ وعزروه و نصر وہ و اتبعوا النور الذی انزل معہ
لوئک ہم المفلحون (سورہ اعراف)

ترجمہ = پس جو لوگ آپؐ پر ایمان لائے اور آپؐ کی مدد کی اور امتیٰی نور کا اتباع کیا کہ جو آپؐ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ یہی لوگ فلاح والے ہیں۔

يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه
و سراجا منيرا ○ (سورۃ احزاب)

ترجمہ = اے نبی ہم نے تمہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا خدا کی
طرف خدا کے حکم سے بلانے والا اور ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا
ہے۔

يريدون ليطفوا نور الله بافواهم والله متم نوره ولو كره الكافرون
○ (سورۃ صف)

ترجمہ = کافر اپنے مومنوں کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں
حالانکہ اللہ اپنے نور کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ اگرچہ کافروں کو ناگوار
ہو۔

اور آیت ہشتم میں ہے۔ ”اور اپنی شوکت دوسرے کو نہ دوں گا“

یہ جملہ بھی حرف بحرف آنحضرت ﷺ کے ارشاد کے مطابق ہے۔

اعطيت مالم يعط احد من الانبياء قبلي۔

ترجمہ = مجھ کو منجانب اللہ وہ چیزیں عطا کی گئیں کہ جو انبیاء سابقین میں
سے کسی کو نہیں دی گئیں۔

مثلاً ختم نبوت و رسالت۔ عموم بعثت و دعوت۔ مقام محمود۔ شفاعت
کبریٰ۔ معراج سب سوات ان فضائل و مزایا سے سوائے نبی اکرم ﷺ کے
اور کسی نبی کو سرفراز نہیں کیا گیا۔

اور اسی طرح حق تعالیٰ شانہ نے آپ کو وہ آیات بیانات محاسن اخلاق
فضائل و شمائل۔ علوم و معارف عطا فرمائے کہ جو کسی نبی اور رسول کو نہیں عطا
فرمائے۔ خصوصا ”قرآن حکیم کا معجزہ تو ایسا روشن معجزہ ہے کہ جس کے سامنے
موافق و مخالف سب ہی کی گردنیں خم ہیں۔

ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ○

ترجمہ = یہ خدا کا فضل ہے۔ وہ فضل جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے اور

اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اور گیارہویں آیت میں ہے

”بیابان اور اس کی بستیاں قیدار کے آباد دیہات اپنی آواز بلند کریں گے۔
 صلح کے بننے والے ایک گیت گائیں گے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر سے لکاریں گے۔
 وہ خداوند کا جلال ظاہر کریں گے۔“

قیدار حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک صاحبزادہ کا نام ہے اور
 اس بیابان سے فاران کا بیابان مراد ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام۔
 حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو چھوڑ آئے تھے۔ جیسا کہ
 کتاب پیدائش کے اکیسویں باب کی اکیسویں آیت سے ظاہر ہے اور یہ وہی جگہ ہے
 کہ جہاں اس وقت مکہ معظمہ آباد ہے۔ اسی جگہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسمعیل
 علیہ الصلوٰۃ والسلام مقیم رہے اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی یہیں مقیم رہے۔
 الحاصل اس جملہ میں آپ کے مولد یعنی جائے ولادت کی طرف اشارہ ہے یعنی
 آنحضرت ﷺ مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے اور آپ کی امت اس بیابان میں
 لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور لبیک اللہم لبیک کے نعروں سے اللہ کے جلال کو
 ظاہر کرے گی۔

اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ نبی مہشر قیدار بن اسمعیل کی
 اولاد سے ہو گا۔ لہذا اس بشارت کا مصداق انبیاء بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی نہیں
 ہو سکتا اس لیے کہ وہ سب حضرت اسرائیل کی اولاد سے ہیں۔ نہ کہ قیدار بن
 اسمعیل کی اولاد سے اور صلح مدینہ طیبہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس سے آنحضرت
 ﷺ کے مقام ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

بشارت ہفتم

(از انجیل متی باب ۲۱، آیت ۴۲)

”یسوع نے انہیں کہا کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو

راج گیروں نے ناپسند کیا وہی کونے کا سرا ہوا۔ یہ خدا کی طرف سے ہیں اور ہماری نظروں میں عجیب اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو جو اس کے میوہ لاوے دی جائے گی۔ جو اس پتھر پر گرے گا چور ہو جائے گا۔ پر جس پر وہ گرے اسے پس ڈالے گا۔“

راج گیر اور معماروں سے بنی اسرائیل مراد ہیں اور کونے کے پتھر سے ہمارے نبی اکرم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ کیونکہ آپ بنی اسرائیل کی نظر میں ایک ناپسند پتھر کے مشابہ تھے۔ بنی اسرائیل نے ہر چند آپ ﷺ کو رو کرنا چاہا مگر آپ ﷺ تائید الہی سے کونے کا سرا یعنی خاتم النبیین ہو کر رہے۔

کماروی ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه و اجملہ الاموضع لبنۃ من زلویۃ فجعل الناس یطوفون بہ و یعجبون لہ و یقولون ہلا وضعت البنۃ وانا خاتم النبیین رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء و فی روایۃ انا سددت موضع اللبنۃ و ختمت بی البنیان و ختمت بی الرسل۔

ترجمہ = آن حضرت ﷺ نے فرمایا میری اور انبیاء سابقین کی ایسی مثال ہے کہ کسی نے ایک محل نہایت عمدہ تیار کیا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس محل کا چکر لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ کیوں چھوڑ دی گئی۔ میں ہی خاتم النبیین ہوں یعنی میں نے ہی اس اینٹ کی جگہ کو پر کیا ہے۔ اور میرے ہی سے یہ تعمیر ختم ہوئی۔ اور مجھ ہی پر انبیاء و رسل کا سلسلہ ختم ہوا۔

پھر آپ ﷺ پر جو گرا وہ بھی چور چور ہوا اور جس پر آپ ﷺ گرے وہ چور چور ہوا۔ چنانچہ جنگ بدر میں قریش آپ پر گرے اور وہ خدا کے فضل سے چور چور ہوئے اور فتح مکہ کے وقت آپ ان پر گرے تب بھی وہی چور چور ہوئے۔ اور آپ کے بعد صحابہ کرامؓ ایران، شام، روم وغیرہ وغیرہ؛

گرے اور سب کو چور کیا اور پھل اور میوہ لانے والی قوم بنی اسماعیل ہیں کہ جو آل حضرت ﷺ کی تربیت سے پھل لائی اور حکومت اور سلطنت کے مالک ہوئے اور یہ آسمانی بادشاہت ان کے حصہ میں آئی۔

لہذا اس بشارت کا مصداق بجز خاتم النسنن سید الاولین والآخرین محمد ﷺ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، رہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سو وہ خاص حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسل سے تھے، بنی اسرائیل میں بہت محترم تھے وہ ناپسند پتھر کے کیسے مشابہ ہو سکتے ہیں۔ دوم یہ کہ وہ خاتم النسنن نہیں جیسا کہ ماسبق میں معلوم ہو چکا ہے کہ اہل کتاب علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک اور نبی کے منظر تھے۔ نیز ماسبق میں یہ بھی گزر چکا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے۔ تو یہودیوں نے ان سے دریافت کیا ان

سوم یہ کہ حضرت مسیح خود تو کبھی کسی پر نہ گرے اور یہود جب ان پر گرے تو بقول نصاریٰ حضرت مسیح چور چور ہوئے۔ واللہ اعلم

بشارت ہشتم

(از انجیل یوحنا باب چہار و ہم آیت ۱۶)

(۱۶) میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔

(۲۶) وہ تلی دینے والا جو روح القدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھلا دے گا اور سب باتیں جو کچھ کہ میں نے تمہیں کہی ہیں یاد دلانے گا۔

(۲۹) اور اب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پہنچ کر کہا تاکہ جب وہ وقوع میں آئے تو تم ایمان لاؤ۔

(۳۰) بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا۔ اس لیے کہ اس جہاں کا سرور آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ اور باب ۱۵ میں ہے

آیت (۲۷) وہ (یعنی روح حق) میرے لیے گواہی دے گا

اور باب ۱۶، آیت (۷) میں ہے

(۷) میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا تم پاس نہ آئے گا۔ پر (۸) اگر میں جاؤں تو میں اسے تم پاس بھیج دوں گا وہ آن کر دنیا کو (۱۰) گناہ سے اور راستی سے اور عدالت سے تقصیر وار ٹھہرائے گا گناہ سے اس لیے کہ وہ (۱۱) مجھ پر ایمان نہیں لائے راستی سے اس لیے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں (۱۲) اور تم مجھ کو پھر نہ دیکھو گے۔ عدالت سے اس لیے کہ اس جہاں کے سردار پر حکم کیا گیا ہے۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں۔ کہ میں تمہیں اب کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے (۱۳) لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتا دے گی اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی۔ لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبر دے گی۔ وہ میری بزرگی کرے گی۔ انھی

اصل بشارت میں لفظ احمد موجود تھا۔ کما قال تعالیٰ:

وَاذْ قَالِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بَيْنِي اسْرَائِيْلَ اِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ الْيَكْمِ
مَصْدَقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيِّ مِنَ التَّوْرَةِ و مَبْشَرًا بِرَسُوْلٍ يَّاتِي مِنْ بَعْدِي
اسْمُهٗ اَحْمَدُ

ترجمہ = اس وقت کو یاد کرو کہ جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ”احمد“ ہے۔

اور جیسا کہ انجیل برنباس میں اب بھی موجود اور مصرح ہے لیکن جب انجیل کا اصل عبرانی زبان سے یونانی زبان میں ترجمہ ہوا تو یونانیوں نے اپنی اس عادت کی بنا پر کہ وہ ترجمہ کرتے وقت ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے تھے آن حضرت ﷺ کے نام مبارک ”احمد“ کا ترجمہ بھی ”پیر کلی طوس“ سے کر دیا اور پھر

جب یونانی نسخہ کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا تو ”پیر کلی طوس“ کا معرب فار قلیط کر لیا گیا۔

ایک عرصہ تک اردو نسخوں میں ”فار قلیط“ کا لفظ رہا اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی روح القدس سے کیا گیا اور مسیحین روح القدس کے لفظ کو بطور تفسیر خطوط وحدانی میں لکھتے رہے۔ رفتہ رفتہ فار قلیط کے لفظ کو بھی علیحدہ کر دیا صرف روح القدس اور روح حق کا لفظ رہنے دیا۔ جیسا کہ حال کے نسخوں میں موجود ہے۔

مگر پھر بھی بھ اللہ مفید دعا ہے اس لیے کہ اس بشارت میں ایسے اوصاف مذکور ہیں کہ جو آپ ﷺ ہی کی ذات بابرکات پر صادق آتے ہیں۔ لہذا عیسائیوں کا یہ کہنا کہ اس سے روح القدس کا آنا مراد ہے (چنانچہ وہ روح حضرت عیسیٰ کے بعد جب حولربین ایک مکان میں جمع تھے نازل ہوئی اور اس روح کے نزول کی وجہ سے حولربین تھوڑی دیر کے لیے مختلف زبانیں بولنے لگے) بالکل بے معنی ہے اس لیے کہ اس بشارت میں اس روح حق اور فار قلیط کے چند اوصاف ذکر کئے گئے ہیں۔

اول۔۔۔۔۔ یہ کہ جب تک میں نہ جاؤں گا وہ نہ آوے گا۔

دوم۔۔۔۔۔ یہ کہ وہ میری گواہی دے گا۔

سوم۔۔۔۔۔ یہ کہ وہ گناہ اور راستی اور عدالت سے تفسیر وار ٹھہرائے گا۔

چہارم۔۔۔۔۔ یہ کہ مجھ پر نہ ایمان لائے والوں کو سزا دے گا۔

پنجم۔۔۔۔۔ یہ کہ وہ سچائی کی راہ بتلا دے گا۔

ششم۔۔۔۔۔ یہ کہ وہ آئندہ کی خبریں دے گا۔

ہفتم۔۔۔۔۔ یہ کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا۔ بلکہ جو اللہ سے سنے گا وہی کہے گا۔

ہشتم۔۔۔۔۔ یہ کہ وہ جہان کا سردار ہو گا۔

نہم۔۔۔۔۔ یہ کہ وہ میری تمام باتیں تم کو یاد دلانے گا۔

دہم۔۔۔۔۔ یہ کہ جو امور تم اس وقت برداشت نہیں کر سکتے۔ ”وہ نبی“ اس وقت آکر تم کو بتلائے گا۔

اور جو باتیں غیر مکمل ہیں۔ ان کی تکمیل کرے گا۔ اور ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور یہ تمام آنحضرت ﷺ پر صادق آتی ہیں۔۔۔۔۔

(۱) آپ کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانے پر اس لیے موقوف تھا کہ آپ ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اس لیے کہ کسی نبی کا آنا پہلے نبی کے جانے پر جب ہی موقوف ہو سکتا ہے جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہو ورنہ اگر وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو اس کے آنے سے پہلے نبی کا جانا شرط ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کہ جب وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو پہلے نبی کی موجودگی میں بھی وہ نبی مبعوث ہو سکتا ہے۔

پہلے نبی کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے جب ہی شرط ہو سکتا ہے کہ جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہو۔ الحاصل حضرت مسیح نے اس جملہ سے یہ ظاہر فرما دیا کہ وہ فار قلیط اور روح حق خاتم الانبیاء ہو گا۔ کما قال تعالیٰ

ماکان محمد اباً احد من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین

ترجمہ = محمد ﷺ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخر النبیین ہیں۔

اور حضرت مسیح خاتم النبیین نہ تھے ورنہ علماء نصاریٰ و یہود حضرت مسیح کے بعد ایک نبی کے لیے منتظر تھے اور روح کا آنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے پر موقوف نہ تھا۔ روح کا نزول تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی ہوتا تھا۔

(۲) اور آپ ﷺ نے حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گواہی بھی دی کہ حضرت مسیح بن مریم اللہ کے بندہ اور رسول تھے اور زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔

وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وماقتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ○

ترجمہ = اور انہوں نے نہ ان (عیسیٰ علیہ السلام) کو قتل کیا اور نہ سولی دی لیکن اشتباہ میں ڈال دیئے گئے اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں اختلاف کیا وہ یقیناً "شک میں ہیں خود ان کو اس کا یقین نہیں محض گمان کی پیروی ہے۔ یقیناً" حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ وہی غالب اور حکیم ہے۔

(۳-۴) اور راستی اور عدالت سے ملزم بھی کیا، اور حضرت مسیح کے نہ ماننے والوں کو پوری پوری سزا بھی دی۔ کسی سے قتال اور جہاد کیا اور کسی کو جلا وطن کیا..... جیسا کہ یہود خیر اور یہود بنو نضیر اور یہود بنو قیسقاع کے واقعات سے ظاہر ہے اور روح نے نہ کسی کو ملزم ٹھہرایا اور نہ کسی کی سرزنش کی اور آیت وہم میں سرزنش کی یہ وجہ بیان فرمانا اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس فار قلیط اور مددگار اور وکیل و شفیع کا ظہور منکرین عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہو گا۔ بخلاف روح کے کہ اس کا ظہور تو آپ کے نزدیک حورلبین پر ہوا کہ جو منکرین عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے۔ اور نہ کسی حورلبین نے کسی کو سزا دی وہ خود ہی مسکین اور عاجز تھے کسی منکر کو کیسے سزا دے سکتے تھے۔

(۵) اور آئندہ واقعات کے متعلق اتنی خبریں دیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں اور خبریں ایسی صحیح دیں کہ جن میں ان کا کوئی جز بھی کبھی خلاف واقعہ نہیں نکلا اور تاقیامت اسی طرح ظاہر ہوتی رہیں گی اور کیسے غلط ہوتیں؟

(۶-۷) اور سچائی کی تو وہ راہیں بتلائیں کہ اولین و آخرین سے کسی نے اس کا عشر عشر بھی نہ بتلایا۔ اس لیے کہ اپنی طرف سے کچھ نہ فرمایا۔

وما ينطق عن الهوى ○ ان هو الا وحى يوحى ○
ترجمہ = آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے وہ تو سوائے وحی کے اور

کچھ نہیں۔

(۸) اور بایں ہمہ جہان کے سردار اور بادشاہ بھی ہوئے اور جہان اور دنیا کی سرداری سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ﷺ کی نبوت تمام عالم کے لیے ہوگی کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہ ہوگی اور نصاریٰ نے حضرت مسیح کی صحیح تعلیمات کو محو کر دیا تھا۔ ان کو بھی یاد دلایا۔

قل یا اهل الکتاب تعالوا لی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ترجمہ = آپؐ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب ایک ایسے امر کی طرف آؤ کہ جو ہم میں اور تم میں مسلم ہے وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور ایک دوسرے کو اللہ کو سوارب نہ بنائیں۔

وقال المسیح ینسی اسرائیل اعبدوا لله ربی وربکم انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة وماؤه النار و مال الظلمین من انصار

○

ترجمہ = اور فرمایا حضرت مسیح بن مریم نے اے بنی اسرائیل بندگی کرو۔ صرف ایک اللہ کی جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ تحقیق جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

(۹) آپ ﷺ نے مبعوث ہونے کے بعد وہ باتیں بھی بتلائیں کہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل کے محل سے باہر تھیں یعنی ذات و صفات، شریعت و طریقت، حشر و نشر، جنت و جہنم کے متعلق وہ علوم و معارف کے دریا بہائے کہ جن سے تمام عالم دنگ ہے۔ اور کسی کتاب میں ان علوم کا نام و نشان نہیں اور جو امور غیر تکمیل شدہ تھے۔ آپؐ کی شریعت کاملہ نے ان سب کی تکمیل بھی کر دی۔ کما قال تعالیٰ

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم
الاسلام ديننا

آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو
پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا دین بنا کر۔

(۱۰) اور سولہویں آیت کا یہ جملہ کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس
کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فار قلیط بذات خود تمہارے ساتھ رہے گا بلکہ مراد یہ ہے
کہ اس کی شریعت اور اس کا دین ابد تک رہے گا یعنی وہ آخری دین اور اس کی
شریعت آخری شریعت ہوگی۔ اس کے بعد کوئی دین اور کوئی شریعت نہیں آئے گی
جو اس کی شریعت کی ناخ ہو۔

علمائے مسیحین اس بشارت کو روح القدس کے حق میں قرار دیتے ہیں جس
کا نزول حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے رفع الی السماء کے ۴۷ یوم بعد
حولربین پر ہوا۔ لیکن یہ قول چند وجوہ سے باطل ہے اس لیے کہ روح کا نازل
ہونا حضرت مسیح کے جانے پر موقوف نہ تھا بلکہ وہ تو ہر وقت حضرت مسیح کے ساتھ
رہتی تھی۔ اور نہ وہ روح ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔ اور نہ روح نے کسی کو راستی
اور عدالت سے ملزم ٹھہرایا اور نہ کسی یہودی کو حضرت مسیح پر نہ ایمان لانے کی
وجہ سے کبھی سزا دی البتہ آل حضرت ﷺ نے مشرکین اور کافرن سے جہاد
بھی کیا۔ اور یہودیوں کو کافی سزا بھی دی۔

نیز حضرت مسیح کا اس پر ایمان لانے کی تاکید فرمانا بالکل بے محل ہے اس
لیے کہ جو حولربین پشترعی سے روح القدس پر ایمان رکھتے تھے اس کے فرمانے
کی کیا حاجت تھی کہ جب وہ آئے تب تم ایمان لاؤ۔ حضرت مسیح کا اس قدر اہتمام
فرمانا اور اس پر ایمان لانے کی وصیت کرنا خود اس کو بتلا رہا ہے کہ وہ آنے والی
شے کچھ ایسی ہوگی۔ جس کا انکار تم سے بعید نہ ہوگا۔

پس اگر فار قلیط سے روح مراد ہوتی تو اس کے لیے چنداں اہتمام اور
تاکید کی ضرورت نہ تھی اس لیے کہ جس کے قلب پر روح کا نزول ہوگا۔ اس سے

روح کا انکار ہونا بالکل ناممکن ہے۔ نیز اس بشارت کا سیاق و سباق اس بات کو بتلا رہا ہے کہ وہ آنے والا قار قلیطِ حضرت عیسیٰ سے مغاڑ ہے۔ جیسا کہ سولہویں آیت کا یہ لفظ ”دو سرا مدگار بخشے گا“ صاف مغاڑہ پر دلالت کرتا ہے۔

مہربوت خاتم النبیین ﷺ

حضور پر نورؐ کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک مہربوت تھی جو حسی طور پر آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت کی علامت اور نشانی تھی۔ شیخ عبدالحق دہلویؒ لکھتے ہیں کہ اس مہربوت کا ذکر کتب سابقہ توریت و انجیل وغیرہ میں بھی تھا اور حضرات انبیاء سابقین جب آنحضرت ﷺ کے ظہور کی بشارت دیتے تو یہ فرماتے کہ اس نبی کا ظہور اخیر زمانہ میں ہو گا۔ اور مہربوت اس کی نشانی ہو گی۔

(اشعت اللغات صفحہ ۵۰۸ جلد ۳)

قال السهيلي والحكمة في وضع خاتم النبوة على وجه الاعتناء والاعتبار انه لما ملا قلبه صلى الله عليه وسلم حكمة وبقينا ختم عليه كما يختم على الوعاء المملو مسكا واما وضعه عند نفض كتفه الايسر فلانه معصوم من وسوسة الشيطان وذلك الموضع مدخل الشيطان ومحل وسوسته

(کذابی جمع الوسائل صفحہ ۷۲ جلد اربع الفیض الباری صفحہ ۳۱۱ جلد ۶)

ترجمہ = سہیلی فرماتے ہیں کہ مہربوت لگانے میں حکمت یہ ہے کہ جب آپؐ کے قلب مبارک کو آب زمزم سے دھو کر علم و حکمت اور ایمان و ایمان کے خزانہ سے بھر دیا گیا تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے مرگادی گئی اور دو شانوں کے درمیان بائیں جانب اس لیے لگائی گئی کہ یہ جگہ قلب کے مقابل ہے اور شیطان اسی جانب سے قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے دو شانوں کی درمیانی جگہ شیطان کی آمد اور اس کے دوسوں کا دروازہ ہے

اس لیے اس کو بند کرنے کے لیے مر لگائی۔ تاکہ شیطان کی آمد کا راستہ بند ہو جائے۔

(خصائص کبریٰ صفحہ ۵۹، ۶۰، جلد ۱، فتح الباری ص ۶۰۹، ج ۶، باب ختم نبوة ویراجع خواتم الحکم ص ۱۵۱) فائدہ: قد فصل سید نعمان آلوسی۔ الجواب النسخ لما لفظ عبد المسیح صفحہ ۹۷ جلد ۱ میں لکھتے ہیں:

قال الفاضل عید و علی القرشی فی کتابہ المسمی خلاصة سیف المسلمین الذی ہو فی لسان الارذو ای الہندی فی الصحیفة الثالثة حر والسنین ان القیسس الا و سکان الارمنی ترجم کتاب اشعیاء علیہ السلام باللسان الارمنی فی ۱۶۶۶ء الف و ستمائة وست و ستین و طبعت ۱۷۳۳ء و فیہ فی الباب الثانی و الاربعین هذه الفقرة و نصها۔ وسجو اللہ تسبیحا جدید لواتر سلطنة علی ظہرہ و اسمہ احمد انتہت و هذه الترجمة موجودة عند الارامن فانظروا فیہا۔ انتہی کلامہ

ترجمہ = فاضل حیدر علی قریشی نے اپنی کتاب خلاصہ سیف المسلمین جو اردو زبان میں ہے لکھا ہے کہ پادری اوسکان ارمنی نے صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کا ارمنی زبان میں ۱۶۶۶ء میں ترجمہ کیا جو ۱۷۳۳ء میں طبع ہوا۔ اس میں صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کے بیالیسویں باب میں یہ فقرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اور اس کی تسبیح پڑھو اس آنے والے نبی کی سلطنت اور نبوت کا نشان اس کی پشت پر ہو گا۔ یعنی اس کی پشت پر مہربوت ہو گی اور نام اس کا احمد ہو گا افسی اور یہ ترجمہ ارمنیوں کے پاس موجود ہے اس میں دیکھ لیا جائے۔

ابو نضرہ راوی ہیں کہ میں نے ابو سعید خدریؓ سے مہربوت کی بابت دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ مہربوت حضورؐ کی پشت پر گوشت کا ایک ابھرا ہوا ٹکڑا تھا۔ (شمال ترمذی) بخاری اور مسلم میں سائب بن یزید سے مروی ہے کہ مہربوت گھنڈی اور نکلہ کے مشابہ تھی۔

بعض روایات میں ہے کہ کیوتر کے بیضہ کے مشابہ تھی اور بعض روایات میں ہے کہ سب کے مشابہ تھی۔ ہر ایک نے اپنے اپنے خیال کے مطابق تشبیہ دی ہے۔

جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ نے مجھ کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ میں نے اپنا منہ آپؐ کی مہربوت پر رکھ دیا۔ میرے دہن میں سے مٹک کی خوشبو مہکنے لگی۔ (خصائص کبریٰ صفحہ ۶۰ جلد ۱)

علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ مہربوت پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا یا نہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرتی طور پر اس پر محمد رسول اللہؐ لکھا ہوا تھا۔

اخرج ابن عساکر والحاکم فی تاریخ نیسابور عن ابن عمر قال
کان خاتم النبوة علی ظهر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل
البندفۃ من لحم مکتوب فیہا باللحم محمدرسول اللہ

(خصائص کبریٰ ص ۶۰ ج ۱)

ترجمہ = ابن عساکر اور حاکم نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ مہربوت حضورؐ کی پشت مبارک پر گوشت کے گولی کے مشابہ تھی اور گوشت ہی سے قدرتی طور پر محمد رسول اللہؐ اس پر لکھا ہوا تھا۔

صحابہ کرامؓ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب حضورؐ کی مہربوت کو دیکھتے تو اس کو بوسہ دیتے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب حضورؐ پر نور کے اوصاف بیان کرتے تو یہ فرماتے بین کتفیہ خاتم النبوة و هو خاتم النبیین حضورؐ کے دو شانوں کے درمیان مہربوت تھی اور حضورؐ خاتم النبیین تھے۔ (شامل ترمذی)

غرض یہ کہ مہربوت۔ حضور ﷺ کی ختم نبوت کی حسی دلیل تھی۔ اور علماء بنی اسرائیل میں آپؐ کی یہ علامت مشہور تھی بخیرا راہب اور نسطورا اور عبد اللہ بن سلام وغیرہ وغیرہ اسی مہربوت کو دیکھ کر ایمان لائے۔ اور علماء بنی

اسرائیل کے شہادتیں کتب سیر میں مفصل مذکور ہیں۔ جن میں سے دس شہادتیں ہم نے اپنے مختصر رسالہ مسک الحتام فی ختم النبوة علی سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ذکر کی ہیں جو ”ختم نبوت“ کے نام سے مشہور ہے (جو اسی مجموعہ میں شامل ہے۔)

ختم نبوت اور اس کا مفہوم اور حقیقت

ختم نبوت کے معنی یہ ہیں کہ نبوت اور پیغمبری حضورؐ کی ذات بابرکات پر ختم ہو گئی اور آپؐ سلسلہ انبیاء کے خاتم (بالکسر) ہیں یعنی سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں اور آپؐ سلسلہ انبیاء کے خاتم (بالفتح) یعنی مرہیں۔ اب آپؐ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہ ہو گا، مگر کسی چیز کا منہ بند کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ اسی طرح حضورؐ پر نور سلسلہ انبیاء پر مرہیں اب آپؐ کے بعد کوئی اس سلسلہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور قیامت تک کوئی شخص اب اس عمدہ پر سرفراز نہ ہو گا۔ مگر ہمیشہ ختم کرنے اور بند کرنے کے لیے ہوتی ہے کما قال تعالیٰ یسقون من ریحیق مختوم ختامہ مسک یعنی سر بمر بوتلیں ہوں گی اور شراب ان کے اندر بند ہو گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے یعنی کفر اندر بند کر دیا ہے۔

مرزا صاحب کا اقرار کہ مہر بند کرنے کے لیے ہوتی ہے

حقیقتہ الوحی ص ۳ روحانی خزائن ص ۵ ج ۲۲ میں ہے ”کیونکہ وید کی رو سے تو خوابوں اور الہاموں پر مہر لگ گئی ہے“ پھر حقیقتہ الوحی ص ۶۰ روحانی خزائن ص ۶۲ ج ۲۲ پر ہے ”مگر افسوس کہ عیسائی مذہب میں معرفت الہی کا دروازہ بند ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کی ہنگامی پر مہر لگ گئی ہے۔“ اب ان عبارتوں میں مرزا صاحب کے نزدیک بھی مہر لگانے کے معنی بند کرنے کے ہیں۔

عہد نبوت سے لے کر اب تک تمام امت کے علماء اور صلحاء مفسرین اور محدثین فقہاء اور متکلمین اور اولیاء و عارفین سب کے سب ختم نبوت کے یہی معنی سمجھتے چلے آئے ہیں اور بطریق تواتر یہ عقیدہ ہم تک پہنچا۔ جس طرح ہر زمانہ میں نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کے روایت کرنے والے رہے اسی طرح اسی تواتر کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ ہم تک پہنچا ہے۔

جس طرح صلوٰۃ اور زکوٰۃ کے معنی میں کوئی تاویل قابل التفات نہیں اسی طرح ختم نبوت کے معنی میں بھی کوئی تاویل قابل التفات نہ ہوگی بلکہ ایسے صریح اور متواتر امور میں تاویل کرنا استہزاء اور تمسخر کے مرادف ہے۔

قال حبيب بن الربيع ادعاء التاويل في لفظ صراح لا يقبل لانه
لعنهان اي احتقار له صلى الله عليه وسلم۔

(کذابی شرح الفقہاء للعلاء القاری ص ۳۹۷ ج ۲)

ترجمہ = حبيب بن الربيع فرماتے ہیں۔ صریح الفاظ میں تاویل کا دعویٰ مقبول نہیں ہے اس میں آنحضرت ﷺ اور شارع علیہ السلام کی توہین اور تحقیر ہے۔

چنانچہ بعض لوگوں نے آیات صلوٰۃ و زکوٰۃ میں یہ تاویل کی ہے کہ صلوٰۃ اور زکوٰۃ اور حج عبادتوں کے نام نہیں بلکہ چند نیک اشخاص کے نام ہیں۔ اور مطلب یہ کہ ان کے پاس آمدورفت رکھا کرو۔ صلوٰۃ اور زکوٰۃ یہ اچھے لوگ تھے۔ اور زناہ ایک برا آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ زنا کے پاس بھی مت جانا یہ بہت برا آدمی ہے باقی عرف میں جس کو زنا کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی ہرج اور مضائقہ نہیں۔

حضرات نامرین غور فرمائیں کہ کیا یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ تمسخر نہیں اور کیا ایسی تاویل کسی کو کفر سے بچا سکتی ہے اسی طرح نخل اور بروزی کی تاویل بھی قرآن اور حدیث کے ساتھ تمسخر ہے۔

آپ انصاف سے فرمائیے کہ اگر آج کوئی پاکستان میں یہ دعویٰ کرے کہ

میں قائد اعظم کا ظل اور بروزین کر آیا ہوں بلکہ یہ کہے کہ میں تو قائد اعظم کا عین ہوں میرے اس دعویٰ سے قائد اعظم کی قیادت میں کوئی فرق نہیں آتا اور مجھ کو اختیار ہے کہ میں قائد اعظم کے جس حکم کو چاہوں روی کی ٹوکری میں ڈال دوں تو کیا ایسا مدعی حکومت کے نزدیک قابل گردن زونی نہ ہو گا اور کیا حکومت کے نزدیک کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا نام قائد اعظم رکھے یا اخبارات اور اشتہارات میں اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم لکھ سکے حالانکہ یہ ممکن ہے کہ یہ شخص وزیر اعظم سے علم اور عقل فہم اور فراست تدر اور سیاست میں بڑھا ہوا ہو کیونکہ ووٹ کی وزارت میں کھوٹ ممکن ہے۔

لیکن نبوت و رسالت کی بارگاہ میں میں ان خرافات کو پر مارنے کی بھی مجال نہیں۔

پس جبکہ قائد اعظم اور وزیر اعظم نام رکھنا بغاوت اور جرم عظیم ہے تو کیا کسی کا یہ دعویٰ کہ میں رسول اعظم ہوں یہ بغاوت اور کفر عظیم نہ ہو گا۔
ہمت سے یہود اور نصاریٰ حضور پر نورؐ کی نبوت کو مانتے ہیں مگر یہ کہتے ہیں کہ حضورؐ کی نبوت فقط عرب کے ساتھ مخصوص تھی۔ تمام عالم کے لیے عام نہ تھی تو کیا اس تاویل کی وجہ سے ان یہود و نصاریٰ کو مسلمان کہا جاسکتا ہے۔

اگر لائبریری میں یہ تاویل درست ہے کہ آپؐ کے بعد کوئی مستقل رسول نہیں ہو سکتا۔ تو کیا اگر مدعی الوہیت لالہ الا اللہ کے یہ معنی بیان کرے کہ اللہ کے سوا کوئی مستقل خدا نہیں۔ البتہ علی اور بروزی اور مجازی خدا اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تاویل کیوں درست نہیں؟

سامری کا یہ عقیدہ نہ تھا کہ یہ بچھڑا مستقل خدا ہے بلکہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا اس میں حلول کر آیا ہے جیسے ہندوؤں کا اپنے اوتاروں کے متعلق عقیدہ ہے کہ خدا ان میں حلول کر آیا تھا۔ ہندو اپنے اوتاروں کو مستقل خدا نہیں مانتے۔ اسی طرح مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ میں نبی اکرم ﷺ کا بروز ہوں اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ مجھ میں حلول کر آئے ہیں۔ مرزائے قادیانی کا

تسخیر تو دیکھئے کہ یہ کہتا ہے کہ میری آمد سے خاتم التسنین کی مر نہیں ٹوٹی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے نبوت پر مر لگائی مگر مرزا صاحب نے نبوت کو اس طرح چرایا کہ اللہ کی لگائی ہوئی مر بھی نہ ٹوٹی اور نبوت بھی چرالی اس لیے میں کہتا ہوں کہ میلہ پنجاب یمن کے میلہ کذاب سے چالاکی اور عیاری میں کہیں بڑھ کر ہے۔

ہمیں اس بحث کی ضرورت نہیں کہ مرزا صاحب کی تاویلات مہملہ کی طرف کوئی توجہ کریں دیکھنا یہ ہے کہ جس نبی پر خاتم التسنین کی آیت اتری اس نے اس آیت کے کیا معنی سمجھے اور امت کو کیا معنی سمجھائے۔ اور عمد صحابہؓ سے لے کر اس وقت تک پوری امت اس آیت کے کیا معنی سمجھتی رہی۔ کیا تیرہ سو سال کے علماء امت اور ائمہ لغت و عربیت کو عربی لغت کی اتنی بھی خبر نہ تھی جتنا کہ قادیان کے ایک دہقان کو ٹوٹی پھوٹی عربی کی خبر تھی۔

مرزا صاحب نہ پنجابی نہ اردو اور نہ فارسی اور نہ عربی اور نہ انگریزی کسی زبان کے ادیب تھے۔ ان کے معاصر بلکہ بہت سے ان کے منکر اور کافر اردو اور فارسی اور عربی مرزا صاحب سے بہتر جانتے تھے۔ اس پر تمام امت کے علماء کی نسبت یہ کہنا کہ خاتم التسنین کی آیت کا مطلب نہیں سمجھا کیا کھلا ہوا مراق اور مایغولیا نہیں (جس کا خود مرزا صاحب کو بھی اقرار ہے)

علاوہ ازیں دعوائے نبوت سے پہلے خود مرزا صاحب بھی خاتم التسنین کے وہی معنی بیان کرتے تھے جو امت کے تمام علماء بیان کرتے چلے آئے اور مرزا صاحب صاف طور پر یہ لکھتے آئے کہ جو حضور پر نورؐ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے۔ وہ کافر ہے اور وارثہ اسلام سے خارج ہے۔ دعوائے نبوت کے بعد اس پر تاویل کار تک چڑھانا شروع کیا جو قابل التفات نہیں۔

اب مرزا صاحب کے اس بارہ میں دو قول ہیں۔ ایک قول قدیم ہے۔ جو علماء امت کے موافق ہے۔ اور ایک قول جدید ہے جو میلہ کذاب کے مطابق ہے اور مرزا صاحب کا یہ اقرار ہے کہ مجھ کو مراق اور مایغولیا کی بیماری ہے۔

لہذا مراقی کے جب اقوال مختلف ہوں تو مراقی کا وہی قول قبول کیا جائے گا

کہ جو مراق سے قبل تمام عقائد امت کے مطابق اس کی زبان سے نکل چکا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے تو گنجائش ہے کہ مرزا صاحب کے مراق اور مایجولیا میں کوئی تاویل کر لیں کہ وہ حقیقتہً "مراقی نہ تھے بلکہ کسی سیاسی مصلحت کی بنا پر مجازاً" اپنے آپ کو مراقی فرما گئے۔ لیکن قادیانیوں پر فرض قطعی ہے کہ وہ مرزا صاحب کے مراق اور مایجولیا پر بلا کسی تاویل کے ایمان لائیں۔ ورنہ اگر مرزا صاحب کے مراقی اور مایجولیا کی ہونے میں ذرا بھی شک کریں گے تو کافر اور مرتد ہو جائیں گے۔ نبی جو کہے اس پر بے چون و چرا ایمان لانا فرض ہے۔

دس مدعیان نبوت

مدعیان نبوت کے خروج اور ظہور کی پیشین گوئی

حضور پر نور ﷺ نے بہت سی پیشین گوئیاں فرمائیں اور سب کی سب حرف بحرف سچی نکلیں۔ ایک پیشین گوئی حضور نے یہ بھی فرمائی کہ قیامت سے پہلے بہت سے کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہو گا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ خوب سمجھ لو کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ خدا کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین کے بعد کسی کا فقط یہ دعویٰ کہ میں نبی ہوں یہی اس کے کاذب اور دجال ہونے کی دلیل ہے۔

حضور نے اپنے بعد کسی نبی کے آنے کی پیشین گوئی نہیں فرمائی بلکہ مدعیان نبوت کی پیشین گوئی فرمائی۔ اور ایک حرف یہ نہ فرمایا کہ تم اس مدعی نبوت سے ادلا" یہ دریافت کرنا کہ تو کس قسم کی نبوت کا مدعی ہے اور تیری نبوت کی کیا دلیل ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی سچا نبی آنے والا ہوتا۔ تو حضور پر نور اس کی خبر دیتے اور لوگوں کو ہدایت فرماتے کہ تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کا انکار کر کے دوزخی نہ بننا بلکہ اس کے برعکس یہ فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔ البتہ کذاب و دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کے مدعی ہوں گے تم ان کے

دھوکہ اور فریب میں نہ آنا اور اس کے جھوٹا ہونے کی علامت ہی یہ ہوگی کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ چنانچہ اس کا ظہور حضور کی اخیر زندگی ہی سے شروع ہو گیا۔ اور نبوت کے دعوے دار ظاہر ہونے لگے۔ چنانچہ یمن میں اسود عنسی نے اور یمامہ میں مسیلہ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔

وروی ابو یعلیٰ باسناد حسن عن عبداللہ بن الزبیر تسمیة بعض الکذابین المذكورین بلفظ لا تقوم الساعة حتی یخرج ثلاثون کذابا منهم مسیلمة والعنسی والمختار۔

(فتح الباری ص ۴۵۴ ج ۶)

ترجمہ = ابو یعلیٰ نے عبداللہ بن زبیر سے باسناد حسن روایت فرمائی ہے جس میں بعض کذابوں کے نام بھی آپ نے ذکر فرمائے ہیں۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی۔ جب تک کہ تمیں کذاب برآمد نہ ہوں۔ ان میں مسیلہ اور عنسی اور مختار ہوں گے۔

سب سے پہلا مدعی نبوت اور اس کا قتل

سب سے پہلا مدعی نبوت اسود عنسی ہے جو بڑا شعبدہ باز تھا اور کمانت میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ لوگ اس کے شعبدوں کو دیکھ کر مانوس ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو لئے اور قبیلہ نجران اور قبیلہ مذحج نے اس کی دعوت کو قبول کیا اور ان کے علاوہ یمن کے اور بھی قبائل اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔

آنحضرت ﷺ نے مسلمانان یمن کے پاس حکم بھیجا کہ جس طرح ممکن ہو اسود کا فتنہ ختم کیا جائے امام ابن جریر طبری اللہ کے واقعات میں لکھتے ہیں۔

عن جشیش بن الدیلمی قال قدم علینا ویرین یحنس بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامر فیہ بالقیام علی دیننا والنہوض والحرب والعمل فی الاسود اما غیلۃ لومصادفة

(تاریخ طبری ص ۲۱۵ ج ۳)

ترجمہ = جیشِ راوی ہیں کہ ویرین محسن نبی اکرم ﷺ کا والا نامہ ہمارے نام لے کر جس میں ہم کو یہ حکم تھا کہ دین اسلام پر قائم رہیں اور اسود کے مقابلہ اور مقاتلہ کے لیے تیار ہو جائیں اور جس طرح ممکن ہوا اسود کا کام تمام کریں۔ خواہ کھلم کھلا قتل کریں یا خفیہ طور پر یا کسی اور تدبیر سے۔

اور تاریخ ابن الاثیر میں ہے۔

فتزوج معاذ بالسکون فعطفوا علیہ وجاء الیہم والی من بالیمن من المسلمین کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مرہم بقتال الاسود فقام معاذ فی ذلک وقویت نفوس المسلمین وكان الذی قدم بکتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویرین یحسن الازدی قال جشیش الدیلمی فجاء تناکتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مرنا بقتاله اما مضامدة لوعیلة الی آخرہ۔

(تاریخ ابن الاثیر صفحہ ۱۲۸ جلد ۲ ذکر اخبار الاسود النسی بائین)

ترجمہ = حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا اور تمام مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کے پاس اور مسلمانانِ یمن کے پاس آنحضرت ﷺ کا خط موصول ہوا جس میں اسود کے ساتھ قتال کا حکم تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس بارے میں کھڑے ہوئے۔ اور مسلمانوں کے قلوب کو تقویت حاصل ہوئی۔ جو شخص آنحضرت ﷺ کا خط لے کر آیا تھا۔ اس کا نام ویرین محسن ازدی تھا۔ جیشِ دیلمی فرماتے ہیں ہمارے پاس آنحضرت ﷺ کے کئی خط موصول ہوئے جن میں اسود کے قتال کا حکم تھا۔ علانیہ ہو یا تدبیر سے۔

چنانچہ حضرات صحابہؓ نے حسن تدبیر سے اس کذاب کا کام تمام کیا۔ اور اس واقعہ کی خبر دینے کے لیے ایک قاصد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں روانہ کیا۔ لیکن قاصد کے پہنچنے سے پہلے حضورؐ کو بذریعہ وحی اس کی خبر ہو گئی آپ نے

اسی وقت صحابہ کو بشارت دی اور فرمایا۔

قتل العنسی البارحة قتلہ رجل مبارک من اهل بیت مبارکین
قبیل ومن قال فیروز فاز فیروز۔

(تاریخ طبری ص ۲۲۸ ج ۳ تاریخ ابن الاثیر ص ۱۳۲ ج ۲ و تاریخ ابن خلدون ص

۲۲۸ ج ۳)

ترجمہ = کہ شب گزشتہ اسود عنسی مارا گیا اس کو ایک مبارک گھرانے کے
مبارک مرد فیروز نے مارا ہے۔ فیروز کامیاب اور فاتز المرام ہوا۔

قاصد یہ خبر لے کر مدینہ اس وقت پہنچا کہ آنحضرت ﷺ وصال فرما
چکے تھے۔ عبدالرحمن ثمالی رضی اللہ عنہ نے اس بارہ میں یہ اشعار لکھے۔

لعمری وما عمری علی بہین

لقد جز عت عنس بقتل الاسود

میں ہے میری زندگی کی اور میری قسم معمولی قسم نہیں۔ قبیلہ
عنس اسود عنسی کے قتل سے گھبرا اٹھا۔

وقال رسول اللہ سبروا لقتلہ

علی خیر موعود و اسعد اسعد

رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ اس کے قتل کے لیے جاؤ
اور بہترین وعدہ اور اعلیٰ ترین خوش نصیبی کی بشارت دی یعنی
مدعی نبوت کا قتل اعلیٰ ترین سعادت ہے۔

فرنا الیہ نی فوارس ممے

علی حین امر من دصاة محمد

پس ہم چند سوار اسود کذاب کے قتل کے لیے روانہ ہو گئے
تاکہ آپ کے حکم اور وصیت کی تعمیل اور تکمیل ہو۔

(حسن السحابۃ فی شرح اشعار الصحابہ صفحہ ۳۱۳)

خلافت راشدہ اور مدعیان نبوت کا قلع قمع

خلافت راشدہ اس حکومت کو کہتے ہیں کہ جو منہاج نبوت پر ہو اور اس حکومت کا حکمران نبی کے ظاہری اور باطنی کمالات کا آئینہ اور نمونہ ہو۔ خلافت راشدہ کا فیصلہ قیامت تک کے لیے پوری امت کے لیے حجت اور واجب العمل ہے۔

احادیث صحیحہ میں خلفاء راشدین کے اتباع کی تاکید آئی ہے۔ کتاب و سنت کے بعد خلافت راشدہ کا فیصلہ شرعی حجت ہے جس سے عدول اور انحراف جائز نہیں۔

قیامت تک آنے والی اسلامی حکومتوں کے لیے خلافت راشدہ عدالت عظمیٰ اور آخری عدالت ہے۔ جس کی کوئی اپیل نہیں ہو سکتی۔ کسی اسلامی حکومت کی یہ مجال نہیں کہ وہ خلافت راشدہ کے فیصلہ پر کوئی نظر ثانی کا تصور بھی کر سکے۔ خلافت راشدہ کے رشد اور صواب پر رسول اللہ کے دستخط ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد خلفاء راشدین واجب الطاعت ہیں اور اگر بفرض محال کوئی دیوانہ یہ خیال کرے کہ خلفاء راشدین کا فیصلہ حجت اور واجب الطاعت نہیں۔ تو پھر بتلائے کہ دنیا میں خلفاء راشدین سے بڑھ کر کون ہے جس کا فیصلہ حجت سمجھا جائے۔

اب ہم نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ خلافت راشدہ نے کس طرح مدعیان نبوت کا قلع قمع کیا۔ اور کس طرح صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹایا۔ جزاھم اللہ تعالیٰ عن الاسلام وسائر المسلمین خیرا کثیرا کثیرا امین

علیہ اسدی

اسود عسی کی طرح علیہ اسدی نے بھی حضور پر نور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اسود کی طرح یہ بھی کاہن تھا کچھ قبیلے اس کے بھی تابع ہو گئے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی سرکوبی کے لیے ضرار بن الاسود رضی اللہ عنہ کو

صحابہ کی ایک جماعت ساتھ دے کر روانہ کیا۔ حضرت ضارہؓ نے خوب سرکوبی کی اور مرتدین کو اتنا مارا کہ طلیحہ کی جماعت کمزور پڑ گئی لیکن اتنے میں آنحضرت ﷺ کی وفات کی خبر آگئی۔ حضرت ضارہؓ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ گئے۔ ان کے واپس آ جانے کی وجہ سے طلیحہ کا ہتھ بھر زور پکڑ گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولیدؓ کی سرکردگی میں ایک لشکر اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ خالد بن ولیدؓ نے جاتے ہی میدان کارزار گرم کیا۔ عیینہ بن حصن طلیحہ کی طرف سے لڑ رہا تھا اور طلیحہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک چادر اوڑھے ہوئے وحی کے انتظار میں ایک طرف بیٹھا تھا۔ جب مرتدین کے پیر میدان جنگ سے اکٹرنے لگے تو عیینہ بن حصن لوگوں کو لڑتا چھوڑ کر طلیحہ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ کیا میرے بعد تیرے پاس جبرئیل امین کوئی وحی لے کر آئے ہیں۔ طلیحہ نے کہا نہیں کوئی نہیں آئی۔ عیینہ لوٹ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا سوال کیا کہ کیا اس اثنا میں جبرئیل امین کوئی وحی لے کر آئے ہیں۔ طلیحہ نے کہا نہیں۔ عیینہ نے کہا آخر جبرئیل کب تک آئیں گے ہم تو تباہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عیینہ پھر آیا اور طلیحہ سے پھر یہی سوال کیا۔ طلیحہ نے کہا ہاں ابھی جبرئیل امین آئے تھے۔ اور یہ وحی لے کر آئے ہیں۔

لن لکرحی کر حاہ و حلیثا لاتنساہ۔

ترجمہ = تیرے لیے یہی خالد کی طرح ایک چکی ہو گی اور ایک بات پیش آئے گی جس کو تو کبھی نہ بھولے گا۔

عیینہ نے یہ سن کر کہا کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ کوئی بات ایسی ضرور پیش آئے گی جس کو تو نہ بھولے گا۔ اور اس کے بعد قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہا۔ انصر فوا یا بنی فزلة فانه کذب ترجمہ = اے نبی فزارہ تم واپس ہو جاؤ خدا کی قسم یہ شخص بالکل کذاب ہے۔

عیینہ کا یہ لفظ سنتے ہی تمام لوگ بھاگ گئے اور میدان خالی ہو گیا اور کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ طلیحہ نے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے پہلے ہی سے ایک

گھوڑا تیار کر رکھا تھا جب اس پر سوار ہو کر بھاگنے لگا تو لوگوں نے آکر اس کو گھیر لیا۔ طلحہ نے جواب دیا۔

من استطاع لن يفعل بكذا لو ينجو بامر آتہ فليفعل۔

ترجمہ = جو شخص ایسا کر سکتا ہو اور اپنی بیوی کو بچا سکتا ہو وہ ضرور ایسا کر گزرے۔

اس طرح طلحہ بھاگ کر ملک شام چلا گیا اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں تائب ہو کر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور حضرت عمرؓ کے دست مبارک پر بیعت کی اور جنگ قادسیہ میں کار نمایاں کئے۔ والسلام

(تاریخ طبری ص ۲۲۹ ج ۲، تاریخ ابن الاثیر ص ۱۳۰ ج ۲، تاریخ ابن خلدون ص ۲۹۲ ج ۲)

وحی طلحہ کا ایک نمونہ

والحمام واليمام الصر دالصلوم قد ضمن قبلکم باعوام ليلفن
ملکننا العراق والشام (تاریخ ابن الاثیر ص ۱۳۲ ج ۲)

مسئلہ کذاب

مسئلہ کذاب: یہ شخص قبیلہ بنی حنیفہ کا تھا ۱۰ھ میں شریحامہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آنحضرت ﷺ کی خدمت میں ایک خط بھیجا جس کی عبارت یہ تھی۔

من مسیلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليك فاني
قد اشركت في الامر معك وان لنا نصف الارض ولقریش نصف
الارض ولكن قریش قوم يعنلون۔

ترجمہ = میں جانب مسیلمہ رسول اللہ بطرف محمد رسول اللہ تم پر سلام ہو تحقیق میں نبوت میں تمہارے ساتھ شریک کر دیا گیا ہوں۔ نصف زمین ہماری ہے اور نصف قریش کی۔ لیکن قریش ایک ظالم قوم ہے۔

میلہ نے یہ خط دو آدمیوں کے ہاتھ حضور اقدسؐ کی خدمت میں بھیجا حضورؐ نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس کی شہادت دیتے ہو کہ میلہ اللہ کا رسول ہے ان دونوں نے کہا ہاں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر قاصد قتل کئے جاتے تو میں گردن اڑانے کا حکم دیتا۔ بعد ازاں اس کے خط کا یہ جواب لکھوایا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

من محمد رسول اللہ الی مسیلمة الکذاب سلام علی من اتبع
الهدی لما بعد فان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة
للمتقین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

من جانب محمد رسول اللہ بطرف میلہ کذاب سلام ہو اس شخص پر کہ جو
اللہ کی ہدایت کا اتباع کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تحقیق زمین اللہ کی
ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو زمین کا مالک اور وارث
بنائے اور اچھا انجام خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔

(ابن اثیر اپنی تاریخ کے ص ۲۷۱۳۸ پر لکھتے ہیں)

فکان اعظم فتنۃ علی بنی حنیفۃ من مسیلمة شہلانی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم قد اشرك معه فصلقوه واستجابوا له الخ۔ یعنی بنی
حنیفہ کے حق میں فتنہ کا بڑا سبب یہ ہوا کہ میلہ نے یہ مشہور کیا کہ محمد ﷺ
نے مجھ کو اپنی رسالت میں شریک کر لیا ہے انہوں نے حضورؐ کا نام سکر میلہ کی
تہدیت کی اور اس کی دعوت کو قبول کیا۔

اور میلہ کو اس دعوے کی تائید کے لیے نمار نامی ایک شخص ہاتھ آ گیا۔
یہ شخص شرفانی حنیفہ میں سے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوا اور آنحضرت
ﷺ کی خدمت میں رہ کر قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپؐ نے
فرمایا کہ تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ اور دین کی تعلیم دو۔ یہ بد بخت مدینہ سے

واپس آکر میلہ سے مل گیا اور علی الاعلان آکر یہ شہادت دی کہ میں نے خود محمد ﷺ سے سنا ہے کہ میلہ نبوت میں میرا شریک ہے اس لیے بنی حنیہ کے لوگ فتنہ میں جلا ہو گئے۔ اور میلہ کے بکائے میں آ گئے۔

میلہ یمامہ اور میلہ قادیان میں فرق

مرزا صاحب نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا کہ جو میلہ یمامہ نے کیا تھا۔ مگر مرزا صاحب چالاک کی میں میلہ سے بڑھے ہوئے ہیں میلہ تو یہ کہتا تھا کہ حضور پر نورؐ نے مجھ کو اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اور مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں۔

کہ میں نبوت میں حضورؐ کے ساتھ شریک نہیں بلکہ عین محمد ﷺ ہوں اور میری بخت بینہ بخت محمدیہ ہے اور بخت ثانیہ بخت اولیٰ سے کہیں افضل اور اکمل ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قادیان جو بخت ثانیہ کا محل ہے۔ مکہ مکرمہ سے افضل سے بہتر ہے اور مرزا صاحب باوجود مراق اور مایہ جولیا کے محمد رسول اللہ ﷺ سے افضل اور اکمل ہیں۔ الجہ گفت دیوانہ باور کرد۔ کی مثل صادق ہے پاگل نے کہا اور دیوانہ نے اس کو مان لیا۔

اس خط و کتابت کے بعد آنحضرت ﷺ کا وصال ہو گیا اور بغیر اس فتنہ کی تدبیر کے رفتی اعلیٰ سے جا ملے۔ اسی اثنا میں ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا (جس کا ہم عقرب ذکر کریں گے) جس کا نام سجاح تھا میلہ نے اس سے نکاح کر لیا اس کے لشکر سے میلہ کو مزید قوت اور شوکت حاصل ہوئی۔

صدیق اکبرؓ نے میلہ کے مقابلہ کے لیے اولاً عکرمہ بن ابی جہل کی زیر امارت ایک لشکر روانہ کیا مگر کامیابی نہ ہوئی۔ پھر ان کے بعد دوسرا لشکر شرمیل بن حنہ کی سرکردگی میں ان کی اداؤ کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر کو بھی شکست ہوئی۔ میلہ کذاب کے لشکر میں چالیس ہزار جنگ آزمود سپاہی تھے۔ صحابہ کرامؓ کے چھوٹے چھوٹے لشکر پورا مقابلہ نہ کر سکے۔ بالاخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ خالد بن ولیدؓ کو میلہ کذاب کی مہم کے لیے روانہ فرمایا۔ اس

معرکہ میں صدیق اکبرؓ کے لخت جگر عبدالرحمن بن ابی بکرؓ اور فاروق اعظمؓ کے لخت جگر عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عمرؓ کے بھائی زید بن الخطابؓ بھی شریک تھے۔

مرتدین سے اب تک جس قدر معرکے پیش آئے ان میں میلہ کذاب کا معرکہ سب سے زیادہ سخت تھا اور قوت اور شوکت میں سب سے بڑھ کر تھا۔ میلہ کی فوج چالیس ہزار تھی اور مسلمانوں کی فوج دس ہزار سے کچھ زیادہ تھی۔

میلہ کذاب کو جب خالد بن ولیدؓ کی آمد کی خبر ملی تو آگے بڑھ کر مقام عقرباء میں پڑاؤ ڈالا۔ اس میدان میں حق اور باطل اور نبوت صادقہ اور کاذبہ کا خوب مقابلہ ہوا۔ معرکہ نہایت سخت تھا کبھی مسلمانوں کا پلہ بھاری نظر آتا تھا اور کبھی میلہ کا، یہاں تک کہ میلہ کے کئی سپہ سالار مارے گئے سب سے اول میلہ کی طرف سے نہار میدان میں آیا جو حضرت زیدؓ بن الخطاب کے ہاتھ سے مارا گیا۔ میلہ کا دوسرا مشہور سردار محکم بن طفیل حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرؓ کے تیر قضاء سے ختم ہوا۔ مرتدین کے قدم اکٹھے گئے۔ مسلمانوں نے ان کو مارتے مارتے مقام حدیقہ تک پہنچا دیا۔ یہ مقام چار دیواری سے محصور تھا یہ ایک باغ تھا جس کو حدیقہ الرحمن کہتے تھے۔ میلہ نے اپنا خیمہ اسی باغ میں نصب کیا تھا۔ اسی باغ میں میلہ قدم جمائے کھڑا تھا۔ دشمنوں کا لشکر بھاگ کر حدیقہ میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس وقت صحابہؓ سے کہا۔

يا معشر المسلمين القونى عليهم فى الحديقة فقالوا لانفعل
فقال والله لنتظر حننى عليهم فاحتمل حتى اشرف على
الجدلرنا فتها عليهم وقاتل على الباب وفتح للمسلمين
ودخلوها عليهم فاقتلوا اشد قتال وكثر القنلى فى الفريقيين
لاسيما فى بنى حنيقة فلم يزلوا اكدالك حتى قتل مسيلمه و
اشترك فى قنلم وحشى مولى جبير بن مطعم و رجل من
الانصار اما وحشى فدفن عليه حربة و ضرب به الانصارى بسيفه

(تاریخ ابن الاثیر ص ۱۳۹ ج ۲)

ترجمہ = مسلمانوں کی جماعت مجھ کو حدیقہ میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے کہا ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ براء بن مالکؓ نے کہا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ کو اندر پھینک دو۔ لوگوں نے مجبوراً اٹھا کر دیوار پر پہنچا دیا۔ براء بن مالکؓ دیوار پر اندر کودے اور دروازہ پر کچھ دیر مقابلہ کیا۔ بالآخر مسلمانوں نے دروازہ کھول دیا۔ مسلمان اندر گھس آئے اور خوب مقابلہ ہوا۔ فریقین کے بہت آدمی مارے گئے یہاں تک سیلہ کذاب بھی مارا گیا۔ وحشیؒ نے سیلہ کے ایک نیزہ پھینک کر مارا جس کی وجہ سے وہ حرکت نہ کر سکا۔ اور ایک انصاریؒ نے تلوار سے اس کا سر قلم کیا۔

یہ وحشی دہی ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضرت حمزہؓ کو اسی نیزہ سے شہید کیا تھا۔ اب اسلام لانے کے بعد اسی نیزہ سے سیلہ کذاب کو مارا اور بطور فخر بلکہ بطور شکر اور بطریق شکر یہ کہا کرتے تھے۔

قتلت فی جاہلیتی خیر الناس وفی اسلامی شر الناس (روح المعانی)

ترجمہ = اگر میں نے زمانہ جاہلیت میں اس نیزہ سے ایک بہترین انسان کو مارا ہے (یعنی حضرت حمزہؓ کو) تو زمانہ اسلام میں اسی نیزہ سے ایک بدترین انسان یعنی ایک مدعی نبوت کو مارا ہے۔

اور وہ انصاریؒ جنہوں نے سیلہ کا سرا اپنی تلوار سے قلم کیا۔ ان کا نام عبداللہ بن زیدؓ ہے انہی کا یہ شعر ہے۔

یسائلنی الناس عن قتله
فقلت ضربت و هذا طعن

لوگ مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ سیلہ کو کس نے مارا۔ تو میں جواب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میں نے تلوار ماری اور وحشیؒ نے نیزہ مارا۔

اس معرکہ میں مسلمانوں کے چھ سو ساٹھ آدمی شہید ہوئے۔ اور مسیلمہ کذاب کے بقول ابن خلدون سترہ ہزار آدمی مارے گئے۔ امام طبری فرماتے ہیں کہ بنی حنیفہ کے سات ہزار آدمی عقربا میں اور سات ہزار حدیقہ میں مارے گئے۔ اور یہ باغ حدیقہ الموت کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اور حضرت خالدؓ مظفر و منصور مدینہ منورہ واپس آئے۔ دوسری روایات میں مسلمانوں کے بارہ سو اور مسیلمہ کے اٹھائیس ہزار آدمی اس جنگ میں کام آئے۔ واللہ اعلم

محمد بن الحنیفہ

محمد بن الحنیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادہ ہیں اور حنیفہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں جو قبیلہ بنی حنیفہ کی باندی تھیں۔ مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں گرفتار ہو کر آئیں۔ اور صدیق اکبرؓ کی طرف سے حضرت علیؓ کو عطا ہوئیں۔ معلوم ہوا کہ مدعی نبوت کی اولاد اور ذریت اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر لوگوں پر تقسیم کرنا باجماع صحابہؓ بلاشبہ وریب جائز اور روا ہے۔

مسیلمہ کذاب کے متبعین اور اوزاب کا حشر

روی الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ قال اخذ بالكوفة رجال يؤمنون بمسیلمة الكذاب فكتب فيهم الى عثمان فكتب عثمان اعرض عليهم دين الحق وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قالها وتبرأ من دين مسيلمة فلا تقتلوه ومن لم يدين مسيلمة فاقتلوه فقبلها رجال منهم ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا۔

(الحکام القرآن للجماس ص ۲۸۸ ج ۲ باب استتابہ الرد و سنن کبریٰ لامام السننی ص

(۸ ج ۲۰۱)

ترجمہ = زہری رحمۃ اللہ علیہ نے عبید اللہ بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ کوفہ میں کچھ آدمی گرفتار کئے گئے جو کہ مسیلمہ کذاب پر ایمان لائے

تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ان پر دین حق اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پیش کیا جائے۔ جو شخص اس کلمہ کو پڑھے اور دین میلہ سے برات کا اظہار کرے اس کو قتل نہ کرو۔ اور جو شخص دین میلہ کذاب پر جمار ہے اسے قتل کر دو۔ تو بہت سے آدمیوں نے کلمہ اسلامی کو قبول کر لیا۔ اور بہت سے دین میلہ پر قائم رہے انہیں قتل کیا گیا۔

سجاح بنت حارث

سجاح بنت حارث۔ قبیلہ بنی تمیم کی ایک عورت تھی نہایت ہوشیار تھی۔ اور حسن خطابت و تقریر میں مشہور تھی۔ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک گروہ ساتھ ہو گیا۔ مدینہ منورہ پر حملہ کا ارادہ کیا مگر کسی وجہ سے یہ ارادہ ملتوی ہو گیا۔ بعد ازاں سجاح نے میلہ کا رخ کیا۔ میلہ نے یہ خیال کر کے کہ اگر سجاح سے جنگ چھڑی تو کہیں قوت نہ کمزور ہو جائے۔ اس لیے میلہ نے بہت سے ہدایا اور تحائف سجاح کے پاس بھیجے اور اپنے لیے امن طلب کیا۔ اور ملاقات کی درخواست کی۔ میلہ بنی حنیفہ کے چالیس آدمیوں کے ہمراہ سجاح سے جا کر یہ کہا کہ عرب کے کل بلاد نصف ہمارے تھے اور نصف قریش کے لیکن قریش نے بد عمدی کی اس لیے وہ نصف میں نے تم کو دے دیئے۔

بعد ازاں میلہ نے سجاح کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ سجاح نے اس کو قبول کیا۔ میلہ نے ملاقات کے لیے ایک نہایت عمدہ خیمہ نصب کرایا۔ اور قسم قسم کی خوشبوؤں سے اس کو معطر کیا اور تنہائی میں ملاقات کی۔ کچھ دیر تک سجاح اور میلہ میں گفتگو ہوتی رہی۔ ہر ایک نے اپنی اپنی دجی سنائی اور ہر ایک نے ایک دوسرے کی نبوت کی تصدیق کی اور اسی خیمہ میں نبی اور نبیہ کا بلا گواہوں اور بلا مہر کے نکاح ہوا تین روز کے بعد سجاح اس خیمہ سے برآمد ہوئی۔ قوم کے

لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا کہ میں نے میلہ سے صلح کر لی اور نکاح بھی کر لیا۔
لوگوں کو بہت ناگوار ہوا اور سبحان کو لعنت طامت کی۔ قوم نے پوچھا کہ آخر میرا کیا
مقرر ہوا۔ سبحان نے کہا کہ اچھا میں پوچھ کر آتی ہوں کہ میرا میرا کیا ہے۔ سبحان
میلہ کے پاس آئی اور میرا مطالبہ کیا۔ میلہ نے کہا جا اپنے ہمراہیوں سے یہ کہہ
دے کہ میلہ رسول اللہ نے سبحان کے مر میں دو نمازیں فجر اور عشاء کی تم سے
معاف کر دیں۔ جن کو محمد ﷺ نے تم پر فرض کیا تھا۔ سبحان نے واپس آ کر
اپنے رفقاء کو اس مر کی خبر کی۔ اس پر عطار دین حاجب نے یہ شعر کہا۔

امست نبیننا انشی نطوف بہا
واصبح انبیاء الناس ذا کرانا

(شرم کی بات ہے) ہماری قوم کا نبی عورت ہے جس کے گرد ہم چکر لاک
رہے ہیں اور لوگوں کے نبی مرد ہوتے چلے آئے ہیں۔

سبحان جب میلہ کے پاس لوٹی تو انشاء راہ میں خالد بن ولید اسلامی لشکر
مل گئے۔ سبحان کے رفقاء تو منتشر ہو گئے اور سبحان روپوش ہو گئی اور اسلام لے
آئی اور پھر وہاں سے بصرہ چلی گئی اور وہیں اس کا انتقال ہوا اور سمرۃ بن جندبہ
نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت سمرۃ اس وقت حضرت معاویہؓ کی طرف سے
امیر تھے۔ (تاریخ ابن الاثیر ص ۱۳۵ ج ۲)

اطلاع

سبحان اور میلہ کے وہ الہامات جو اس خیمہ میں ہوئے وہ تاریخ ابن الاثیر
اور تاریخ طبری ص ۲۳۹ ج ۳ میں مذکور ہیں۔ ہم نے شرم کی وجہ سے ان کو حذف
کر دیا۔

مختار بن ابی عبید ثقفی

مختار بن ابی عبید ثقفی۔ حضرت عبداللہ بن زبیرؓ اور عبدالملک بن مردان
کے زمانہ میں ظاہر ہوا مدعی نبوت تھا اور یہ کہتا تھا کہ جبرئیل امین میرے پاس آتے

ہیں۔ ۶۷۷ء میں عبد اللہ بن زبیرؓ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ لعنتہ اللہ علیہ۔
 و فی ایام ابن الزبیرؓ کان خروج المختار الکذاب الذی ادعی
 النبوة فجہز ابن الزبیر لقتالہ الی ان ظفر بہ فی سنة سبع و ستین
 وقتلہ لعنت اللہ (تاریخ الخلفاء للیوطی ص ۸۳)
 وقد ظہر بالعراق وکان یدعی ان جبرئیل یتیبہ بالوحی۔ کذافی
 دول الاسلام (حافظ الذمعی ص ۱۷۳۵)
 ترجمہ = عبد اللہ بن زبیرؓ کے دور میں مختار کذاب مدعی نبوت کا خروج ہوا
 تھا۔ حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ نے اس کے قتل کے لیے لشکر تیار کیا۔ یہاں
 تک کہ اس پر فتح پائی ۶۷۷ء کا یہ واقعہ ہے یہ شخص ملعون آخر کار قتل
 ہوا۔

حافظ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ یہ شخص عراق میں ظہور پذیر ہوا۔ اس کا دعویٰ
 تھا کہ جبرئیل امین میرے پاس وحی لاتا ہے۔

حارث بن سعید کذاب دمشقی

حارث بن سعید نے عبد الملکؒ بن مردان کے زمانہ خلافت میں نبوت کا
 دعویٰ کیا۔ عبد الملکؒ بن مردان نے اس کو قتل کر کے عبرت کے لیے سولی پر لٹکایا۔
 عبد الملکؒ بن مردان خود تاجی تھا۔ حضرت عثمانؓ اور ابو ہریرہؓ اور
 ابو سعید خدریؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ اور معاویہؓ اور ام سلمہؓ اور بریرہؓ سے حدیث
 سنی تھی اور عروہ بن زبیرؓ اور خالد بن معدانؓ اور زہریؓ جیسے علماء تابعین عبد الملکؒ
 سے روایت کرتے تھے۔ (کافی تاریخ الخلفاء ص ۸۳)
 ان حضرات کی موجودگی میں عبد الملکؒ نے اس متنبی کو قتل کر کے سولی پر
 لٹکایا قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں۔

عبد الملکؒ بن مردان نے حارث متنبی کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا۔
 اسلامی خلفاء اور بادشاہوں نے ہر زمانہ میں جھوٹے مدعیان نبوت کے ساتھ ایسا ہی

کیا ہے اور علماء عصر نے ان کے فعل صواب پر اتفاق کیا۔ کیونکہ یہ جھوٹے مدعیان نبوت مفتوی علی اللہ ہیں۔ خداوند قدوس پر جھوٹا الزام رکھتے ہیں کہ اس نے ان کو نبی بنایا اور پیغمبر ﷺ کے خاتم التسنن اور لانبی بعدہ کے منکر ہیں اور علماء کا اس امر پر بھی اتفاق ہے کہ جو شخص مدعیان نبوت کی تکفیر کرنے والوں سے بھی اختلاف کرے وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ ان مدعیان نبوت کے کفر اور تکذیب علی اللہ پر راضی و خوش ہے۔ (نیم الریاض ص ۵۷۵ ج ۴)

مغیرۃ بن سعید عجمی بیان بن سمعان تمیمی

۱۱۹ھ میں مغیرۃ بن سعید عجمی اور بیان بن سعید تمیمی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ خالد بن عبداللہ قسری نے جو ہشام بن عبدالملک کی طرف سے امیر عراق تھا دونوں کو قتل کر کے عبرت کے لیے پھانسی پر لٹکایا اور پھر آگ کے گڑھے میں ڈال کر جلوایا۔ (تاریخ کامل ص ۷۶ ج ۵ و تاریخ طبری ص ۲۳۰ ج ۸)

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ہشام کے زمانہ خلافت میں سالم بن عبداللہ بن عمر اور نافع مولیٰ ابن عمر اور طاؤس اور سلیمان بن یسار اور قاسم بن محمد بن ابی بکر اور حسن بصری اور محمد بن سیرن اور کھول اور عطاء بن ابی ریح اور امام باقر اور وہب بن منبہ اور سکیبہ بنت حسین اور ثابت بنانی اور مالک بن دینار اور ابن شہاب زہری اور ابن عامر مقبری شام وغیرہ وغیرہ یہ اکابر علماء موجود تھے اور شعراء میں جریر اور فرزوق تھے۔ (تاریخ الخلفاء ص ۹۶ مصری)

امام عبدالقادر بغدادی نے فرمایا ہے۔ تیسری فصل فرقہ مغیریہ کے ذکر میں ہے یہ لوگ مغیرہ بن سعید عجمی کے پیروکار ہیں آگے چل کر لکھا ہے کہ مغیرہ نے کفر صریح اختیار کیا۔ مثلاً نبوت کا دعویٰ کرنا اور اسم اعظم کے علم کا مدعی ہونا وغیرہ وغیرہ اس نے اپنے مریدوں کے آگے یہ خیال بھی ظاہر کیا تھا کہ اسم اعظم کے ذریعہ سے وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اور لشکروں کو بھی شکست دے سکتا ہے۔

ابو منصور عجمی

یہ شخص ابتداء میں رافضی تھا بعد میں طہد اور زندیق بنا اور مرزائیوں کی طرح آیات قرآنیہ میں عجیب عجیب تاویلیں کیں اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ یوسف بن عمر ثقفی جو کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا والی اور امیر تھا۔ اس کو جب اس کے عقائد کفریہ کا علم ہوا تو ابو منصور کو گرفتار کر کے کوفہ میں پھانسی پر لٹکایا۔

چنانچہ شیخ عبد القاہر بغدادی اپنی کتاب الفرق بین الفرق ص ۲۳۳ میں لکھتے ہیں کہ فرقہ منصور یہ ابو منصور عجمی کے متبعین کا نام ہے۔ اس شخص کا دعویٰ تھا کہ امامت اولاد علی کرم اللہ وجہہ میں دائر ہے اور اپنے آپ کو امام باقر رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بتلاتا اس کے بعد اپنے طہدانہ و عادی میں اضافہ کیا کہ مجھے معراج آسانی ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیر کر فرمایا بیٹے میری تبلیغ کرتا رہ۔ اس کے بعد زمین پر اتار دیا اور کہا کرتا تھا کہ آیت خداوندی وان یرواکسفامن السماء ساقطاً یقولوا اسحاب مرقوم میرے حق میں نازل ہوئی یہ فرقہ (آج کل کے نیچروں اور منکرین حدیث کی طرح) قیامت اور جنت دوزخ کا منکر تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جنت سے مراد دنیا کی نعمتیں اور دوزخ سے مراد دنیا کے رنج و الم اور مصائب ہیں اور ان کے نزدیک باوجود اس ضلالت کے اپنے مخالفوں کا خفیہ قتل کرنا جائز تھا۔ یہ فتنہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ یوسف بن عمر ثقفی والی عراق نے ابو منصور عجمی کو سولی پر لٹکا کر اس فتنہ کا قلع قمع کیا۔

ابوالطیب احمد بن حسین متنبی

ابوالطیب احمد بن حسین کوئی جو متنبی کے نام سے ایک مشہور شاعر ہے اور جس کا دیوان دنیا میں مشہور اور فن ادب کا جزو نصاب ہے۔ محض کے قریب مقام سادہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ اہل حماقت اور اہل غباوۃ اس کے قمع ہو گئے۔ امیر محض نے متنبی کو جیل خانہ میں بند کر دیا۔

بالاخر جب جیل خانہ سے دعوائے نبوت سے تحریری توبہ نامہ لکھ کر بھیجا

تب رہا ہوا۔

(حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ الباریۃ والنہایتہ ص ۲۵۷ ج ۱۱ میں لکھتے ہیں)

اس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور میری طرف وحی آتی ہے جاہلوں اور سفہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس کو مان لیا۔ نزول قرآن کا بھی یہ شخص مدعی تھا۔ چنانچہ اس کی وحی اور قرآن کے چند جملے شرت پانچکے ہیں۔ والنجم السیار والفلک الدوار واللیل والنہار ان الکافر لفی خسار۔ مض علی سنتک واقف اثر من کان قبلک من المرسلین فان اللہ قامع بک من الحدفی دینہ و ضل عن سبیلہ۔ اس قسم کے ہذیانات (جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے براہین احمدیہ میں وحی اور الہامات اکٹھے کئے ہیں) اس شخص کے بھی مشہور ہو گئے تھے جس وقت اس مدعی نبوت کی خبریں اور چرچے عام ہوئے اور ایک جماعت اہل غیادت و حماقت اس کے گرد جمع ہو گئی تو عمص کے حاکم امیر لولونے اس پر چڑھائی کی۔ اور قتال و مقابلہ کے بعد اس کے آدمیوں کو منتشر کیا اور اسے گرفتار کر کے قید و بند میں ڈال دیا۔

چنانچہ جب احمد بن حسین کافی عرصہ جیل خانے میں بیمار رہنے کے بعد ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ تو امیر نے اسے نکال کر توبہ کا مطالبہ کیا اس وقت احمد بن حسین دعوائے نبوت سے تائب ہوا اور اپنے پچھلے تمام دعاوی کو جھٹلایا۔ اور ایک تحریری توبہ نامہ شائع کیا جس میں لکھا تھا کہ میں تائب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں اور میرے پچھلے تمام دعاوی غلط اور جھوٹ تھے۔ اس پر امیر لولونے اس کو آزاد کر دیا۔ (تاریخ ہدایہ والنہایتہ)

اختصار کی بنا پر عربی عبارات کو حذف کر دیا گیا ہے۔

حافظ ابن کثیر کتاب مذکور کے ص ۲۵۹ پر لکھتے ہیں:

وقد شرح دیوانہ العلماء بالشعر واللغة نحو امن ستین شرحا و
جیزا وبسیطا۔

ترجمہ = علماء لغت اور علماء شعر نے متنبی کے دیوان کی مختصر اور مطول

ساتھ شرحیں لکھی ہیں۔

یہ ساتھ شرحیں تو حافظ ابن کثیر کے زمانہ تک لکھی گئی۔ اور ۷۷۴ھ (جو کہ ابن کثیر کا سن وفات ہے) اس سے لے کر ۷۷۳ھ تک جو شروع و حواشی لکھے گئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔

قصیدہ اعجازیہ مرزا غلام احمد قادیانی

مرزا صاحب کو اپنے قصیدہ اعجازیہ پر ناز ہے جو غلطیوں سے بھرا ہوا ہے مرزا صاحب اور ان کے متبعین کو جاننا چاہیے کہ مرزا صاحب کے قصیدہ اعجازیہ کے اشعار کو دیوان متبنی کے اشعار سے کوئی نسبت بھی نہیں۔ ممکن ہے کہ قادیان کے کچھ وہقان مرزا صاحب کے قصیدہ اعجازیہ پر ایمان لے آئیں۔ مگر ذرا دنیا کے ادباء اور شعراء کے سامنے پیش کر کے دیکھیں ابھی معلوم ہو جائے گا کہ قادیان کے وہقان کا کیا ہڈیان ہے۔ فنلک عشرہ کاملہ

اس وقت ہم فقط ان دس مدعیان نبوت کے قتل اور صلب کے واقعات پر اکتفا کرتے تھے۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل تر سیدم
کہ دل آزرده شوی ورنہ سخن بسیار است

اجمالی انواع کفر مرزا غلام احمد قادیانی

مرزا صاحب کے کفر کی جزئیات کا شمار تو ہماری حیث قدرت سے باہر ہے۔ واللہ بکل شی محیط البتہ مرزا صاحب کے کفر کے کچھ انواع کلیہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جس کے تحت میں بے شمار جزئیات ہیں جو مرزا صاحب کے کتابوں میں مذکور ہیں۔

- (۳) انکار معجزات عیسوی کہ بنصوص قرآنیہ ثابت شدہ اند
- (۴) توہین انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
- (۵) انکار نزول عیسیٰ بن مریم علیٰ نینا وعلیہ وسلم
- (۶) دعوائے مساوات نبی اکرم ﷺ
- (۷) دعوائے افضلیت بر نبی ﷺ
- (۸) دعوائے افضلیت پر جمع انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
- (۹) نصوص قطعیہ اور عقائد اسلامیہ میں تحریف
- (۱۰) قطعیات اور متواترات اور اجماعیات کا انکار

فتلک عشرۃ کاملہ

یہ دس وجوہ ہم نے مرزا صاحب کے کفر کی ذکر کی ہیں وہ سب کلی وجوہ ہیں۔ ہر کلی کی جزئیات اور امثلہ مرزا صاحب کی کتابوں سے کم از کم سو سو فراہم ہو سکتی ہیں اور دس کو سو میں ضرب دینے سے حاصل ضرب ایک ہزار نکلتا ہے۔ اس طرح مرزا صاحب کی وجوہ کفر تفصیلی طور پر کم از کم ایک ہزار جمع ہو سکتی ہیں۔ مرزا صاحب نے اپنے نشانات کی تعداد دس لاکھ لکھی ہے۔ عجب نہیں کہ ان دس لاکھ نشانات سے کفر اور الحاد کے نشانات مراد ہوں جو اولین اور آخرین میں سے کسی طہ اور مفتری کو نہیں دیئے گئے۔

مرزائیوں کے مختلف فرقے اور ان کا باہمی فرق

مرزا غلام احمد کے ماننے والے زیادہ تر تین پارٹیوں پر منقسم ہیں ایک پارٹی ظمیر الدین اردوپی کی ہے۔ دوسری مرزا محمود قادیانی کی پارٹی ہے۔ اور تیسری پارٹی محمد علی لاہوری کی ہے۔

اردوپی پارٹی کا عقیدہ ہے کہ مرزا صاحب مستقل نبی تھے اور ناخ قرآن تھے اور شریعت محمدیہ مرزا صاحب کے آنے سے منسوخ ہو چکی۔

مرزا محمود خلیفہ قادیان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا صاحب حقیقی نبی ہیں اور جو مرزا کو نہ مانے وہ کافر ہے۔

اور محمد علی لاہوری اور اس کی پارٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا صاحب حقیقی نبی تو نہیں مگر مجازی اور لغوی نبی ہیں اور مسیح موعود حقیقی ہیں۔
اول الذکر جماعتوں کا کفر لوگوں کی نظر میں ظاہر ہے۔ البتہ لاہوری جماعت میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جماعت کیوں کافر ہے؟

جواب

یہ ہے کہ مرزا غلام احمد کے عقائد کفریہ صریح اور صاف ہیں اور اردو زبان میں ہیں جس کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں اور پھر ہر کفر سو سو عنوان اور سو سو تعبیر سے مرزا کی کتابوں میں مذکور ہے جس میں تاویل کی کوئی گنجائش نہیں ایسے صریح کفر میں تاویل کرنا اور صریح کافر اور مرتد کو ادنیٰ درجہ کا مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے۔ چہ جائیکہ اس کو مجدد یا مسیح موعود مانا جائے۔

نیز مرزا غلام احمد فقط دعوائے نبوت کی وجہ سے کافر نہیں بلکہ اور وجوہ سے بھی کافر ہے۔ اور لاہوری جماعت سوائے دعوائے نبوت کے مرزا کی تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے اور دل و جان سے ایمان رکھتی ہے۔

علاوہ ازیں محمد علی لاہوری نے انگریزی اور اردو میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے جس میں بہت سی آیات قرآنیہ کی تحریف کی وہ تحریفات اس جماعت کے کفر کے مستقل وجوہ ہیں۔

لاہوری مرزائیوں سے سوال

اگر مرزا صاحب حقیقی نبوت کے مدعی نہ تھے تو یہ بتلایا جائے کہ حقیقی نبوت کا دعویٰ کن الفاظ سے ہوتا ہے اور نبی اکرم ﷺ تو مرزا صاحب کے نزدیک بھی حقیقی نبی تھے جو الفاظ حضورؐ کی نبوت کے لیے قرآن کریم میں آئے ہیں وہی الفاظ مرزا صاحب نے اپنے لیے استعمال کئے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ مرزا صاحب حقیقی نبوت کے مدعی نہ تھے صریح مکابہ اور مجادلہ ہے۔ ایک شخص صراحتاً "علی الاعلان یہ کہہ رہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی مراد علی اور

بروزی اور مجازی اور لغوی وزارت ہے۔ مرزا صاحب کے دعوائے نبوت کی عبارتیں عموماً "اروہ زبان میں ہیں کیا سوائے محمد علی لاہوری کے کوئی اروہ زبان سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔

(۲) اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ مرزا صاحب نے نبوت حقیقیہ کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ نقلی اور بروزی اور مجازی نبوت کے مدعی تھے تو بتلایا جائے کہ نقلی اور مجازی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کا انکار کفر اور ارتداد ہے۔

(۳) نیز یہ بتلایا جائے کہ لاہوری جماعت اس گروہ کو جو مرزا کو حقیقتہً "نبی مانتی ہے جیسے بشیر الدین محمود اس کی تکفیر کیوں نہیں کرتی، لاہوری جماعت کو چاہیے کہ قادیانی جماعت کے کفر کا اعلان کرے اور ان سے بیاہ شادی اور میراث کے عدم جواز کا فتویٰ دے۔ لیکن معاملہ برعکس ہے۔ جو لوگ حضور کو صحیح معنی میں خاتم النبیین مانتے ہیں لاہوری جماعت ان سے کافروں کا سا معاملہ کرتی ہے اور کسی مرزائیہ لڑکی کا نکاح غیر مرزائی سے جائز نہیں سمجھتی اور نہ ان کے پیچھے نماز درست سمجھتی ہے اور قادیانی جماعت سے یہ بیاہ شادی و میراث وغیرہ سب کو جائز اور حق سمجھتی ہے۔

(۴) نیز اگر آپ کے نزدیک مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں بھی نہیں دیں اور آنحضرت ﷺ کی مساوات بلکہ افضلیت کا بھی دعویٰ نہیں کیا اور کیا مرزا صاحب نے اسلام کے قطعی اور اجماعی امور میں تاویل اور تحریف بھی نہیں کی۔

کیا ان باتوں سے آوی کافر اور مرتد ہوتا ہے یا نہیں بلاشبہ مرزا صاحب ایک وجہ سے نہیں بلکہ صدہا وجوہ سے مرتد کافر اور مرتد ہیں۔ لاہوری مرزائی اگرچہ ظاہراً "مرزا صاحب کو نبی نہیں کہتے لیکن دعوائے نبوت کے علاوہ تو مرزا کی تمام کفریات کو حق سمجھتے ہیں اور جو شخص مرتد کافر کو کافر نہ سمجھے تو وہ بھی کافر اور مرتد ہے۔

مثلاً کوئی شخص میلہ کذاب کے کفر میں تاویل کرے تو وہ بھی کافر ہے۔

لاہوری جماعت کا عجیب حال ہے

کہ مرزا صاحب کو ملہم اور مامور من اللہ بھی مانتی ہے اور ان کے خاص دعوائے نبوت سے انکار بھی کرتی ہے۔ قادیان کے منتہی سے بھی وابستہ رہنا چاہتی ہے اور مسلمان رہنا چاہتی ہے۔

اس خیال است و محال است و جنون

قادیانی جماعت سے سوال

جب آپ کے نزدیک مرزا حقیقتہ "نبی ہے تو پھر آپ لاہوری جماعت کی تکفیر کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کے اعتقاد کے مطابق ایک حقیقی نبی اور رسول کے منکر ہیں حیرت ہے کہ مرزا محمود کے نزدیک تمام دنیا کے مسلمان جو مرزا کو نبی نہ مانیں وہ تو کافر اور مرتد ہیں۔ مگر محمد علی لاہوری اور ان کے تبعین اگرچہ مرزا صاحب کی نبوت کا انکار کریں وہ کافر اور مرتد نہیں بلکہ بھائی بھائی ہیں۔

آخر مرزا محمود بتلائیں کہ وہ لاہوریوں کو کیوں کافر نہیں کہتے۔ آخر وہ بھی ہماری طرح مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے۔

معلوم ہوا کہ

قادیانیوں کا یہ اختلاف سب جنگ زرگری اور نفاق ہے۔ اختلاف عقائد کی بناء پر دنیا بھر کی تکفیر نہ ہو آخر اس کا مطلب کیا ہے کہ لاہوری مرزا صاحب کو نبی نہ مانیں تو کافر نہیں اور تمام دنیا کے مسلمان مرزا صاحب کو نہ ماننے کی وجہ سے کافر اور مرتد ہیں۔ معلوم ہوا کہ قادیانی اور لاہوری درپردہ سب ایک ہیں۔
(الكفر ملة واحدة)

اصل وجہ یہ ہے

کہ جب لاہوری جماعت نے مرزا صاحب کو مسیح موعود اور مامور من اللہ

مان لیا تو گویا نبی ہی مان لیا بلکہ سب کچھ مان لیا۔ ہمارے نزدیک محمد علی لاہوری منافق تھا مرزا محمود منافق نہیں۔ صاف کہتا ہے کہ میرا باپ حقیقتہً "نبی تھا۔ اور لاہوری جماعت بہ نسبت قادیانی جماعت کے زیادہ خطرناک ہے نفاق کے پردہ میں اپنے کفر کو چھپاتی ہے۔

مرزا صاحب کے تھیلے میں سب کچھ ہے

مرزا صاحب کی تصانیف میں سب قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایمان کی بھی اور کفر کی بھی۔ اسلام اور عیسائیت اور ہندو مذہب اور مجوسیت سب کچھ ہے۔ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوئی وہ پیش کر دی۔ لوگ اس سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ مرزائیوں کا یہی طریقہ ہے۔ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں مرزا صاحب کو مجذد اور ملہم من اللہ بتلایا۔ اور جہاں کچھ گنجائش ملی وہاں مرزا صاحب کو نلی اور بروزی نبی بتلایا اور جہاں احباب خاص کا مجمع ہوا وہاں مرزا صاحب کو مستقل اور صاحب شریعت نبی بتلایا اور دس لاکھ معجزات بتلادیئے اور جہاں ہندوؤں کا مجمع ہوا وہاں مرزا صاحب کو کرشن بتلایا۔ کبھی مذکر ہو گئے اور کبھی حاملہ اور حائضہ اور کبھی عاقل اور دانابن گئے اور کبھی خبطی اور مراقی بن گئے۔

مرزائی دھوکہ

مرزائی دھوکہ دینے کی غرض سے مرزا صاحب کی وہ عبارتیں پیش کرتے ہیں جن میں ختم نبوت کا اقرار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر اور عظمت شان کا اعتراف ہے اس قسم کی عبارتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ عبارتیں جن میں دعوائے نبوت اور حضرات انبیاء کرامؑ کی توہین اور تحقیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان مطہر میں صریح گالیاں ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں۔ یہود بے بہود کا یہی شیوہ تھا۔ تبولنھاوتخفون کثیرا۔

جواب یہ ہے کہ مرزا صاحب ماں کے پیٹ سے کافر پیدا نہ ہوئے تھے۔ ابتداء میں اسلامی عقائد رکھتے تھے۔ بعد میں نبوت کا خیال پیدا ہوا۔ لہذا پہلی عبارتوں کا پیش کرنا تب مفید ہو سکتا ہے کہ جب مرزائی۔ مرزا صاحب کی کوئی صاف اور صریح عبارت ایسی دکھلا دیں کہ جس میں یہ تصریح ہو کہ میری کتاب میں اس کے خلاف جو پاؤ وہ سب غلط ہے۔ صحیح صرف وہی ہے کہ جو میں نے قبل دعوائے نبوت لکھا ہے اور اب دعوائے نبوت سے تائب ہوتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گالیوں اور حضرات انبیاء کی توہین سے توبہ کرتا ہوں۔

مرزائی اگر مرزا صاحب کی کوئی ایسی عبارت دکھلا دیں تو ہم بھی ان کی تکفیر سے تائب ہو جائیں گے۔

ایک ضروری اطلاع

مرزا صاحب کے وجہ کفر اگر تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو رسالہ اشد العذاب علی میلۃ الغناب معنفہ مولانا مرتضیٰ حسنؒ کا ضرور مطالعہ فرمائیں جس میں مولانا صاحب نے مرزا صاحب کے اور تینوں پارٹیوں کے عقائد کفریہ کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔

مرزا صاحب کے مضامین میں اختلاف کیوں ہے

مرزا صاحب کے کتابوں میں جس قدر مختلف اور متعارض مضامین ملتے ہیں۔ غالباً دنیا کے کسی متنبری اور کسی لٹھ اور زندیق کے کلام میں اس کا ہزارواں حصہ بھی نہیں مل سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ مرزا صاحب چالاکی اور عیاری میں بہت سے آگے تھے۔ مرزا صاحب کی یہ روش دیدہ دانستہ اور خود ساختہ اور پرداختہ ہے۔ کبھی ختم نبوت کا اقرار اور کبھی انکار کبھی حضرت مسیح بن مریم کی مدح اور کبھی ان میں جرح قدح کبھی نزول مسیح کو متواترات اور قطعیات اسلام سے بتلاتے ہیں۔ اور کبھی اس کو مشرکانہ عقیدہ بتلاتے ہیں۔ غرض یہ تھی کہ حقیقت کوئی

متعین نہ ہو۔ بات گڑبڑ رہے۔ اور بوقت ضرور مخلص اور مفر باقی رہے اور زنادقہ کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔ لہذا مرزا صاحب کی وہ عبارتیں جو عام اہل سنت و الجماعت کے عقائد کے مطابق ہیں۔ ان کے اقوال کفریہ اور الحادیہ کا کفارہ نہیں بن سکتیں جب تک دو باتیں صراحتہ "ثابت نہ ہو جائیں اول یہ کہ مرزا صاحب یہ تصریح کریں کہ میری وہ عبارتیں جو عام اہل سنت کے مطابق ہیں ان عقائد سے میری مراد بھی وہی ہے جو جمہور امت نے کبھی ہے۔ دوم یہ کہ جو عبارتیں اہل سنت و الجماعت کے عقائد کے خلاف میری کتابوں میں پائی جاتی ہیں میں ان سے علانیہ طور پر توبہ اور رجوع کرتا ہوں اور کتاب و سنت کی تمام نصوص کو اسی معنی پر مانتا ہوں کہ جس معنی کے اعتبار سے صحابہ و تابعین سے لے کر اس وقت تمام امت محمدیہ قائل ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی مدح و ثنا بھی کرتا رہے اور اس کی اطاعت اور محبت کا بھی دم بھرتا رہے۔ لیکن کبھی کبھی ذرا دل کھول کر اس کو ماں بہن کی گالیاں بھی دے لیا کرے تو کیا ایسا شخص واقعی اس کا مطیع اور قمع سمجھا جاسکتا ہے۔؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و علینا معهم یارحم الرحمن (محرم الحرام ۱۳۷۳ھ)۔

قاضی احسان احمد شجاع آبادی

سوانح و افکار

محمّد اسماعیل شجاع آبادی	مرتبہ
خطبات امسک	باب اول
مکتوبات امسک	باب دوم
نگارشات امسک	باب سوم
اکلبرین ملت کا ضراج تمسین	باب چہارم
منظوم ضراج عقیدت	باب پنجم
قومی پریس کا ضراج تمسین	باب ششم
پسنریدہ اشعل	باب ہفتم

پاکستان کے سب سے بڑے خطیب کے سوانح و افکار - لفظ لفظ عشق رسالت
میں ڈوبا ہو علوم و معارف کا خزانہ خطباء و مقررین کے لئے شاہکار تحفہ -
عقرب منصفہ شہود پر!

ناشر

دفتر - عالی مجلس تحفظ ختم نبوت حضور بلغ روڈ ملتان - 514122

دفتر - عالی مجلس تحفظ ختم نبوت مسلم ٹاؤن لاہور - 5862404

مجلس کے دفاتر اور قریبی بک سٹل سے طلب فرمائیں۔